

# ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

# ਪੰਜਾਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

# PUNJABI UNIVERSITY

# PUNJABI-PERSIAN DICTIONARY

# فرہنگ پنجابی - فارسی - دانش گاہ پنجابی

# ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ


ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪੰਜਾਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਕੋਸ਼

PUNJABI UNIVERSITY  
PUNJABI-PERSIAN  
DICTIONARY

دانش گاہ پنجابی

فرہنگ پنجابی-فارسی



ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  
ਪੰਜਾਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਕੋਸ਼

PUNJABI UNIVERSITY  
PUNJABI-PERSIAN  
DICTIONARY

دانش گاہ پنجابی  
فرہنگ پنجابی-فارسی

ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ



ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ  
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

©

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ  
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

PUNJABI-PERSIAN DICTIONARY

by  
*Prof. Gulwant Singh*

ਪੰਜਾਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਕੋਸ਼

ਸੰਕਲਨ ਕਰਤਾ

ਪ੍ਰ.: ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਬੁਲਸੀਤ ਚੀਮਾ

ISBN 81-7380-465-6

1998

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : 1100

ਮੁੱਲ : 230-00

## ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਪਰਮਾਣੁਕ ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪੰਜਾਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਕੋਸ਼ਲ' ਉਸੇ ਦੀ ਇਕ ਕੱਝੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੁਚਤਾ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਸ਼ੁਰੂਪ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਰਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਜੇਗ ਅਤਿਕਬਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਨੈਕੁਲਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਸ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੁ ਵਰਨੈਕੁਲਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਜਤਨ ਘਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਫਲਾਰ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਕੋਸ਼ਲ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੋਹਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਜੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਚਿਤ 'ਹੀਰ', ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਰਚਿਤ 'ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ', ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਰਚਿਤ 'ਰੂਪ ਬਸੰਤ', ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ 'ਤਰੇਲ ਤੁਪਕੇ' ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਰਚਿਤ 'ਜਾਨੀ ਚੋਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਕਰਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਕੋਸ਼ਲ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਇੰਦਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਮਹਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਜ਼ੀਲ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਯਥਾਯੋਗ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।



## ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਗਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਹੀ ਸੰਨ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਲੜੀ, ਸਾਹਿਤ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਲੜੀ, ਪ੍ਰਗਤਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸੰਪਾਦਨ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ-ਕੋਸ਼ (ਦੋ ਸੰਸਕਰਣ), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਚਾਰ ਸੰਸਕਰਣ), ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਰਨਾਮਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। 'ਡਾਰਸੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼' ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 'ਡਾਰਸੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼' ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬੀ-ਡਾਰਸੀ ਕੋਸ਼' ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼', 'ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਸ਼' ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੈਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਜ਼ਾਰਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹੱਥਲੀ ਰਚਨਾ 'ਪੰਜਾਬੀ-ਡਾਰਸੀ ਕੋਸ਼' ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਦਰਾਜ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਅੱਠ ਅੱਠ ਨੌ ਨੌ ਨੌ ਡਾਰਸੀ ਅਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਡਾਰਸੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼' ਵਾਂਗ 'ਪੰਜਾਬੀ-ਡਾਰਸੀ ਕੋਸ਼' ਵੀ ਮੁਢਲਾ ਜਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੋਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖੁਗਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ. ਮਨਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੇ ਅਤੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾਜ-ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਖਰ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੂਫ-ਰੀਡਰ ਡਾ. ਸੁਗੰਠ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜ਼ੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਛਪਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਆਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਜਤਨ ਦਾ ਸੁਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ।



## ਛਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ

ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਖੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੁ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਰਿਵਰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤਕ ਛਾਰਸੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਥਾਨਿਕ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਨਾਇਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਰਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਮਰ ਨਾਥ ਅਕਬਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕੌਸ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦਯਾਰ ਨੂੰ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ-ਦੇ-ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ' ਲਿਖਣ ਦੀ ਝਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਵੀ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵੀ-ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ-ਸਰੂਪ ਅਹਿਮਦਯਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੰਦਾਵਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਣ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਹੇ ਤੇਜਸਵੀ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਪਰਸੰਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਹਿਮਦਯਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਗਜ਼ਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਪਰ ਅਵੱਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਰਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਨੀਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਗਜ਼ਨੀਨ-ਦੇ-ਖੁਰਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗਜ਼ਨੀਵੀ ਰਾਜ-ਵੈਡਵ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਰਸੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤੱਮ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਤੱਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟਾ ਲਈ ਛਾਰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਟ, ਠ, ਡ, ਢ, ਟ, ਢ, ਝ, ਘ, ਥ ਅਤੇ ਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਆਵਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਿਪੀ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਤੰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ

ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰੁਪਣ ਲਈ ਛਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਬੋਧਿਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਿਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੁ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਛਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗ ਜਿਸ ਪਰਵੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਅਲੀ ਹੈਦਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੁ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਵਾਂਗ ਤਕਾਨੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਛਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਉਤੱਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਡੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਛਾਰਸੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਸ਼ਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਖਕ ਪਰਸੰਗ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਸੈਫ-ਉਲ-ਮਲੂਕ' (ਗਜ਼ੀ ਮੀਲਕ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੰਸਕਰਣ) ਦੇ ਪੰਨਾ 73 ਉਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਇਸਕ ਨਹੀਂ ਇਕ ਵੇਖਣ ਉਤੇ

ਸੁਣੀਆਂ ਭੀ ਉਠ ਲਗਦਾ

ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ :

ਨ ਤਨਹਾ ਇਸਕ ਅਜ਼ ਦੀਦਾਰ ਮੇਜ਼ਦ

ਬਸਾ ਕੀ ਦੌਲਤ ਅਜ਼ ਗੁਫਤਾਰ ਮੇਜ਼ਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਫਿਰਦੋਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਜਾਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕਰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ-ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਰ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਚਾਵਲ ਲਈ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪਸੋਂ ਦਾਲ ਹਤਫ ਨੇ ਪਾਈ।

ਕੋਗਨ ਖੁਸਰੇ, ਨਮਕ ਅਸਾਡਾ ਖਿਚੜੀ ਅਜ਼ਬ ਪਕਾਈ।

ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਫ-ਉਲ-ਮਲੂਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾ-ਮਾਰਗ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਾਰ ਨੀਜ਼ਾਪੁਰੀ ਨੇ 'ਮਾਨਤਕ-ਉਲ-ਤੈਰ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਸੰਗਸਾਰ', ਅਤੇ ਪੰਡੀ 'ਕੋਹ ਪੈਕਰ' ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਫਿਰਦੋਸੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਾਲ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਯੁਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਰਚਿਤ ਸਿਕੰਦਰਨਾਮਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਯੁਪ-ਪਰਕਰਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵੀ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਲੈਲਾ ਮਜ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਜੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਾਰਸੀ-ਅਰਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਲੰਮੇਰੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਸਨਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦਯਾਰ 'ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ—ਏ—ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

**ਬੁੰਧਾਬੀ ਅੰਦਰ ਬਸਾ ਮਸਨਵੀ**

**ਕੁਠਨ ਕਿੱਸਾ ਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਸਵਤ ਨਵੀ**

ਛਾਰਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਵਿ—ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਯਥਾ ਕਸੀਦਾ, ਮਸਨਵੀ, ਗਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੁਬਾਈ। ਕਸੀਦਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਾਵਿ—ਸਮਰਗਰੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੂਰਣ ਕਸੀਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਗਜ਼ਲ ਪ੍ਰੇਮ—ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਵਿ—ਰੂਪ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸੈਫ—ਉਲ—ਮਲੁਕ ਵਿਚ ਪਰਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗਜ਼ਲ—ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਬਾਈ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ—ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਬਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਦ—ਚੇਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਸ਼ਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਈਆਂ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ, ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਰਾਤ੍ਰੀਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਵਾਰਾ ਨੇ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਸੰਧ ਰੁਬਾਈ ਲੇਖਕ ਉਮਰ ਖਿਆਮ (KHAYYAM) ਦੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੱਖਲੁਸ (ਕਾਵਿ—ਉਪਨਾਮ) ਅਤੇ ਸਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛਾਰਸੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਰਚਲਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਯੁਮਨ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਸਤਾਕ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਲਿਮ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਛਾਰਸੀ ਕਾਵਿ—ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੱਧ—ਕਾਲੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ—ਕਰਮ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦਯਾਰ 'ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ' ਕਹਿ ਦੇ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ 'ਗੀਰ—ਰਾਂਝਾ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਇਹ ਮਾਈਨੇ ਪਕ ਕੁਠਨ ਦੇ ਨੇ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਆਰ ਮੀਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ

ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ 'ਸੈਫ—ਉਲ—ਮਲੁਕ' ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਆਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਹੋਏ ਲਸੀਬ ਨਥੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ  
ਲਾ ਇਲਾ ਇੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸਰ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਰਸੀ—ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਛਾਰਸੀ—ਅਰਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛਾਰਸੀ—ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਰਸੀ—ਅਰਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ—ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਅਰਬੀ—ਛਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਵੇਂ 'ਇਲਮ', 'ਫਿਅਲ', 'ਹਾਸਿਲ—ਮਸਦਰ', 'ਮੁੱਕਕਰ', 'ਸਿਫਤ', 'ਮੌਸੂਫ', 'ਛਾਇਲ', ਇਤਿਆਦਿ ਲਫਜ਼ ਅਰਬੀ—ਛਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਲਿੰਗ', 'ਵਚਨ', 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ' ਅਤੇ 'ਕਿਰਿਆ' ਦੇ ਪਰਯੋਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੱਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਰਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓ ਯਾਰ /

ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ 'ਇਲਮ' ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਕੀ ਰੂਪ 'ਇਲਮੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

- ਗੁਲਵੰਡ ਸਿੰਘ

عسٹڈ (ن) است (ایلی)

ستایش - حدوثا۔ سپاس - شکر۔ نعمت

عسٹڈ کرنی (آمیڈ کی) است کرنی (آمیڈ کی)

ستاییدن - تمجید کردن - حمد کردن - ستایش کردن

آنطور (مسن) اس طرحانہ ترزاں

عسٹڈا (پ) استرا (پ)

موسی - موس - زرنگ - چست - چالاک - حیله گر  
ماہر

عسٹڈا ڈرنا (آمیڈ کی) استرا پھیرنا (آمیڈ کی)

استردن - تراشیدن - گول زدن - مغون  
کردن

عسٹڈا مارنا (آمیڈ کی) استر اڑانا (آمیڈ کی)

عس توں (پڑ) اس توں از او

عس نال (پڑ) اس نال با او

عس نوں (ہوا کا سلا) اس نوں دی را

عس رئیا (ہی) اسر کیا معمدار - سازندہ

عس لئی / عس واسطے (سڑ) اس لئی راس واسطے برائی او - بجست او - بخاطر او

عس لہوت (پ) اس لہوت

بی قراری - اضطراب

عس ویلے (کی ہی) اس ویلے

آن گاہ - آن زمان - آنوقت

از ان باز (کی ہی) اس ویلے توں تے

عساری (ن) اساری (ایلی)

- اختیارن - ساخت - بناء - تعمیر - عمارات

تعیر (آمیڈ کی) اساری کرنی (آمیڈ کی)

شوخی فریب آمیز (پ) آمشڑ او (آل مرد) - وی

عہ / عس (پڑ) اوہہ اس عہناں (پڑ) اوہہاں

آہا - (آنکہ) - آہا - (آنہای کر) - ایشان  
عہنہ (پڑ) اوہہنوں (پڑ) اوہہنہ

او را (آل کس را) - بہ او - بادو (بہ آل مرد) - بدرو  
عکس اٹلنا (آمیڈ کی)

تھیج کردن - وادار کردن - تشوائق کردن - آغاردن -

و گرم کردن - جرأت دادن - اسخن - تحريك کردن

برانگریزیدہ - سینچ - محرك (ہی) اکس اڑا عہلنا (آمیڈ کی)

اعینختگی - بر افروختگی - انگیزش - تحريك - اختاب

عکس اٹلنا (آمیڈ کی) آکنار اُک جانا / عکس جانا (آمیڈ کی)

خطا کردن - نزدن - نگرفتن - گمراہ شدن - اصابت  
نکردن - بجای نزیدن

عکس (ہی) اکت

مذکور - مزبور - نامبردہ - پیش گفتہ

عکس اٹلنا (آمیڈ کی)

دل سرد شدن - دل نگ شدن - خشمگین شدن -

وقات تلخ شدن - سرد مر شدن

عکس اٹلنا (ن) اکتاہٹ

سرد مری - خون سردی - بی علاجی - بی طبعی - افرادگی

عکس ذی (ن) اکتی (ایلی)

کلمہ - جملہ - عبارت - گفتار

|  |  |
|--|--|
| عیوچرنا (آگر ئا) امیڈ کی                         | فرابهم کردن۔ جمع کردن۔ دریافت نمودن۔         |
| شبت کردن۔ کندہ کاری کردن در۔ حکاکی کردن          | وصول کردن                                    |
| عیوچردا عیلانا (آگر و اونا) امیڈ کی              | عیوچرنا (آگر ای) ایسٹلی                      |
| شبت کناییدن۔ حکاکی کناییدن۔ کندہ کاری کناییدن در | جمع آوردی۔ فراہم آوری۔ وصول۔ پول دریافتی۔    |
| یکسر۔ کاملا۔ تماں۔ لکھی (کی) (ہی)                | انگشت  |
| عیوانا عیلانا (آگر و اونا) امیڈ کی               | عیوچلنا (آگلچھمنا) امیڈ کی                   |
| حذف کناییدن۔ دل کناییدن۔ غفلت کناییدن۔           | قی کردن۔ پروان انداختن۔ برگر داندن           |
| عیوچر۔ حکاک (ا) (نہ) اکیرا                       | عیوچلنا (آکلن) امیڈ کی                       |
| عیوچردا عیلانا (آگر و اونا) امیڈ کی              | عیوچلنا نال کوئی چیز پھرنسی                  |
| کندن کناییدن۔ برکندن کناییدن۔ قلع قمع کناییدن    | چنگ زدن (آگلائی) امیڈ کی                     |
| عیوچیا ای آیا (نہ) ایسٹلی                        | عیوچی کرنی کرنی (آگلی کرنی) امیڈ کی          |
| عشارت۔ عشرت۔ ڈشواری                              | اشارة کردن۔ نفرین کردن۔ دلالت کردن۔ نقطہ     |
| صعب (ا) (ہی) اکھایاں (نہ) ایسٹلی                 | گزاری کردن۔ تھمت کردن۔ نشان دادن۔ تمہ        |
| عیوچلنا (آگر و اونا) امیڈ کی                     | ساختن۔                                       |
| فتریدن۔ فاییدن۔ کندن۔ برکندن                     | عیوچلی (آگلی رئی) دئنی                       |
| عیوچلنا / ہپننا (آگنار و دھنا) امیڈ کی           | تحمیک کردن۔ باصرار و ادار کردن۔ ایجھن۔       |
| ریخیدن۔ رستن در و سیدن۔ افزون نمودن۔ زیادہ کردن  | عیوچلی در حرفی پڑنی                          |
| عیوچملا (آگن) اکیڈ کی                            | انتخاب کردن۔ اختیار کردن۔ برگزیدن۔ گزیدن۔    |
| پریدار شدن۔ ظاہر شدن۔ طلوع شدن۔ برآمدن           | پسند کردن                                    |
| عیوچر (ا) (ہی) اگر                               | عیوچلی نا چکنا (آگلی نہ چکنا) امیڈ کی        |
| تند۔ شرزہ۔ شدید۔ ستم کار۔ خشم آکود               | پیچھتن۔ تسلیم شدن۔ رضایت دادن۔ مراجعت کردن۔  |
| عیوچردا (آگر ئا) ایسٹلی                          | عیوچلی ڈھنی (آگلی پھرنسی) امیڈ کی            |
| تند خوی۔ درندہ خوی۔ سیعیت۔ بے رجی                | مد کردن۔ ہمدرتی کردن۔ پشتی کردن۔ مساعدت کردن |
| عیوچرنا (آگر ئا) امیڈ کی                         | انگلی موخہ و چچا پاؤںی                       |
| تاب دادن۔ گرداندن۔ آختن                          | محیر شدن۔ مجھب شدن                           |
| عیوچرنا (آگر اپن) امیڈ کی                        | عیوچلی لئنی (آگلی لئنی) امیڈ کی              |

شرارت کردن - دو هم زنی کردن - نفاق اند اختن  
عیغاشیلنا گھٹی (آمیت کی)

رستانیدن - سبب روئیدن شدن  
عیغاشیلداں (پ) گھالداں (ن) گھالداں (پ)

لشوار  
عیغاشیلی (ن) گھالی (ن)

خسیدن  
عیغاشیلی کرنی (آمیت کی)

روئیدگی - بالیدگی  
عیغاشیل (ن) گھا (پ)

عیغاشیل سُعْدَ (ن) گھاسُدَ

اثر - نشان - سراغ - سر رشتہ - آگاهی  
عیغاشیل - عیغاشیل / عیغاشیل - عیغاشیل (ہ)

اگھڑو گھڑیاں مارنا مارنا  
زیر و بالا گھنن - سخنان لاطائل گھنن  
(آمیت کی)

## عیغاشیل (ہ)

متاز - معروف - بلند - عالی - والا  
عیغاشیل (ہ) / اچھتی (ہ)

بلند ترین - برترین - عالی ترین - بزرگ ترین -  
بترین - خوب ترین

تفوق - برتری - سلط  
عیغاشیل (پ) (ن) اچھتا (پ)  
عیغاشیل (پ) اچھا (پ)

رفعت - بلندی - ارتفاع - سرفرازی - علو - فراز  
عیغاشیل (پ) (ن) اچھا تھان (پ)

حالت  
عیغاشیل مسماں پر اپت کرنا  
عیغاشیل مسماں پر اپت کرنا  
حائز مقام بودن  
(آمیت کی)

عیغاشیل اچھا سورہ (ن) اچھا (پ)  
عیغاشیل مُعْلِن (آمیت کی)

بلند شنیدن - ثقل سمع  
عیغاشیل ہولنا اچھوڑنا (آمیت کی)

صعود کردن - بالا رفتن - برآمدن - قد کشیدن  
عیغاشیل کرننا اچاکرنا (آمیت کی)

دو بالا کردن - بلند کردن - افراشتن  
عیغاشیل نیہاں ہولنا ہونا (آمیت کی)

نزاع کردن - سیزہ کردن - دعوی کردن - جمیعدن  
عیغاشیل "پیوی وجود" (ہ) اچھا پسندی دھنے

بلند پایہ - عالی مقام  
طازم - طارم (ہ) اچھا کان

تنظیم  
عیغاشیل مارنا (ن) گھارنا  
عیغاشیل میلی (ن) اچھارن گھی (ن) ایلی (ن)

آپنگ - وضع تکم  
عیغاشیل (آمیت کی) اچھوڑنا

فرازیدن - افراشتن - بلند کردن  
سر بالائی - بلندی (ن) اچھائی (ن) اچھائی (ن) ایلی (ن)

شواغ (ہ) ہوا (ن) اچھائیاں (ن) اچھائیاں (ن)

فراخور - مناسب - سزاوار - قابل (ہ) اچھت  
حلال (ہ) اچھت / جائیج / جائز  
روداشنا (آمیت کی) اچھت سمجھنا  
عیغاشیل (آمیت کی) اچھت ہونا (آمیت کی)

در خوردن - روابودن - مناسب بودن  
جواز - باحت  
عیغاشیل (آمیت کی) اچھت (آمیت کی)

پرش ارتفاع  
عیغاشیل ہلاں (ہ) اچھی چھال (ہ)

نظلف  
عیغاشیل سان (ہ) اچھی تھاں (ہ)

زیباد  
عیغاشیل صرفتی (ہ)

|  |  |
|--|--|
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | آفتابی کردن (آمیڈ کی) اجاتکرنا           |
| چال و چول                                | عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        |
| رہو (عِزْمَةِ نَيْدَىٰ)                  | آجی نیویں تھاں (عِزْمَةِ نَيْدَىٰ)       |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | آجی پڑوی حاصل کرنی گھٹل کرنا             |
| (آمیڈ کی)                                | مقام گرفتن                               |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | تکلف                                     |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | تکلف کرنا                                |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | خصوصی                                    |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | فرماں دین                                |
| فرازشدن۔ بالاترشدن۔ رسیدن بے مقام بالاتر | عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | ایچے لئے قدوالا کر دا لالا               |
| چرب قامت                                 | ریہانیدن۔ ویران کردن۔ خراب کردن          |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | ویرانی                                   |
| آبلہ دارشدن۔ تاول دارشدن                 | عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | جهیدن                                    |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | بدبو                                     |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | غلاف                                     |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | غلٹ                                      |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | خیزیدن۔ برخاستن۔ استادن۔ بلند شدن۔ خاستن |
| گستاخ۔ بی ادب۔ بی باک۔ بی حیا۔ بی تربیت  | بال افسانیدن۔ پریدن                      |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | پرانیدن                                  |
| محنتانہ۔ اجر۔ دست مزد                    | عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | پریش۔ پرواز                              |
| مزدداون۔ مزدگرفتن۔ مزدیافتان             | عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | پرندہ                                    |
| لطیف۔ روشن۔ نورانی۔ پاک۔ صاف۔ زیبا       | عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        |
| خانہ کن شدن۔ جاہی                        | انتظار                                   |
| عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        | منتظر۔ راقب                              |
| آفتابی شدن (آمیڈ کی) اجاتکرنا            | عِزْمَةِ نَيْدَىٰ                        |
|  | دیدہ براہ داشتن                          |
|  | دو شوار                                  |

|      |                                |                                     |  |
|------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| عیان | (ہ) انجمن                      | چم و نہم                            | خلیفہ - قائم مقام                            |
| عیان | (ہ) انجما                      | چم و نہ                             | جواب دہ                                      |
| عیان | (ہ) انتاکی                     | کی و نہ                             | عیان   |
| عیان | (ہ) انتیواں                    | کی و نہم                            | جواب دادن - پاسخ دادن                        |
| عیان | (ہ) انتی                       | پیست و نہ                           | عیان   |
| عیان | (ہ) انتیواں                    | پیست و نہم                          | نزول کردن - فروش شدن                         |
| عیان | (ن) پو                         | جشن - تقریب                         | جواب سوال - اترپشن                           |
| عیان | (ن) پو، بھ                     | جشن ہا - تقاریب                     | عیان   |
| عیان | (ن) پو                         | جلادت                               | فرود آوردن - فرود آوریدن - فرود آمدن کنائیدن |
| عیان | (ہ) اٹشاہ                      | عیان                                | جانشین                                       |
| عیان | (ہ) اٹشاہت کرنا                | تجھیج کردن - جسور کردن - جسارت کردن | عیان   |
| عیان | (ن) پو                         | ہمت شکنی                            | شامل   |
| عیان | (ہ) اٹشاہ و رحک                | ہمت افز                             | عیان   |
| عیان | (ن) ایسٹنی                     | آفرینش                              | فک اعلا - زنج بالائیں                        |
| عیان | (ن) ایسٹنی کرنا                | عیان                                | عیان   |
| عیان | آفرید گار - خالق - آفریندہ     | صعود و نزول                         | عیان   |
| عیان | (ہ) ایسٹنی کرنا                | عیان                                | صعود - بالاروی - عروج - دامیدن               |
| عیان | خلقت کردن - خلق کردن - آفریدن  | عیان                                | شی نقل                                       |
| عیان | اتپن کرنا رپیدا کرنا           | عیان                                | سجاد کردن                                    |
| عیان | (ہ) ایسٹنی                     | خلق کردن - آفریدن - تکوین           | عیان   |
| عیان | (ہ)                            | عیان                                | فرود آمدن - نزول نمودن                       |
| عیان | فاخر - صاحب مرتبہ - عمدہ - رفع | بی صبر                              | عیان   |
| عیان | (ہ) ایسٹنی ایسٹنی              | عیان                                | بند ب فوق بالا علی                           |
| عیان | عیان                           | عیان                                | اشتعال                                       |
| عیان | (ن) ایسٹنی                     | عیان                                | عیان   |
| عیان | عیان                           | پرت کردن                            | عیان   |
| عیان | (ن) پو                         | جواب پاسخ - شمال                    | عیان   |
| عیان | (ہ) اترادھیکار                 | جواب دادن - پاسخ دادن               | اشراف  |

|                     |                                   |  |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| عیوں لے - پختہ      | اچھل چھل (نام: ایلیں)             | دور از کار - بی مقصد - مخالف قصد و ارادہ                               |
| آشوب - آشٹگی        | - بہم خوردگی - برہم زدگی          | عیوے ہوئے (آمیڈ کی)  |
| عیدگام              | مصدر (پو) (نام: پو)               | شارق شدن - طلوع کردن - برآمدن  |
| عیدضان              | افتتاح (پو) (نام: پو)             | عیوں لے (آمیڈ کی)  |
| عیدضان ہوئے         | (آمیڈ کی) اوگھاٹن ہوئے (آمیڈ کی)  | با (عاشق یا فاسق خود) گرخکن - خانہ یا شوہر خود را گذاردن و فرار کردن - |
|                     | افتتاح شدن                        |  |
| عیدضانی             | افتتاحی (ہی)                      | بی ترتیب (کیا ہی) اور گردھڑ  |
| عیدجے گا            | صنعت (پو) (نام: پو)               | قرض - نیسہ - دام - دین (پو) (نام: پو)                                  |
| عیدجے گیک           | صنعتی (ہی)                        | عیوں را اور احصار خریدنا (آمیڈ کی)                                     |
| عیدرہوں             | دلیگی (پو) (نام: پو)              | نیسہ خریدن   |
| عیداس               | افسردہ پڑھر دہ (ہی)               | عیوں را تو وہچا (آمیڈ کی)  |
| عیداس ہوئے          | (آمیڈ کی) اواس ہوئے (آمیڈ کی)     | نیسہ فروختن  |
| از دل و دماغ افتدان | - دل تگ بودن - افسرده شدن         | عیوں را دے لیا (آمیڈ کی)   |
| افسردہ دل           | عیداس ملن (ہی)                    | اقراض - قرض دادن - نیسہ دادن   |
| افسردگی - پژمردگی   | عیداسی (نام: ایلیں)               | دام و اجارہ (پو) (نام: پو) اور احصار پہ                                |
| عیداہر ان           | مثال (نام: پو)                    | عیوں را میگلانا (آمیڈ کی)  |
| عیداہر ان           | امثلہ (نام: ایلیں، ہی)            | استقراض - دام خواستن   |
| عیداہر / سُسیل      | اوار رشیں (ہی)                    | عیوں را لے لیا (آمیڈ کی)   |
| غلیق                | - دریا دل -                       | اقراض - قرض گرفتن - عاریت گرفتن - استقراض -                            |
| عیداہر چیت          |                                   | دام گرفتن -  |
| وسیع القلب          | - آزاد منش - آزاد مشرب - بلند نظر | انگوکردن   |
| جود مرقت            | عیداہر دا (نام: ایلیں)            | انگوا  |
| عیداہر دا           | اوایت (نام: ایلیں)                | عیوں لے (نام: پو)  |
| عیداہر دا کرنی      | (آمیڈ کی) اوایت کرنی              | عینہ مہے جائیں (آمیڈ کی)   |
|                     | دل نمودن - مردی کردن              | استیناس - مانوس شدن  |
| عیداہر ویاہکتی      | (ہاکام) (آمیڈ کی)                 | ترنی   |
| راد مرد             | - راد منش                         | عینڈی (نام: ایلیں) انتی  |
| مقصد مرام           | عیداہر (نام: پو)                  | عینڈی کرنی (آمیڈ کی)   |
| عیداہر - ویرуп      | (ہی)                              | بالا رفتن  |
|                     |                                   | مسی  |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| جو شیدن - غاغل کردن               | برہم زدن - برگردانیدن                     |
| عہدال (ن: پ) اہل (ن: ن)           | جو شش                                     |
| عہدالنا (امیت کی) اہلنا           | جو شاندن                                  |
| عہدبرزدن (امیت کی) اہجڑا          | کوہہ برزدن                                |
| عہدار (ن: پ) اہمار                | بر جستگی                                  |
| عہدارنا (امیت کی) اہمارنا         | تیر کردن                                  |
| عہدم کرنا (امیت کی) عمدہ کرم کرنا | عہدم کرنا                                 |
| زئے بعن                           | زئے بعن                                   |
| عہدرانت ہو جانا                   | عہدرانت ہو جانا                           |
| (امیت کی) پیانہ پر شدن            | پیانہ پر شدن                              |
| عہد دوام (ن: ایلیں) عمر قید       | عہد دوام                                  |
| عہمیدار (ن: ایلیں) اسیدوار        | متربی                                     |
| عہمیدار (ن: ایلیں) اسیدار         | امانی                                     |
| عہد خاطر (ن: ایلکیں)              | غبار خاطر                                 |
| عہدیل - ٹولیدن (امیت کی) اجھنا    | زویلدن - ٹولیدن                           |
| عہدیلہوان (ن: پ) الحبیوال         | چیحیدگی                                   |
| عہد کرنا (امیت کی)                | عہد کرنا                                  |
| خلاف درزیدن                       | خم شدن - دولاشدن                          |
| عہد جانا (امیت کی)                | - یک بر شدن - متائل بودن - سرازیر شدن     |
| معتک بودن                         | اشکنا                                     |
| عہدال - غلطیدن (امیت کی) اہلا     | عہلاہما دے لنا (امیت کی)                  |
| عہد پلٹ (کیا) اہل پلٹ             | عہل لٹ (ن: پ) الو                         |
| زیر وزیر - بر جستگی               | زین مردہ                                  |
| عہد پلٹ ہونا (امیت کی)            | عہل پلٹ (ن: ایلیں) او سر جھومی            |
| واڑگون شدن                        | غندوگی                                    |
| عہد پلٹ کر دینا (امیت کی)         | عہل پلٹ کر دینا (امیت کی)                 |
| سد شکشن (امیت کی)                 | عہل پلٹ کر دینا (امیت کی)                 |
| عہد پلٹ کرنا (امیت کی)            | چرت زدن - دیدہ برہم زدن - غنو دن - چرتیدن |
| نشیب و فراز (ن: ایلیں)            | عہل نیچ اوج نیچ                           |
| اشلق - تھمت - بہتان (ن: ایلیں)    | عہل نیچ اوج نیچ                           |

|                            |                                  |   |
|----------------------------|----------------------------------|---|
| عیں لائی                   | (ا) اوج لائی (امیڈ کی)           | پرده - گھداری - تایید - پوشیدگی - پہائی - اختفا   |
|                            | خط بر سر کشیدن - حیض بر حور بستن | در خشندگی - تابش (ع) اوج (ن)                      |
| عیں پٹانگ بکلن کبنا        | (ا) اوٹ پٹانگ کبنا (امیڈ کی)     | اوٹ (ن) ایلیں                                     |
| چار چار زدن                | چار چار زدن                      | پناہ - پناہ گاہ - نکیہ - پشتی                     |
| جمل - شتر - سار            | جمل (ع) (ن) اوٹھ                 | آنجا  |
| دیباری                     | دیباری (ع) (ن) اوٹھ سوار         | از آنجا   |
| تاقہ - جمازہ               | تاقہ - جمازہ (ن) اٹھی            | آنگاہ   |
| عیں دی نکیل                | عیں دی نکیل (ن) اوٹھ دی نکیل     | بدانسو - به آطرف                                  |
| خطاطم                      | خطاطم                            | آنقدر   |
| ناقص - دارای کبود - ناکافی | ناقص (ه) (ن) اونا                | عیں اپرا  |
| جمال                       | جمال (ع) (ن) اوٹھاں              | بیگانہ - خارجی - اجنبی - نابلد - غریب - غیر معروف |
| عیں اوت                    | گاوی شاخ و درم (ه) اوت           | عیں اپراپن (ع) (ن) اوپراپن                        |
| دراز نفسی                  | دراز نفسی (ع) (ن) اول جلوں       | اجنبیت - بیگانگی - غربت                           |
| عیں جلوں کبنا              | عیں جلوں کبنا (امیڈ کی)          | عیں اپراپن رکھنا (کیا)                            |
| قیز کردن - پریشان گھن      | قیز کردن - پریشان گھن            | غربت داشن   |
| عیں جلوں کبواں             | عیں جلوں کبواں (ن) اول           | عیں اپرے (ه) اور پرے                              |
| خرافات                     | خرافات                           | شیار  |
| عیں اول                    | عیں اول (ن) اول                  | آخر کار   |

|                                |   |                                      |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| امیں (ہ) اسکے لیے              | لی شمار۔ لاتعداد                        | سرایت۔ درایش                         |
| امیں (ہ) است                   | خلاف حقیقت۔ نیست۔ عدم۔ بد۔ دروغ۔ ناراست | اٹر رسوخ پیدا کرنا پیدا کرنا         |
| امیں (ہ) اصلی                  | بی صبری                                 | نفوذ پیدا کردن                       |
| امیں (ہ) بالکل                 | بی صبر                                  | عینی                                 |
| امیں (ہ) ما                    | امیں (ہ) اسماں                          | امیں (ہ) اصلی                        |
| امیں (ہ) نادرہ۔ غیر معمولی     | امیں (ہ) اسادھارن                       | امیں (ہ) اسادھارن                    |
| امیں (ہ) مارا                  | امیں (ہ) انسانوں                        | امیں (ہ) انسان کرنا                  |
| امیں (ہ) بی ثبات۔ ناپایدار     | امیں (ہ) اسار                           | امیں (ہ) اسار                        |
| امیں (ہ) عالم ناوت             | امیں (ہ) کنایہ گفتن                     | امیں (ہ) عالم ناوت۔ دنیا فانی        |
| امیں (ہ) اسادھان               | امیں (ہ) ابہام                          | امیں (ہ) اسار جیون                   |
| امیں (ہ) غافل۔ بی خبر۔ نا آگاہ | امیں (ہ) ناکام                          | امیں (ہ) حیات عاریت۔ زندگی ناپایدار  |
| امیں (ہ) آغوش دادن             | امیں (ہ) بازماندگی                      | امیں (ہ) اسادھان                     |
| امیں (ہ) غافلی۔ بے خبری        | امیں (ہ) مقتدر                          | امیں (ہ) غافل۔ بی خبر۔ نا آگاہ       |
| امیں (ہ) دعا                   | امیں (ہ) ممکن                           | امیں (ہ) آغوش دادن                   |
| امیں (ہ) ماؤشا                 | امیں (ہ) اسخوا                          | امیں (ہ) غافلی۔ بے خبری              |
| امیں (ہ) لاتیناہی۔ نامحدود     | امیں (ہ) اسخو کرنا                      | امیں (ہ) اسادھانی وچ جا پھرنا۔ دھننا |
| امیں (ہ) غافل گرفتن            | امیں (ہ) سگ سقون                        | امیں (ہ) غافل گرفتن                  |
| امیں (ہ) شانین                 | امیں (ہ) پس و پیش                       | امیں (ہ) اسیں                        |
| امیں (ہ) دعا                   | امیں (ہ) اثر رپر جھاو                   | امیں (ہ) اسیں تسلی                   |
| امیں (ہ) ماؤشا                 | رسوخ۔ رسوخیت                            | امیں (ہ) اسیں تسلی                   |
| امیں (ہ) لاتیناہی۔ نامحدود     | امیں (ہ) اثر قبول کرنا                  | امیں (ہ) اسیں تسلی                   |
| امیں (ہ) متأثر شدن             | امیں (ہ) اثر کرنا                       | امیں (ہ) اسیں تسلی                   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| اعسل                                      | اکر کر کری (ن، ایلی)       |
| اعسلان (ن، پ)                             | اعسلان                     |
| اعسلد (پ) اشبد                            | اعسلد                      |
| بی صدا۔ بدون آواز۔ خاموش                  | فعل لازم                   |
| اعسیر (پ) اشریر                           | عقل دیگھات (ہاواں)         |
| بی بدن۔ بیکالبد۔ بدون جنم                 | طرق                        |
| اعسلیل (پ) اعمل                           | رقد خانہ (ن، پ) اکاش لوچن  |
| فعش۔ سخن زشت و بد و قبح۔ سو قیان          | فلکیات (پ) اکاش و گیان     |
| ابزدال (ن، ایلی) اشلیلتا                  | فلکی۔ آسمانی               |
| اعسانت (پ) اشانت                          | اکر ت گھن (پ) اکرت گھن     |
| بی سکون۔ بی قرار۔ ناخیبا۔ بی صبر          | ناپاس۔ حق ناشناس۔ نمک حرام |
| ناشائست۔ نازیبا۔ فعش (پ) اشٹ              | اکر ت گھن (پ) اکرت گھن     |
| اعسیسٹا (ن، ایلی) اشستھا                  | کفران۔ ناپاسی۔ نا شکری     |
| اعسیسٹا کرنی (آمیڈ کی)                    | کم اصل (پ) اکھین           |
| گتاخی کردن                                | ابوالین (پ) اکھین          |
| اعسٹا (پ) اشجھ                            | دیدہ۔ چشم۔ عین (ن، ایلی)   |
| بداغر۔ نامبارک                            | اُخ آشوب (آمیڈ کی)         |
| اہنگوار (ن، پ)                            | اُخ کوڑی کرنی (آمیڈ کی)    |
| خودی۔ منی۔ انا نیت۔ غرور۔ بختر۔ خود پرستی | دیدہ گرم کردن              |
| اہنگوار کرنا (آمیڈ کی)                    | اُخ دا درکھلا (آمیڈ کی)    |
| حاب از خود داشتن                          | پرواز چشم                  |
| متکبر (پ) اہنگاری                         | اُخ دا ڈللا (ہاواں)        |
| متکبران (پ) اہنگاریاں                     | نجھ۔ گل چشم                |
| اہنگاری (آمیڈ کی)                         | ذات العین (ہاواں)          |
| فوندن۔ مغروف گردیدن                       | اُخ دی پیڑ (ہاواں)         |
| اہنگار (ن، پ)                             | اُخ دی پیڑ (ہاواں)         |
| قوت۔ خوراک                                | طفل ہندو۔ مردک چشم         |
| اہنگر (ن، ایلی)                           | اُخ نیویں کرنی (آمیڈ کی)   |
| اُنکھ کرننا (آمیڈ کی)                     | چشم بر زمین افحمن          |
| ثبت کردن۔ درج کردن                        | اُخ دریکرنی (آمیڈ کی)      |
| بی عملی                                   | اُخ مارنی (آمیڈ کی)        |
| اعرم (ن، پ) اکرم                          | زگی کردن۔ چشم زد۔ غمز      |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| ਅੱਖ ਮੀਟਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਚੁਮ੍ਹ ਬਸਨ             | ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਵਾਕਾਸ਼)                        |
| ਅੱਖਰ (ਵਿ)                                  | ਅੱਖਰ                  | ਆਂਥ ਦ ਆਬ                                     |
| ਖੁਲ ਨਾਈਰ - ਫਾਨਾਈਰ - ਤਖ਼ਿਰ ਨਾਪੀਰ - ਲਾਜ਼ਾਵਾਲ |                       | ਬਿਹਕੀ  |
| ਅੱਖਰ / ਬਚਨ (ਅੱਖਰ ਰੱਖਨ)                     | ਅੱਖਰ                  | ਅਗਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ) ਆਂਗ ਦਾ ਚੰਗਿਆਜ਼ਾ (ਵਾਕਾਸ਼) |
| ਅੱਖਰੋਟ (ਅੱਖਰੋਟ)                            | ਜੁਜੂ                  | ਅੱਗ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਆਂਥ                             |
| ਅੱਖ ਲਾਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਚੁਮ੍ਹ ਗ੍ਰਮ ਕਰਨ        | ਬਿਹਕੀ ਕਿਥਿਨ ਆਂਥ                              |
| ਅੱਖ ਵਿਚ ਮੋਹਨੀ ਹੋਣਾ                         | ਅਕਹੁਕ ਸੂਹਿ ਜੂਣਾ       | ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ (ਵਾਕਾਸ਼)                          |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  | ਕਸ ਕਫ਼ਾਰਾਂ ਆਂਥ        | ਅੱਗਨ ਸਾਲਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ) ਆਂਥ ਕਦੇ              |
| ਅੱਖੜ (ਵਿ)                                  | ਅੱਖੜ                  | ਅੱਗਨ - ਕਰਮ (ਨਾਂ, ਪੁ)                         |
| ਦਰਖਤ - ਬੀ ਅਡ - ਸੁਖ ਰੂ - ਵਖ਼ੀ - ਖਿਰੇ ਸੇ     |                       | ਅੱਗਨੀ - ਨਾਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ) ਆਂਥ - ਨਾਰ          |
| ਅੱਖੜ ਪਿਥ                                   | ਅੱਖੜ                  | ਅੱਗਲੀ - ਕਣ (ਨਾਂ, ਪੁ)                         |
| ਅੱਖੜਪਣ (ਅੱਖੜਪਣ)                            | ਅੱਖੜਪਣ                | ਅੱਖੁਲੇ ਆਂਥ - ਚੁਫ                             |
| ਅੱਖਾਂ ਚ ਵਸਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਅਕਾਸ਼ ਜੁਵਨਾ           | ਅੱਗਨੀ ਪੂਜਕ (ਵਿ)                              |
| ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਦਿਦੇ ਕਰਨ                         | ਗਾਂਡੀ                 | ਮ੍ਹੁਸ - ਆਂਥ ਪ੍ਰਸਤ - ਕੁਕੁ                     |
| ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣੀਆਂ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 | ਅਕਾਸ਼ ਚਾਰ ਹੋਣਿਆਂ      | ਅੱਗਨੀ ਪੂਜਾ ਪੂਜਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                |
| ਚਾਰ ਚੁਮ੍ਹ ਸ਼ਦਨ                              |                       | ਕੁਕੁਗੀ - ਆਂਥ ਪ੍ਰਸਤ                           |
| ਅਖਾਣ ਪ੍ਰਤ ਮਿਥਲ (ਨਾਂ, ਪੁ)                   | ਅਖਾਣ                  | ਕਰੇ ਆਂਥ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਂਗੀ ਮੰਡਲ                  |
| ਅਖਾਣ ਪ੍ਰਤ ਮਿਥਲ ਹਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)                | ਅਖਾਣ                  | ਅਖਾਣ ਮੰਡਰ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਆਂਗੀ ਮੰਡਰ                |
| ਅਖਾਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪੁ)                    | ਅਖਾਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ         | ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    |
| ਅਖਾਣ ਦਾ ਪੁੰਦਲਾ ਜਾਣਾ                        | ਅਖਾਣ ਦਾ ਪੁੰਦਲਾ ਜਾਣਾ   | ਅਖਾਣ   |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  | ਅਖਾਣ ਆਂਥ ਚੁਮ੍ਹ        | ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |
| ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾਂ ਪਾਉਣਾ                    | ਅਖਾਨ ਵੱਚ ਸੁਰਮਾਂ ਪਾਉਣਾ | ਆਂਥ ਬੁਕਦਾਨ                                   |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  | ਅਖਾਨ ਚੁਮ੍ਹ ਰਾ         | ਅੱਗ ਬਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਹਾਂ                        |
| ਅਖਾਨੀ                                      | ਅਖਾਨੀ                 | (ਨਾਂ, ਪੁ)                                    |
| ਅਖੀ ਵੇਖਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਅਖੀ ਵੇਖਣਾ             | ਅੱਗ ਬਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    |
| ਅੱਗ ਨਾਰ - ਆਂਥ                              | ਅੱਗ ਨਾਰ - ਆਂਥ         | ਆਂਥ ਖਾਮੁਖ ਕਰਨ - ਅਲੋਕਾਕਰਨ                     |
| ਅੱਗ  | ਅੱਗ                   | ਅੱਗ ਮੱਘਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |

|   |  |
|---|--|
| زندہ شدن آتش                                      | محر - آتش دان                              |
| اگر بھی آہدم (پ) (ن) اگی آوش                      | انگریزی وچ کوئے پاؤنا                      |
| الام (پ) (ن) انگر کھا                             | (امیٹ کی)                                  |
| چکن   | جو زدن                                     |
| انگرے جی ٹوپی (پ) (ن) انگریزی ٹوپی                | انگلشتری                                   |
| کلاہ فرنگی  | عنبر                                       |
| انگ لگ جانی (پ) (ن) انگر کھا                      | تک   |
| گر گرفتن  | پیش - فرا                                  |
| انگ لگ کرنی (پ) (ن) انگر کھا                      | انگو اگتے پچھے (کیہی)                      |
| آتش زدن   | عقب و جلو - پس و پیش                       |
| نقابت - رہبری (پ) (ن) اگواری                      | قدم  |
| انگواڑی کرنی (پ) (ن) انگواری کرنی                 | انگو ہونا (امیٹ کی)                        |
| نقابت کردن - راہ نمائی کردن - قیادت               | انگو جانا (امیٹ کی)                        |
| انگواڑی (پ) (ن) انگواری                           | فرار فتن - پیش رفت - جلو افدادن - مقدم شدن |
| پاسک - پاشک - تاب                                 | بالا بردن                                  |
| انگواڑی لے لئی (پ) (ن) انگواری کی لینی            | انگو پکھنا (امیٹ کی)                       |
| فاٹیدن - دہن باز کردن                             | جلو اند اضن                                |
| اگر بھی (پ) (ن) آئندہ                             | انگو ہونا (امیٹ کی)                        |
| انگا رکنا (پ) (ن) اگارو کنا                       | پیش افدادن - اقدام نمودن                   |
| جلو گرفتن   | اگوں روکنا (کے نوں) (کیسے نہیں)            |
| لا اوری - جمول                                    | جلو کسی رفت                                |
| انگیا ات (پ) (ن) آگیات                            | (امیٹ کی)                                  |
| مجمول العسب                                       | تجب - شگفت - حیرت                          |
| انگیا ات کل کل (پ) (ن) آگیات کل                   | اچھا اسے بھا (پ) (ن) اچھا اسے بھا          |
| انگیا ات ان (پ) (ن) آگیان                         | غیر منقول                                  |
| جمالت - نارانی - حماقت - بے دوقنی - لا علمی       | اچھل سی پتی (پ) (ن) اچھل سی پتی            |
| انگیا ات ان (پ) (ن) آگیانی                        | مال غیر منقول                              |
| بی معرفت - بی علم - بیدانش - جاہل - ناران - کو دن | اچاک مرتو (ہاگانس)                         |
| انگر (پ) (ن) انگیا را                             | قضای ناگمانی - مرگ ناگماں - مرگ مفاجات -   |
| انگری / چلی (پ) (ن) انگری رچلی                    | حادثہ شوم - درگذشت آن                      |
| سینہ بند - ساما خچہ                               | اچاک ملاقات ہوئی                           |
| انگری ٹھی (پ) (ن) انگریزی                         | (امیٹ کی)                                  |

|                                |          |   |                                  |                         |
|--------------------------------|----------|---|----------------------------------|-------------------------|
| آرے                            | (ہ) اچیت | بی شور۔ بی فہم۔ بی ہوش۔ از خود رفتہ۔ وارفتہ<br>آہنگی اچھائی | آٹاری (ن، ایلیں)<br>زغوتہ۔ دیکھی | فرپال                   |
| مہرت و مہرا۔ خوبی۔ نیکی۔ مصلحت |          |   | مہنت (ن، ایلیں)<br>آہنگی اچھائیں | شغوت۔ شکختی             |
| محنتات                         |          | امروز   | مہنے (ہ)                         | شان۔ ہشت                |
| ابجکار                         |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | چھل و ہشت               |
| آہنگ اپن                       |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | چھل و ہشم               |
| آہنگ اسار                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | دہشت                    |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | دہشم                    |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | ہشم                     |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | شن                      |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | پیست و ہشت              |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | آہنگی                   |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | آہنگیوں                 |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | آہنگوں                  |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | آہنگوں                  |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | چدہ                     |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | پورہم                   |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | عقرب۔ کژدم۔ شبدغ (پ، ن) |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | عقارب                   |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | خصیہ۔ فوطہ۔ پیغہ        |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | ظاہرداری                |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | عقب                     |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | جدگانہ                  |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | قدم افسردن۔ استوار شدن  |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | آڈل لٹا (ن، ایلیں)      |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | پایداری۔ استقامت        |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | آڈل رہنا (ن، ایلیں)     |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | دار دار کردن            |
| آہنگ اسیں                      |          | امروز   | مہنگا (ہ)                        | انگلیا                  |

|  |                         |                         |                             |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| انگریزی گل کرنے (آمیڈ کی)                          | اٹھنی گل کرنے (آمیڈ کی) | اٹھنی گل کرنے (آمیڈ کی) | نادیدہ                      |
| از ریگ رو غن کشیدن                                 |                         | اٹھنی گل کرنے (آمیڈ کی) | خشنگی ناپذیر                |
| انگریزی (نام: ایلی) اسوند                          |                         | انڈریا (نام: ایلی)      |                             |
| تابود - نیستی - عدم                                | نافغتہ                  |                         | سادہ رو - سادہ عذر - بی ریش |
| انگریزہ (نام: ایلی)                                |                         |                         | اندھوتے ہنس (ہاوا ماس)      |
| انگریز (نام: ایلی)                                 |                         |                         | دست ہائی ناشتہ              |
| غیرت - حیمت - محافظت آبرو و ناموس                  |                         |                         | غیر معروف                   |
| انگریزیں (نام: ایلی)                               |                         |                         | انپڑتا (اپھاتا)             |
| قتلباں - مردم دیوث دبی حیمت                        |                         |                         | ناچاقی                      |
| انگریزیں آدمی (ہاوا ماس)                           |                         |                         | انمنگیا (ہاوا ماس)          |
| لئے جیس  |                         |                         | ناخواستہ - ناطلبیدہ         |
| انگریز پر کشوں پر (ہاوا ماس)                       |                         |                         | انملا (ہاوا ماس)            |
| انگریز کردن (آمیڈ کی)                              |                         |                         | لبی بنا                     |
| انگریز (ہاوا ماس)                                  |                         |                         | انوڈیا (ہاوا ماس)           |
| غیرت مند - غیور - نگہدار آبرو و شرف                |                         |                         | غیر منقسم                   |
| انگریز ہونا (آمیڈ کی)                              |                         |                         | انویاہی (ہاوا ماس)          |
| مرداگی داشن - مرد بودن                             |                         |                         | غیر منکوجہ - شوہر نارسیدہ   |
| انگریزی (نام: ایلی) انگریزی                        |                         |                         | عذری (ہاوا ماس)             |
| انگریزی و لنسی (آمیڈ کی)                           |                         |                         | ناسفتہ                      |
| ست گرفتن   |                         |                         | انوڑھی (ہاوا ماس)           |
| انگریز (ہاوا ماس)                                  |                         |                         | در نا سفتہ                  |
| لا تعداد - بی شمار - لا تھصی - بی حساب - بی اندازہ |                         |                         | انوڑھنا                     |
| غیر مطبوع (ہاوا ماس)                               |                         |                         | نادیدہ                      |
| انڈپیا (ہاوا ماس)                                  |                         |                         | پیکان - نوک                 |
| خشکار (ہاوا ماس)                                   |                         |                         | طرفہ - عجیب - نادر          |
| انڈھانیا (ہاوا ماس)                                |                         |                         | عجب - طرقی (ہاوا ماس)       |
| تجالیں (ہاوا ماس)                                  |                         |                         | انوکھاں چیزوں (ہاوا ماس)    |
| انڈھنیا کرنے کرنے (آمیڈ کی)                        |                         |                         | عجائب                       |
| صرف نظر کرنے - دیدہ دو ختن - چشم پوشی کرنے -       |                         |                         | حاتمه سپایاں - عاقبت        |
| انڈھنیا کرنے کرنے (آمیڈ کی)                        |                         |                         | انتہیاں - بی پایاں          |
| اغراض کرنے - نادہدہ گرفتن                          |                         |                         | ات کتھی کرنی (آمیڈ کی)      |
|  |                         |                         | غلو کردن                    |



|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| اُندھا جزا کرنا (اُمیڈ کی)                  | اُدھا (ہی) اور حکم کرنا (اُمیڈ کی) | نصف۔ نیم                                 |
| تقدیر کردن                                  | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | نصف کردن                                 |
| قضائی (ہی) عدالتی                           | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | اُدھیا تم گیان (نہ، پ)                   |
| داد نامہ (ہاوا مسٹ) عدالتی ذکری             | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | علم معرفت۔ معرفت روح اعلیٰ               |
| اُدھڑی (ہی) اوتی                            | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | اُدھیا پک (پ) نہ، اُدھیا پک              |
| فرید۔ بی مثل۔ بی گانہ۔ بی نظیر۔ بی مانند    | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | درس۔ معلم۔ استاد۔ اتالیق۔ اخوند۔ آموزگار |
| اُدھڑی ہوئا (اُمیڈ کی)                      | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | اُدھیا پک توں سبق لینا                   |
| فرد بودن۔ بی گانہ بودن                      | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | لے لئنا                                  |
| اُپکار (نہ، پ)                              | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | درس خواندن                               |
| تیرگی۔ خلمت۔ تاریکی                         | اُدھا کرنا (اُمیڈ کی)              | معلم                                     |
| اُدھڑہ کھڑ (ہی) اور کھڑ                     | کھدہ۔ کھول                         | اُدھیا پکا (نہ، پ) اُدھیا پکا            |
| اُپ۔ پੱਚھا کام کرنا                         | اُدھا کھڑ کام کرنا                 | اُدھیا پکا (نہ، پ) اُدھیا پکا            |
| (اُمیڈ کی)                                  | ماں مالی کردن                      | محملات                                   |
| اُدھر گئے (نہ، پ)                           | فانج                               | مطالعہ۔ بررسی                            |
| اُدھر گئے ہو جائیں (اُمیڈ کی)               | فانج                               | اُدھک                                    |
| فوج بودن۔ فوج شدن                           | اُدھر گئے ہو جائیں (اُمیڈ کی)      | فراوان۔ بسیار۔ کثیر۔ وافر۔ کافی۔ بیش     |
| اُدھر م (ہی) اور حرم                        | اُدھر م                            | اُدھکت (نہ، پ)                           |
| لادینی۔ نادرستی۔ ظلم۔ بیدادگری۔ کفر۔ شقاوت۔ | اُدھر م                            | فرادی۔ بسیاری۔ کثرت۔ دفور                |
| شرارت                                       | اُدھر م                            | بیشی                                     |
| اُپرمتا (نہ، پ)                             | لادینی                             | اُدھکاری (نہ، پ)                         |
| اُپرتم دیاں گالاں کرنیاں                    | اُدھر م                            | اُدھکار                                  |
| کفر گفت                                     | اُدھر م                            | قدر۔ قدرت۔ اقتدار۔ حق                    |
| اُپرتمی (ہی) اور حرمی                       | اُدھر م                            | بی حق                                    |
| لا کتاب۔ ہر طبقہ۔ لا مذہب                   | اُدھکاری (نہ، پ)                   | اُدھکاری                                 |
| زندگی (اُمیڈ کی)                            | اُدھر م                            | حقوق                                     |
| اُپرتمی ہوئی (اُمیڈ کی)                     | اُدھر م                            | اُدھکاری (نہ، پ)                         |
| اُپرمتا (نہ، پ)                             | اُدھر م                            | عہدہ دار۔ حق دار۔ اہل                    |
| شب کوری۔ عشا                                | اُدھر م                            | اُدھکاری (اُمیڈ کی)                      |
|   |                                    | مستح بودن                                |
|   |                                    | اجلاس                                    |
|   |                                    | اُدھیں (ہی) اور هیں                      |

تائیع - مطیع - ماخت - درزیہ - غاشیہ کشن  
اپینہ ہلن (امیٹ کی) اور گن ہونا  
زرم گوش (امیٹ کی) اور گن کرنا  
زرم کردن (امیٹ کی) اور گن کرنا  
اپینہ نردا / نیم ردا / نیمیگی / نمردا

**خشوع**  
اپینہ نری کرنی (امیٹ کی) اور گھیگی کرنی  
فرماں برداری کردن - اطاعت کردن - قبول اطاعت و  
حکم کردن - فروتنی کردن  
زیر ماندن (امیٹ کی) اور گن رہنا  
اپنی رات (واکاںس) اور گھی رات  
نیم شب - نصف اللیل - ناف شب  
ناتمام - ناقص (ہی) اور صورا  
اپے - اپے (کی ہی)

**نیما نیم - نصفاً نصف**  
اپے - اپے کرنا (امیٹ کی) اور صوارح کرنا  
**تصییف**  
خوارک - ماکول - غذا (ہی) ان  
ان - جال (ہی) ان جل (ہی)  
آبخورد - آب د دانہ  
نادان (ہی) ان جان  
انڈوان (ہی)  
بی نہایت - غیر محدود  
انپڑھ (ہی) ان پڑھ

بی سواد - جاہل - ناخواندہ - امی  
سوق (واکاںس) ان پڑھ جتنا  
بی سوادی (ہی) ان پڑھ جتنا  
انپڑھدا (ہی) ان پڑھ جمال - جمال  
انپڑھاں (ہی) ان پڑھاں  
انرگل (ہی) انرگل

سرزیہ - نابینہ کورچشم ناقد البصر (ہی) انہا  
انہا ہے جا لئے (امیٹ کی) انہا جو جائے  
دیدہ سفید شدن - نابینا بودن - نابینا شدن -  
پید شدن چشم  
انہا کرنا (امیٹ کی)  
میل در چشم کشیدن - میل در دیدہ کشیدن - نابینا کردن  
علم - کوری (ہی) انہا پن ہل  
غلات (ہی) انہا جو بورے  
غراز (واکاںس) انہا جو بورے  
بیتم (ہی) انہا تھہ  
انہا س - آسرا م (ہی) انہا تھہ آشرا م  
بیتم خانہ - دارالايتام

انہا در (ہی) انہا در (ہی)  
اہانت - ہنک - ذلت - بی عزتی - بی آبروئی  
توہین (امیٹ کی) انہا کرنا  
ازل (ہی) انہا کال  
انہا س - ک (ہی) انہا شک  
انہا جی (ہی) انہا زی  
خام دست - خام طبع - نا آزمودہ کار  
خام دستی (ہی) انہا زی پن  
بیدار - ظلم (ہی) انیاں (ہی)  
انیاں آسٹی (ہی) انیاں (ہی)  
بیدید گر - ظالم - ستم گر  
انیاں کرنا (امیٹ کی)  
حیف کردن - ظالمی کردن - احیاف کردن  
لگ در ہوا (ہی) انچحت  
انیسا صیت (ہی) انچحت سنبھاؤنا  
امکان غیر معین  
لا ینک - جد انقدر (ہی) انکھروں

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| بی قاعده۔ بی ضابط                         | (ہ) ائمکت            | رضا  |
| استبدار                                   | انڈی (ن)             | تحمینہ                                     |
| تحقیق                                     | پا (ن)               | قیمع۔ مقلد                                 |
| اتباع۔ پیردی                              | انوسرن (ن)           | انجمنیاں                                   |
| غنه۔ آواز بینی                            | انوسوار (ن)          | انجمنیاں                                   |
| مطابق۔ حسب                                | انوسار (سی)          | انوگرگا                                    |
| ترتیب                                     | انوکرم (ن)           | انورودہ کرنا                               |
| انکول ہوئا                                | انکول (امیٹ کی)      | اصرار کردن۔ ابرام نمودن                    |
| سازگار شدن۔ موافق شدن۔ سزاوار گشتن        |                      | ترجمہ                                      |
| انکولتا                                   | انکول (امیٹ کی)      | انواد                                      |
| سازگاری۔ موافقت۔ مطابقت۔ اتفاق و ہم آہنگی |                      | مترجم۔ ترجمان                              |
| انکولتا کرنی                              | انکول (امیٹ کی)      | ایندہ                                      |
| سازش کردن                                 |                      | انوپام                                     |
| پس رو                                     | پس رو (ن)            | لاٹانی۔ بی مشل۔ بی مانند۔ بی نظیر۔ لا جواب |
| انوچت                                     | (ہ)                  | لاتعدد                                     |
| لا یعنی۔ بی جا۔ غیر مناسب                 |                      | انکے                                       |
| انوچت                                     | (ہ)                  | اپہرنا                                     |
| ناجائز۔ ناردا۔ خلاف قانون۔ نا حق          |                      | اغوا                                       |
| انوچت                                     | انوچت (امیٹ کی)      | اضحات۔ رسولی۔ فضح۔ بد نای                  |
| رفار نا ہموار۔ سلوک ناشایستہ              |                      | اپلٹ                                       |
| انوچت کرنا                                | انوچت کرنا (ہا کامس) | یگانگت۔ یگانگی۔ قرابت                      |
| فعل حرام۔ کار ناردا۔ عمل ناشایستہ         |                      | رسولی۔ تحریر                               |
| انوچت وہار                                | انوچت وہار (ہا کامس) | اپہان                                      |
| رفار نا ہموار۔ سلوک ناشایستہ              |                      | اپہان کرنا                                 |
| انوچت                                     | انوچت (ہا کامس)      | توہین کردن۔ رسولی کردن۔ دستار در گلو کردن۔ |
| کوئی نظر                                  |                      | انفصال کردن                                |
| تناسب                                     | انوپاٹ (ن)           | اپہانت                                     |
| احساس                                     | انو بھو (ن)          | (ہ) اپہانت                                 |
| انہماں / پرستا                            | انو ستمی / پرستا (ن) | بی آبرو۔ بی عزت۔ رسوا۔ بد نام              |
|   |                      | اپہانت ہوئا                                |
|   |                      | خاک بر سر شدن۔ آب رفتہ                     |
|   |                      | آزر دہ                                     |

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| آزدگی۔ رنجش                           | آپرمنڈا (نامِ ایلیٹ) اپرمنڈا کی (آمیڈ کی) | آہرہوں ہے جا لیا اچھیوں ہو جانا (آمیڈ کی) |
| آپرمنڈی میں ہوئے ہوئے                 | آپرمنڈا کی (آمیڈ کی)                      | نخ کردن                                   |
| گنمام بودن۔ غیر معروف بودن            |   | امتلا                                     |
| آپرمنڈیت (ہی) اپرمنڈیت                |   | نفر کر                                    |
| شکست ناپذیر۔ غلبہ ناپذیر              |   | طلق                                       |
| آپرمنڈا (نامِ پور) اپرمنڈا کی         |   | ظہارہ                                     |
| قصور۔ تقصیر۔ خطا۔ جرم۔ سو۔ فرد گذاشت  |   | آباد                                      |
| آپرمنڈا اپرمنڈا تے دندر دندر (ہاکانس) |   | آبادی                                     |
| جرائم دسرا                            |   | عبور کرنا (آمیڈ کی)                       |
| آپرمنڈا (نامِ پور) اپرمنڈا کی         | جرائم                                     | عبور کردن۔ گذر کردن۔ مرد نمودن۔ گذشن      |
| آپرمنڈی (ہی) اپرمنڈی                  |   | کم عقل۔ کم فهم                            |
| جرائم۔ مجرم۔ قصوردار                  |   | آبھاگا (ہی) آبھاگا ہوئے                   |
| آپرمنڈی (آمیڈ کی) اپرمنڈی ہوئے        | جرائم بودن                                | بد طالع۔ بد بخت۔ بد قسمت۔ کم نصیب         |
|                                       |   | آبھاگا ہوئے (آمیڈ کی)                     |
| آپرمنڈی (نامِ ایلیٹ) اپرمنڈی          | تیافت                                     | دور بر آمدن۔ بد بخت دلی نصیب شدن          |
| آپرمنڈا (نامِ پور) اپرمنڈا کی         | استشنا                                    | آبھیاں (پور) ابھیاں کی                    |
| آپرمنڈا (ہاکانس) اپرمنڈا کی           | بطور استشنا                               | مشن۔ ممارست۔ مزاولت۔ تمرین                |
| آپرمنڈر (ہی) اپرمنڈر                  | نپاک۔ نجس                                 | آبھیاں کرنا (آمیڈ کی)                     |
| آپرمنڈس (ہی) اپرمنڈس                  | چلاق۔ شل۔ انجدہ سم                        | تمرین کردن۔ ممارست کردن                   |
| آپرمنڈس (پور) اپرمنڈس کر              | مسکین خانہ۔ نوان خانہ                     | آبھیمان (پور) ابھیمان کی                  |
| آپرمنڈل (نامِ ایلیٹ) اپرمنڈل کی       |   | خخر۔ ناز۔ ناز۔ مفاخت                      |
| التجاء۔ درخواست۔ عرض داشت             |   | آبھیمان کرنا (آمیڈ کی)                    |
| آپرمنڈل دے چوگ (ہاکانس)               |   | فخار۔ مبارکات در مکارم و مناقب۔ افتخار    |
|                                       | قابل استئناف                              | آبھیلائشا (نامِ ایلیٹ) ابھیلائشا کی       |
| آپرمنڈن (ہی) اپرمنڈن                  | نامم                                      | شوچ۔ میلان۔ آرزو                          |
| آپرمنڈس کرنا (آمیڈ کی)                |   | آبھیلائشی (ہی) ابھیلائشی کی               |
| تاسف خوردن۔ حیف خوردن۔ حرمت خوردن     |   | متنی۔ خواہاں۔ طالب۔ خواہنده۔ خواہش مند    |
|                                       |   | آبھیلائشی ہوئے (آمیڈ کی)                  |

|  |                                   |                                    |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| شائق بودن - آرزو مند بودن                              | اگرچہ ہیں (ہ) ارتھ                | بی سردہ                            |
| امر (ہ) امر  | ارجاع (ن) ایسٹلیں                 | پرستندگی                           |
| نیم - بے مرگ - ابدی - جاویدان - لاقافی                 | عرض داشت (ن) ایسٹلیں              | عرض داشت                           |
| امر تا (ن) ایسٹلیں                                     | اکٹھیاں (ن) ایسٹلیں بہ            | عراطف                              |
| بی مرگی - حیات جاوید                                   | معنی (ب) (ن) ارتھ                 | معنی                               |
| امروز (ب) (ن)  | ارجاع شاستری (ب) (ن)              | ارجاع - سماں شاستری                |
| کثری (ب) (ن)   |                                   | حکیم الاقصادیات                    |
| امال کرنا (امیت کی)                                    |                                   | مسئل - بے معنی                     |
| کار کردن - محنت کشیدن - مؤثر داچ شدن                   | اکٹھیاں (ہ) ارتھ                  | خادم                               |
| املاک اس (ب) (ن)                                       | اردوی (ب)                         | اردو اس                            |
| امال - اخراج عمل دخل جوڑنا (امیت کی)                   | اردو اس (ن) ایسٹلیں               | دعا                                |
| دخالت شدن  | ارجاع / انسپا (ہ)                 | نصف - نیم                          |
| اماں (ن) ایسٹلیں                                       | ارجاع (ہ) ارپن انسپا              | نذر                                |
| دویعت  | ارجاع (ہ) ارپن                    | تفقاں                              |
| فرغند - فرغندہ (ن) امر و میل                           | اربی راروی (ن) ایسٹلیں            | آغازیدن                            |
| امیتی (ن) ایسٹلیں                                      | ارجاع (ہ) ارپن                    | ارمان رافسوس / اہمسہ               |
| دارندگی  | ارجاع شدید                        | حرست - دربغ - بی صبری - خواہش شدید |
| عیاشی کرنی (امیت کی)                                   | ارمان رکھنا (امیت کی) ارمان رکھنا | ارمانیدن                           |
| عیاشی کردن   | ارجاع (ہ)                         | تدرست                              |
| اجوگ (ہ) ایوگ  | ارجاع (ہ) ارگتا                   | تدرستی - صحت                       |
| نائل - ناقابل - نالائق - نائز - نازر اوار - ناشایستہ - | ارجاع (ن) ایسٹلیں                 | زغیر                               |
| بی قابلیت - بی ہنر                                     | ارجاع (ہ) ارگتا                   | منفصل - علاحدہ - یک سو (ہ) الگ     |
| اجوگ ہنر کرنی (امیت کی)                                | ارجاع (ن) ایسٹلیں                 | علی ال انفراد (ہ) الگ الگ          |
| قلندری کردن  | ارجاع (ہ) ایسٹلیں                 | متثنی بودن - متثنی شدن             |
| اجوگ کرنا (ہاکام) ایوگ کرنا                            | الگ ہونا (امیت کی)                | اللگ کرنا (امیت کی)                |
| فعل نائز - کردار نالائق کہ شایستہ و سزاوار نباشد       | الگ ہونا (امیت کی)                | جدا کردن - منفصل نہون - نصل دادن - |
| درج - شامل (ب) (ن)                                     | اللگ ہونا (امیت کی)               | تفريق نہون                         |
| ارجاع کرنی (امیت کی)                                   | اللگ کرنا (امیت کی)               | اللگ رہ جائے (امیت کی)             |
| نیاز کردن - عرضہ                                       |                                   |                                    |
| ارجاع شاستر (ب) (ن)                                    |                                   |                                    |
| علم الاقصاد - اقتصادیات                                |                                   |                                    |



|   |  |
|---|--|
| آس (ن، ایلین)                               | آش - آشیانہ - عشہ                          |
| رجا - آرزو - امید - اہل - چشم داشت - توقع   | آہل لعن (پ) آہلنا                          |
| آس کوڈ (ہی)                                 | آہلنا پاٹیں (امیت کی)                      |
| فریفہ                                       | آشیاں بستن                                 |
| آسٹک (ہی)                                   | بود  |
| خدا پرست - دین دار - موحد - متدين           | آہا (کی اپ) آہا                            |
| آسماں (ن، ایلین)                            | آہاں دادھواں (ہاکاں)                       |
| ارادت                                       | آہار خورش                                  |
| آس پوری کرنی (امیت کی)                      | آکر شک                                     |
| امید بر آوردن                               | دل کش - دل پذیر - جاذب - جاہل              |
| آس رکھنی (امیت کی)                          | آکرشن (پ) آکرشن                            |
| آرزو بردن - متوقع بودن                      | کشش - جذب - کشیدگی - جلب - جاذبہ - جاذبیت  |
| آسرا لیتا (امیت کی)                         | آکرشن ٹکتی سکتی (پ) آکرشن                  |
| تکمیل کردن                                  | قوت کشش                                    |
| آس وند (ہی)                                 | حملہ                                       |
| آس وان (ہی)                                 | آکرسن (پ) آکرسن کار                        |
| راجی - امیدوار - آرزو مند                   | حملہ آور                                   |
| آسوان ہونا (امیت کی)                        | آکرشن                                      |
| دل گرمی داشن                                | تمطی                                       |
| آسماں (ن، ایلین) بحث                        | آکرشن (امیت کی)                            |
| آمال  | اشیر - آسان جو                             |
| آسک (پ) عاشق                                | آکاس پنڈھی (ہاکاں) آکاس پنڈھی              |
| فریفہ - شیفتہ و شوریدہ و عاشق گشتہ          | آکی ہونا (امیت کی)                         |
| آسک ہونا (امیت کی)                          | سر بر زدن - سر کشی کردن - متعدد شدن - تمرد |
| فریفہ شدن - شیفتہ شدن - عاشق شدن - شیدا شدن | اعتماء (پ) بحث                             |
| آرزو - خواہش - امید                         | آکھا نہ کر (کیہی) آخر کار                  |
| آسماں جنک (ہی)                              | سر انجام                                   |
| آسماں ٹੱٹ جانی (امیت کی)                    | تعییل                                      |
| آرزو شنکتن                                  | آخھا مینلنہ (امیت کی)                      |
| آسماں دی کیرن (ن، ایلین)                    | آخھی پڑھوئی (امیت کی)                      |
| بارقه امید                                  | نافرمانی کردن - سر پچھی کردن - اطاعت نکردن |
| آسماں ہاد (پ) آشوار او                      | اطاعت کردن - حکم بجا آوردن                 |
| رجائیت                                      | آگاہی رات (ہاکاں)                          |

|   |                          |                                       |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| فرداش - شی کہ بعد از امشب خواهد آمد           | آٹا پیہننا (امیت کی)     | آرد ساختن                             |
| آگیا (نام: ایلین) گیا                         |                          | زخوت                                  |
| دستوری - فرمان - حکم - اجازت - پروگری         | ئٹی (نام: ایلین) الی     | نیمسن                                 |
| آگیا انوسار (ہاکام) انوسار                    | آٹھرہ (امیت کی)          | مکار                                  |
| حسب الحکم                                     | آڈبھری (ہل) آٹھبری       | بیضہ                                  |
| آگیا کار (ہل) گیا کار                         | آٹڑا (پ) آٹڑا            | آٹڑا دلانا (امیت کی)                  |
| حکم بردار - فرمان بردار                       |                          | خایہ کردن - بیضہ نہادن                |
| آگیا کاری (نام: پ) (ہل)                       |                          | تکرار - ضد                            |
| طائع - فرمان بردار                            | آٹھا (پ) آٹھا            | آتم-سماں کھات کرنا                    |
| استخارہ (امیت کی) گیا چھٹا                    |                          | خود را دریافت                         |
| آگیا دادن اجازہ دادن آکیدہ دلانا              | آٹھاں (امیت کی)          | انخار                                 |
| فرمان برداری (پ) (نام: پ) گیا پان             | آٹھرہ (نام: ایلین) آٹھرہ | آتم گھیا کرنی (امیت کی)               |
| تقلیل حکم آگیا پورتی (نام: ایلین) آٹھری       |                          | خود کشی کردن - انخار کردن             |
| آگیا مگنی (امیت کی) گیا مگنی                  |                          | نیردی روحانی (ہاکام) آٹھک بل          |
| اجازت خواستن                                  |                          | آتم ریانی (نام: پ) آٹھری              |
| آگو (ہل)                                      |                          | آتم-تھکت                              |
| پیش رو - پیشو - مقضا - امام - سرگردہ - رہنمای |                          | ذات حقیقی - روح / روح اعلیٰ           |
| آگو بودن قدوہ بودن (امیت کی) آگو جوہنہ        |                          | آتم پر بودھ                           |
| آچرنا (نام: پ) آچرنا                          |                          | ادرائک روح - دانش روح                 |
| و تیرہ - روشن - دستور - کردار - طرز عمل       |                          | آتم-بُپی (نام: ایلین) آٹھر بدھی       |
| خلق (پ) (نام: ایلین) آچار و وہد / ہیوہار      |                          | خود شناسی - دانش نفس                  |
| آصالار / آصالار وہد                           |                          | خود شناسی (نام: پ) آٹھر بودھ          |
| آجڑا (نام: پ) آجڑا                            |                          | علم ارواح (نام: پ) آٹھر منڈل          |
| فروتن بودن - متواضع و خاشع بودن - ہارونیدن    |                          | آتم-ہیسٹاوس                           |
| آجڑی (نام: پ) آجڑی                            |                          | اعتماد نفس - خود اعتمادی              |
| چوپان - رائی - گلہ بان - رمیار                |                          | آتما (نام: پ) ایلین                   |
| آجالاٹ ہولنا (امیت کی) آزاد جوہنہ             |                          | روح - روان - روح فردی - ذات - طبیعت - |
| یلدہ شدن                                      |                          |                                       |
| آٹا (نام: پ) آٹا                              |                          |                                       |
| آٹا گردن (امیت کی) آٹھنے                      |                          |                                       |
| شیدن  |                          |                                       |

|   |  |
|---|--|
| خُصیت۔ اصل خُصیت و حیات                             | (امیڈ کی)                                    |
| آڈمماہاں (نام، ایلہی، بہب) آدمواں (نام، ایلہی، بہب) | رودھات فرمان۔ حکم۔ امر                       |
| آڈر رہئنا (امیڈ کی)                                 | آڈریش آڈریش                                  |
| محل شدن۔ شمیدن۔ آشفتہ شدن                           | آڈریش انوسار (کہاں)                          |
| آڈھن (نام، بہب) آڈھن شام                            | حسب ارشاد                                    |
| آڈھن دے لہا (نام، بہب) آڈھن دو لیا مسا              | آڈریش کرنا آڈریش کرنا                        |
| آڈڑ (ایلہی) عادت خو                                 | قصار کردن۔ حکم کردن۔ فتویٰ دادن۔ گزاردن واجب |
| آڈڑ ڈھن دئی (امیڈ کی) عادت پھٹوئی خوباز کردن        | آڈریش جاری کرنا آڈریش جاری کرنا              |
| آڈڑ پاٹیلی (امیڈ کی) عادت پاٹیلی                    | فرمان صادر کردن                              |
| خوئیدن۔ خوی کردن۔ مقاد شدن                          | آڈریش پھنچاونا آڈریش پھنچاونا                |
| آڈڑ بدل لینی (امیڈ کی) عادت بدل لینی خوباز کردن     | فرمان رساندن                                 |
| آڈڑاں (نام، ایلہی، بہب) عادتیں                      | آڈریش پتھر پتھر                              |
| سجیا۔ سجیات۔ شامل۔ خصائص                            | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈامی (نام، بہب) آڈی                                | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈرمس آڈر ش   | آڈریش پتھر پتھر                              |
| نصب العین۔ مطلع نظر                                 | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈرمس مٹھ (ہاکام)                                   | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آدم مثلی  | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈر کرنا (امیڈ کی)                                  | آڈریش پتھر پتھر                              |
| گرامیدن۔ تعظیم کردن۔ تکریم کردن                     | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈر نا کرنا (امیڈ کی)                               | آڈریش پتھر پتھر                              |
| کم حرمتی نمودن۔ اندک تکریم کردن۔ تو قیر تکردن       | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈریوگ (ہی)   | آڈریش پتھر پتھر                              |
| لازم التکریم۔ سزاوار تعظیم                          | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈرگان (نام، ایلہی) آندرال                          | آڈریش پتھر پتھر                              |
| آڈی تو اੰڈ تک پڑنا پس اور نہ                        | آڈریش پتھر پتھر                              |

|   |                           |           |            |
|---|---------------------------|-----------|------------|
| ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ                          | آپਸੀ ਸੀਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ        | (ਅਮਿਤ ਕਿ) | زیر کردن   |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਮਾਹਿਰਤ ਦਾਵਨ                       | ਮਾਹਿਰਤ ਦਾਵਨ               |           |            |
| ਆ ਪਹੁੰਚਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | آਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ    |           |            |
| ਦਰਸੀਦਨ - ਦਰਦ ਕਰਦਨ - ਚਾਦਰ ਸ਼ਦਨ                | آਪੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ     | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਆਪਣਾ ਹਕ ਮੰਗਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਤਾਸੀ ਕਰਦਨ                 |           |            |
| ਰਗ ਖੁਦਰਾਦਨ                                  | ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਘੜ ਲੈਣੀ       |           |            |
| ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਹਰ ਮੁਟਨ                   | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਸ਼ਕਮ ਬਰਦਨ                                   | ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ       |           |            |
| ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਅਤੀ                       | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਦਰਦ ਕਰਦਨ                                    | ਆਪਣੇ ਕੁਮਾਲ ਕੁਮਰ ਕਰਨਾ      |           |            |
| ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦਸ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਦਰ ਖੁਦ ਕਰ ਫਤਨ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ                                 | ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ     | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਸਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      | ਬੁਖ ਖੁਦ ਸ਼ਵਾਰ ਸ਼ਦਨ         |           |            |
| ਜਨ ਦਾਵ                                      | ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਆਪਣਾ ਲਿਕਾਸ ਪਾੜਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਜੁ ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਂ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਜਾਮੇ ਦਰਿਦਰ                                  | ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ |           |            |
| ਆਪਣਾ ਵੱਡਪਣ ਜਤਾਉਣਾ                           | ਅੱਖ ਪੱਤੇ ਕੀਤਾ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਬੁਖ ਕਿਦਿਨ                         | ਅੱਖ ਪੱਤੇ ਕੀਤਾ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਤਾਉਣੀ                           | ਬੁਖ ਕਰ ਫਤਨ                |           |            |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਮਕਾਬੇ ਕਰਦਨ                        | ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ   |           |            |
| ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਨੂੰ ਘਟ ਦੱਸਣਾ                       | ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ   | (ਅਮਿਤ ਕਿ) |            |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸਾਲਾਂ ਦੂਦਿਦਨ                      | ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨ                  |           |            |
| ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਂਦੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਗ ਪਿੱਟਣਾ           | ਆਪੱਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)        |           | اعتزاز     |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਪਣਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂਦੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਗ ਪਿੱਟਣਾ | ਆਬਾਦੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)        |           | عمران      |
| ਅੱਖ ਪੱਤੇ ਕੀਤਾ                               | ਆਬਾਦੀਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ; ਬਵ)  |           | عمرਾਨਾਂ    |
| ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ                     | ਆਭਾਰੀ (ਵਿ)                |           |            |
| ਖਾਕ ਕਰਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ  | ਮਰਹੂਮ ਮੁਹੱਿ               |           |            |
| ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਤਾਉਣੀ                           | ਆਮ ਆਦਮੀ (ਵਾਕਾਸ਼)          |           | عوام الناس |

|                                       |                                      |                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| آدم کرنا                              | (امیٹ کی) عام کرنے                   | آرنج کے چیز را (ہوا کا سماں)        |
| عومی کردن - عویست دادن                | علی العوم                            | حد ثان                              |
| آدم ترے تو (کیوں) عام طورتے           | د خل                                 | آر والاؤ ندا (پ) (ن)                |
| آمادنی (ن، ایلیں)                     | آمنی                                 | چار - دوال                          |
| آمادنی دا ہوئا (امیٹ کی) آمنی دا ہوئا | عایدی داشن                           | راحت                                |
| آم رسمتا (ہوا کا سماں)                | شارع عام - راہ عومی                  | رفود                                |
| آبھونے-سما بھونے                      | آنسے سامنے ہونا                      | آرام کرنا (امیٹ کی)                 |
| فگر فتن - دوچار شدن                   | روبرو شدن                            | آرام کرسی (ن، ایلیں)                |
| آبھونے-سما بھونے (کیوں)               | آہنوسامنے                            | کرسی مند - صندلی راحتی              |
| آجڑوید (ن، پ)                         | طب                                   | آرام دینا (امیٹ کی)                 |
| آجڑوید                                | سن - عمر                             | برآسودن                             |
| آجڑوید دنی (امیٹ کی)                  | سال دزدیدن                           | دستاگر (پ) (ن)                      |
| آجڑ دا اੰਤ ہوئا (امیٹ کی)             | پیانہ پر شدن                         | آشیانہ - آشیان                      |
| آجڑ دا سنبھورن ہوئا                   | میدان برآمدن                         | آلاٹ لانا (پ) (ن)                   |
| (امیٹ کی)                             | آئینہ                                | آلاٹ مس (ن، ایلیں)                  |
| آرامی (ن، ایلیں)                      | اقتصادی                              | کسالت - ستی - ناسازی طبع - تن آسانی |
| آرخک (ہی) آرخک                        | آرخک اشانتیاں (ہوا کا سماں)          | سیب زینی                            |
| آرخک اشانتیاں                         | پریشانی ہی اقتصادی                   | آلاٹ بھارا (پ) (ن)                  |
| آرچ ب (ن)                             | متدا - شروع - عقوبان - آغاز - ابتداء | اجاص - بر قو                        |
| آرچک گلاں (ہوا کا سماں)               | مبادی                                | آلے-دالے (کیوں) آلے دوالے           |
| آرچ کرنا (امیٹ کی)                    | مبادرت کردن - شروع کردن              | پیرامون                             |

## ਆਵਸਕਤਾ ਕੁਮਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)

## احتیاج - ضرورت

ਆਵਸਕ ਵਸਤਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ  
ਆਵਸਕ ਓਥਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਕਰਨਾ

ਕਸ਼ਦ ਦਾਨ

ਆਵਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਦਾਨ

ਆਵਾਗਵਣ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਤਾਖ

ਆਵਾਜਾਈ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)

ਅਮਦਰਫ਼

ਆਵਾਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)

ਚੁਟ-ਨਾ

ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੰਜਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਚੁਚਿਦਨ

ਆਵਾਰਾ (ਵਿ)

ਡਲਗ੍ਰ

ਆਵਾਰਾਗਾਰਦੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਵਾਰਾਗਾਰਦੀ ਕਰਨੀ

ਲੁਵਦਨ

ਆਵਿਸਕਾਰ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਅਤ੍ਰਾਉ-ਬਿਗਾਰ

ਆੜ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)

ਹਾਜ਼

ਆੜ੍ਹਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)

ਕਾਰਗੜਾਰੀ

ਆੜ੍ਹਤੀ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਸੁਸਾਰ

ਆੜੀ / ਮਿਤੱਰ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਦੋਸਤ - یار - رੱਖ - محبت - رੱਖ ਨੂੰ ਲੁਕ

ਆੜ੍ਹਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਖੁੱਖ - ਷ਟਾਲੋ

ਐਸਾ (ਵਿ)

ਕਾਨ੍ਹਾਕਾਨ੍ਹਾ

ਐਕਟਰ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਨਮਾਸ਼ਕਾਰ

ਐਤਵਾਰ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਕਿਕ ਸ਼ਨਬੇ

## ਐਨਕ ਦਾ ਬੋਲ (ਵਾਕਾਂ)

## ਕਾਬ ਇੰਕ

ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਇੰਕ ਗੜਾਣਨ - ਇੰਕ ਜਨ

ਓਸਤ

ਐਬ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਲਮਾਜ਼ -

ਔਕੜ (ਵਿ)

ਅਕਲ

ਔਕੜ ਆਣ ਪੈਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਅਕਲੀ ਵਾਖੀ

ਔਕੜ ਦੂਰ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਮਰਣੁੰਗ ਕਰਨ

ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਹਾਥ ਬੇ ਸੱਕ ਆਮਨ

ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਕਾਰਕੀ ਟੱਕ ਨਮੂਦਨ

ਅਖ ਨਜ਼ਿਠਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਔਕੜ ਖੜਾਂ

ਅਖਾ - ਮਥਕ

ਅਖਾ ਕੰਮ (ਵਾਕਾਂ)

ਨਖੀ - ਕਾਰ ਖੁਤ ਵਾਂਝਾ

ਅਖੋ ਕੰਮ (ਵਿ) ਔਕੜ ਬਵਾ

ਅੱਜਾਰ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ.)

ਦੋਸਤ ਅਵਾਜ਼

ਅੱਤੇਰ (ਵਿ)

ਅਤ੍ਰ

ਅੱਤੇਰ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)

ਲਾਸ ਅਗਜ਼

ਅੱਤੇਰਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ, ਬਵਾ)

ਨਾ

|   |  |   |
|---|--|---|
| ਇਖਾਣ  | (ਨਾਂ ਪੁ)   | ਖਾਲੀ - ਲੋਹਿਤ - ਖਾਵ - ਖਾਵ ਜੀਤੀ - ਪ੍ਰਗਨਦੇ - |
| ਕਮ ਅਗ੍ਰ - ਕਮ ਸਾਲ - ਕਮ ਸਾਲ - ਖੁਦ ਸਾਲ - ਮੁਚੁਮ - ਨਾਦਾਨ | ਸੁਰਪ੍ਰਸ਼ਟ - ਵਲੀ ਨੁਹਤ - ਮਰਤੀ - ਮਿਸ਼ੂਕ - ਮਿਰਪਿਤੀਬਾਨ |   |
| ਇਸ (ਪੜ) ਆਨ  | ਇਸ਼ਟਿਥੋ - ਅਖਮ - ਆਭਿਨੀ (ਨਾਂ ਪੁ)                   |   |
| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਕਿਵਿ)                                | ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |   |
| ਚਨਾਂ ਚੰਨਿਂ  | ਉਤਸ਼ਨੂਕ ਕਰਨ - ਅਖਮ ਕਰਨ - ਆਭਿਨੀ ਕਰਨ                |   |
| ਇਸਤਰੀ - (ਪੋਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ) ਅਵਾਰੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)           | ਇਹ ਹ (ਪੜ) - ਆਨ ਸੀਵੁਕ - ਆਨ ਕਾਨ                    |   |
| ਇਸਤਰੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)                                   | ਇਹ ਅਵਸਰ (ਵਾਕਾਂਸ਼) - ਆਨ ਸੰਸਾਰ (ਵਾਕਾਂਸ਼)           |   |
| ਜਨ - ਜੋ ਜੇ - ਨਾਨ ਮੌਨਥ                               | ਇਹ ਸਵੇਰ (ਵਾਕਾਂਸ਼) - ਆਨ ਬਾਗ - ਆਨ ਸ਼ਸ਼ੰਦਰ - ਆਨ ਕਾਨ   |   |
| ਇਸਤਰੀਆਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ ਬਵ)                              | ਅਮਰੂਜ - ਅਮਰੂਜ ਬਾਮਾਦ                              |   |
| ਆਨ - ਜਾਨ - ਨਾਨ                                      | ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                             |   |
| ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ                           | ਮੰਨ ਨਾਵਾਨ - ਮਲਾਫੇਤ ਕਰਨ - ਮਲਾਫੇਤ ਨਮੂਦਨ            |   |
| ਇਸਤਰੀ ਰਾਬਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਇਹ ਸਾਰੇ (ਵਾਕਾਂਸ਼) - ਹਮੇਹ ਐਨਹਾ - ਤਮਾਮ ਐਨਹਾ        |   |
| ਫਾਰੁਂ ਸ਼ਦਨ   | ਇਹ ਦਿਨ (ਵਾਕਾਂਸ਼) - ਆਨ ਰੂਜ                        |   |
| ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ                       | ਇਹ ਦੋ ਵਰ੍਷ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                             |   |
| ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਇਹ ਬੰਦਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                                |   |
| ਤਾਵੁਦੇ ਸ਼ਦਨ - ਹਾਇਫ਼ ਸ਼ਦਨ                              | ਇਹ ਮੁੜ - ਆਨ ਕਸ - ਆਨ ਖੱਖੜ                         |   |
| ਨਾਵਾਨੀਟ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅਵਾਰੀ ਪਣ                           | ਇਹ ਬੰਦੇ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                                |   |
| ਇਸਤਰੀ ਲੰਗ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅਵਾਰੀ ਲੰਗ                        | ਇਹ ਮੁੜਮਾਲ - ਆਨ ਅਖਾਚ                              |   |
| ਮੌਨਥ - ਮਾਰੀਨੇ - ਤਾਵੁਦੇ                              | ਇੱਕ (ਵਿ) - ਆਕ                                    |   |
| ਇਸਤਰੀ ਲੋਕ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅਵਾਰੀ ਲੋਕ                        | ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਾਂ ਪੁ) ਆਕ ਅਧਿਕਾਰ                   |   |
| ਗਲੁਮ - ਜਾਨ ਜਾਨ                                      | ਇੱਕ ਆਕ ਕਰਕੇ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                            |   |
| ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                              | ਤੱਕ ਤੱਕ  |   |
| ਪਕਾਰ ਬਰਦਨ   |  |   |
| ਇਸਪਾਤ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅਵਾਰੀ ਅਵਾਰੀ                          |  |   |
| ਇਸੇ ਵਕਤ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                                   |  |   |
| ਇਸਟ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅਵਾਰੀ                                  |  |   |

|  |                           |   |                           |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| فراءہم آمدن  | اک ایشوروار (ن، پ)        | توحید۔ یکتا پرستی                                 | اکتر کرنا (امیٹر کی)      |
| گرد کردن۔ جمع آوری نمودن۔ احاطہ نمودن۔ جمع کردن        | اک سار (ہ)                | یک نواخت۔ یکساں۔ مانند۔ مشابہ۔ یک شکل             | ایکٹر کرنا (امیٹر کی)     |
| اجتماع۔ جمع۔ جلسہ                                      | ایکٹر کرنا (ن، ایلیں)     | متحد الشکل  | ایکٹر کرنا (ن، ایلیں)     |
| جمع آوردی۔ فراءہم آوری۔ اجتماع۔ انبوہ۔ جمع شدگی۔ انجمن | ایک سر ہونا (امیٹر کی)    | یکساں۔ یک نواخت                                   | ایکٹر کرنا (ن، ایلیں)     |
| چل و یک  | ایک سر ہونا (امیٹر کی)    | هم آئنگی۔ مطابقت                                  | ایکٹر کرنا (ن، ایلیں)     |
| چل دیکم  | ایک سر ہونا (امیٹر کی)    | الف   | ایکٹر کرنا (ن، ایلیں)     |
| سی او یک   | ایک سر ہونا (امیٹر کی)    | ایک ہزار (ن، پ)                                   | ایکٹر کرنا (ن، ایلیں)     |
| سی او یکم  | ایک سر ہونا (امیٹر کی)    | ایک کیند ری (ہ)                                   | ایکٹر کرنا (ن، ایلیں)     |
| خاک در بودن  | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | هم مرکز۔ ہم میان۔ متحد المکر                      | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| ایک تھاں جاننا   | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | ایک ٹوٹا (واکاںس)                                 | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| ایک تھاں جاننا   | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | جرگہ۔ جماعت۔ گروہ                                 | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| کپیدن۔ از جائی۔ ججائی کشیدن                            | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | ایک ٹوٹا (ہ)                                      | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| ایک رو جے تے چننا                                      | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | شیرازہ شدن۔ گرد آمدن۔ جمع شدن۔ زیاد شدن           | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| انبودن   | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | ایکٹر کرنا (امیٹر کی)                             | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| تساقط  | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | جمع کردن۔ جمع آوری کردن۔ گرد کردن۔ گرد آوردن      | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| فراخیدن۔ از هم جدا کردن                                | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | فراءہم آوردن                                      | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| ایک رو جے توں ڈرنا                                     | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | از لائقار۔ بد نیساں۔ بدین ترتیب۔ بنابرائیں        | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| تخاوف  | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | ایکٹر کرنا (امیٹر کی)                             | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| فراءہم۔ یکجا گرد آمدن۔ جمع شدہ۔ اجتماع۔ جمعیت          | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | فراءہم۔ یکجا گرد آمدن۔ جمع شدہ۔ اجتماع۔ جمعیت     | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| ایک رو جے توں ڈرنا                                     | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | ایکٹر کرنا (امیٹر کی)                             | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |
| ایک رو جے توں ڈرنا                                     | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) | گرد آمدن۔ جمع شدن۔ باہم اجتماع کردن۔ ازیار یافتہ۔ | ایک تھاں تکننا (امیٹر کی) |

|  |  |
|--|--|
| کਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨੀ                         | بجੂਰ۔- یکਸਾਂ۔- ਬਾਬਰ۔- ਮਾਨਦੇ۔                   |
| ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਕ ਦੁਖੇ ਵੀ ਰਹਾਇਤ ਕਰਨੀ                 | تشاہਬہ   |
| ਮਾਨਦੇ  | مشਾਬਹਤ۔- ਥਾਹਤ۔- ਹਮਾਨਦੀ۔                        |
| ਸਾਡਰ ਚਾਦਰ                                      | ਇਕਰੂਪਤਾ (ਨਾਂ) ਆਕ ਰੂਪ (ਇਲਿੱਗੀ)                  |
| ਅਤੀ-ਚਾਰੀ ਲਖਣ                                   | ਥਾਹਤ۔- ਖਲੋਤ۔- ਬੇ ਗੁਲਗੀ۔- ਤਜਰ੍ਹ-ਅਨ੍ਵਾ- ਜਦਾਂਦਗੀ۔ |
| ਅਕੀਪੇ ਪਹੁੰਚਦੀਨਾ ਦੇਣਾ                           | ਤਹਾਗੜਾਰੀ                                       |
| ਕਨਾਗੜਾਂਥਾਂ                                     | ਇਕਲਾ (ਵਿਵਿਧ) ਆਕਲ (ਵਿਵਿਧ)                       |
| ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਕਲ ਕਰਨਾ                              | ਮਫ਼ਰੂ- ਫਰੂ- ਮਜ਼ਬੂ- ਯੀਕ ਨਵੇਂ                    |
| اعਤਾਫ ਕਰਨੀ- ਅਤਾਰ ਕਰਨੀ- ਕੁਲ ਕਰਨੀ- ਤਚਦੀਕ<br>ਕਰਨੀ | ਇਕਲਾ-ਇਕਲਾ (ਕਿਵਿਵਿਧ) ਆਕਲ-ਕਲਾ                    |
| ਅਕਮਤ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            | ਤੱਕ- ਤੱਕ- ਤੱਕ- ਯੀਕਾਂਗੀ- ਫਰੂਅਫਰੂ- ਅਨਵਾਦ         |
| ਮਾਵਤ ਹੋਣੀ- ਮਾਵਤ ਸ਼ਦਨ                            | ਇਕ ਸਾਰ (ਵਾਕਾਂਗੁ) ਆਕਾਸਾਰ ਸਵਾਰ                   |
| ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           | ਇਕਲਾਪਾ (ਵਿਵਿਧ) ਆਕਲਾਪਾ (ਵਿਵਿਧ)                  |
| ਦਰਪੀ ਸਟਨ- ਮਤਚਲ ਸ਼ਦਨ- ਮੁਖਣ ਸ਼ਦਨ                   | ਤੱਕ- ਯੀਕਾਂਗੀ- ਅਨਵਾਦ                            |
| ਇੱਕਰ (ਕਿਵਿਵਿਧ)                                 | ਇਕ-ਵਚਨ (ਅ) ਆਕ ਵਚਨ                              |
| ਅਜਾਤਕਾਰ- ਬਦਿਸਾਂ- ਬਦਿਨ ਤਰ੍ਹਿਤ- ਐਲਟੋਰ- ਚੰਨੀ-     | ਚੰਗਾਹਾਡਿਕਮ                                     |
| ਅਜਾਤਕਾਰ- ਬਦਿਸਾਂ- ਬਦਿਨ ਤਰ੍ਹਿਤ- ਐਲਟੋਰ- ਚੰਨੀ-     | ਇਕਵੰਜ਼ਾ (ਵਿਵਿਧ)                                |
| ਇਕਰਾਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਕਰਾਰ ਕਰਨਾ                     | ਇਕ ਵਾਰ (ਕਿਵਿਵਿਧ) ਆਕਵਾਰ                         |
| ਤੌਦਾਨ- ਉਦੇਹ ਕਰਨੀ- ਉਦੇਹ ਦਾਵਨ- ਉਦੇਹ ਕਰਨੀ-        | ਕਿਵੁਦੁ- ਕਿਵੁਦੁ                                 |
| ਪੀਯਾਨ ਦਾਰਨ- ਮਤਚਲ ਹੋਣਾ                          | ਇਕਵੰਜ਼ਾ (ਵਿਵਿਧ)                                |
| ਇਕਰਾਰ ਤੇੜਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਕਰਾਰ ਤੇੜਨਾ              | ਇਕਵੰਜ਼ਾ (ਵਿਵਿਧ)                                |
| ਨਚਨ ਕਰਨੀ- ਨਚਨ ਨਮੂਨ                             | ਇਕਵਾਰ (ਕਿਵਿਵਿਧ)                                |
| ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ (ਵਿਵਿਧ)                          | ਕਿਵੁਦੁ- ਕਿਵੁਦੁ                                 |
| ਰਾਖ ਅਤੇ ਅਤੇ                                    | ਇਕਵੰਜ਼ਾ (ਵਿਵਿਧ)                                |
| ਥਾਵਾਂ- ਪਾਬੰਦੀ- ਮੁਹੱਤ- ਥਾਵਿਤੀ- ਅਤਮਾ- ਮੁਤੰ-      | ਇਕਵੰਜ਼ਾ (ਵਿਵਿਧ)                                |
| ਥਾਵਾਂ- ਪਾਬੰਦੀ- ਮੁਹੱਤ- ਥਾਵਿਤੀ- ਅਤਮਾ- ਮੁਤੰ-      | ਇਕਵੰਜ਼ਾ (ਵਿਵਿਧ)                                |
| ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ      | ਇਕਵਾਰ (ਵਿਵਿਧ)                                  |
| ਉਦੇਹ ਵਕਾਰਨ- ਸ੍ਰਵਲ ਖੁਦਾਇਤਾਨ                     | ਇਕਵਾਰ (ਵਿਵਿਧ)                                  |
| ਇਕਰੂਪ (ਵਿਵਿਧ)                                  | ਇਕਵਾਰ (ਵਿਵਿਧ)                                  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| متسر کر کر دن                       | آرزو کردن۔ خواہش کردن۔ میل داشتن  |
| ایکاگرڈا (نام، ایمیٹ) (اگر تا)      | اچھا پوری کرنی (آمیٹ کی)  |
| تم کر ز                             | اچھا پوری کرنی کام دل بر آوردن  |
| ایکانت (نام، ایمیٹ)                 | اچھا پورہ (ایمیٹ)   |
| خلوت۔ تہائی۔ ازدوا۔ گوشہ نہیں۔ عزلت | اچھا پورہ خلاف مرضی   |
| ایکانت واس (بڑا)                    | اچھارہت (ایمیٹ)   |
| گوشہ گیری۔ خلوت گزینی۔ ازدوا        | بی خواہش۔ بی آرزو۔ بی میل۔ ناراضی   |
| ایکانت واس کرنا (آمیٹ کی)           | میں جو (بڑا) اجر رہے۔ گلہ   |
| کنارہ کردن۔ کنارہ گرفتن             | ایکانت لٹٹنی (آمیٹ کی)  |
| ایکانت واسی (ایمیٹ)                 | بی حرمت کردن۔ بی احترامی کردن۔ عصمت دری کردن۔ پرده عصمت (زبان را) دریدن۔ بزرگ نہ کردن با۔ |
| خلوتی۔ مجرم۔ کنارہ گیر۔ گوشہ نہیں   | خشت   |
| ایکانہاں (بڑا)                      | ایک (نام، ایمیٹ)  |
| نودم۔ نودمین                        | ایک-خونکا (بڑا) اٹ کھڑکا  |
| ایکانوے (ایمیٹ)                     | دشمنی۔ خصومت۔ مخالفت۔ نزاع۔ سیزہ  |
| پیست و یک (ایمیٹ)                   | ایک چھوئے نوس پھر   |
| پیست و کیم (ایمیٹ)                  | (ہاکام) کلوخ انداز رانگ   |
| ایکے جہا سلوک کرنا                  | ایک دا یکا (ہاکام)  |
| (آمیٹ کی)                           | قفل الائیاری  |
| بیک یک چشم نگر یعنی                 | ایک (پہنچی) (ایمیٹ)   |
| ایکوئر سے (ایمیٹ)                   | ایک پہنچنی (آمیٹ کی)  |
| یک صدو یک۔ صدو یک                   | خشت زدن   |
| ایکڑیا ر سونپنا (آمیٹ کی)           | ایٹر (ایمیٹ)  |
| محترکردن                            | اصحابہ  |
| ایکڑیا ر کرنا (آمیٹ کی)             | ایٹر گھوٹی (ایمیٹ)  |
| در زیدن                             | ایٹر گھوٹا کرنا   |
| ایٹر (کیم) اچھا                     | مصاحبه کردن   |
| ضمنا۔ در این ضمن                    | ایٹر گھوٹا  |
| ایٹک                                | پارہ آجر۔ خردہ۔ باقی ماندہ  |
| خواہش مند۔ آرزو مند۔ خواہاں۔ مشتاق  | ایٹان (ایمیٹ) بدل   |
| ایٹا (نام، ایمیٹ)                   |   |
| طلب۔ خواہش۔ میل۔ آرزو۔ کامہ         |   |
| ایٹا کرنی (اچھا کرنی)               |   |

|   |   |
|---|---|
| بین۔ خشت ہے۔  | انصاف طلب کرنا                                |
| ਇੰਡਾਂ ਦਾ ਢੇਰ (ਨਾ: ੫) اਕਾਲ ਵਾਹਿਸ਼                    | فرجام خواستن                                  |
| خڑੇ خشت   | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                     |
| ਇੰਡੇਕਸ (ਨਾ: ੫) ਅੰਥੱਕੀਸ                              | ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |
| ਇਤ-ਉਤ (ਨਾ: ੫) ਏਟਾਟ                                  | استਕਾਤ ਕਰਨ - ਅਤਿਆਵਰ زیدਾ - ਗਰੁੰਦ ਪਿਚੀਦਾ -     |
| ਇਤਹਾਸ (ਨਾ: ੫) ਏਤਾਸ                                  | ਸਰਬਾਹਦਨ - ਹਾਥੇ ਕਰਨ                            |
| ਇਤਹਾਸਕ (ਵਿ) ਏਤਾਸਕ                                   | ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |
| ਇਤਹਾਸਕਾਰ (ਨਾ: ੫)                                    | ਮੁਕਾਬਲਾ - ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੁਨਿਆ                       |
| ਮੌਰਖ - ਤਾਰੁੜ ਨ੍ਹਾਇਸ                                 | ਚੰਦਾਨ   |
| ਇਤਹਾਸ-ਵਿਦਿਆ (ਨਾ: ੫) ਏਤਾਸ ਬੁਨਿਆ                      | ਅਭਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ                                |
| علم توارੁੜ  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                     |
| ਤਾਰੁੜ (ਨਾ: ੫) ਏਤਾਸ                                  | ਵਰਸਾ ਗਰੁੰਦ                                    |
| ਇਤਰਜ਼ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                | ਇਵਰਤ ਲੈਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |
| ਹਰਦਾਸ਼ਨ  | ਗੁਝ ਗਰੁੰਦ                                     |
| ਇਤਰਜ਼ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                | ਖੜ੍ਹ - ਹੁਮਰ                                   |
| ਅਧਾਰਗ ਫਤਨ   | ਇਮਲੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                |
| ਇਵੇਂ ਤਕ / ਜਿਥੋਂ ਤਕ / ਜਦ ਤਕ                          | ਇਗਦਾ (ਨਾ: ੫) ਆਰਾਹ                             |
| ਹਿ  | ਕੁਦ - ਆਹੰਕ - ਨੀਤ - مقصود - عزم - ਮੁਦ          |
| ਇੰਦਰ ਜਾਲ (ਨਾ: ੫) ਅਨੁਰਾਜ                             | ਇਗਦਾ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |
| شعبدہ - اشتہاہ بینائی - خطب بصر - ظਾਹਰ ਫਰੀਨਦਾ - ਟੁਰ | ਆਹੰਕ ਕਰਨ - ਕੁਦ ਨਮੂਦਨ - ਬਿਚੀਦਾ                 |
| ਚੁਹੂ - ਟੁਰ  | ਇਗਦਾ ਤੇੜ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       |
| ਇੰਦਰੀ (ਨਾ: ੫) ਅਨੁਰੀ                                 | ਨੁਖੂ ਵੱਡਤਾ ਕਰਨ                                |
| ਅਨੁਦਾਮ ਵਿਥੇ ਯਕੀਏ ਜਾਂ ਹਾਸ ਪੱਚਗਾਨਾ - ਅਨੁਤਾਸ           | ਇੱਲ (ਨਾ: ੫) ਅਲ                                |
| ਇੰਪਰ-ਉਪਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  | ਖਾਤ - ਜ਼ਗਨ                                    |
| ਲਖਿਦਾਨ  | ਇਲਾਤਜਾ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |
| ਉਥਾਕਬਰ (ਵਾਕਾਸ਼) ਅਨੁਵਾਦ                              | ਮੁਲਗੀ ਬਣਨ                                     |
| ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ  | ਤਤੀਮ  |
| ਇਨਸਾਫ (ਨਾ: ੫) ਅਨੁਚਾਫ                                | ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |
| ਦੁਰਾਤ - ਦਾਗਰੀ - ਦਰਸਤੀ - ਚਦਾਤ                        | ਕਾਲੇ  |
|   | ਇਲਾਜ (ਨਾ: ੫) ਉਲਾਜ                             |
|   | ਦਰਮਾਨ - ਚਾਰੇ                                  |
|   | ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |
|   | ਮਦਾਓਕ ਕਰਨ - ਦਰਮਾਨ ਕਰਨ - ਦਾਰਦ ਕਰਨ - ਤਾਡਾਵੀ ਕਰਨ |
|   | ਇਲਾਜ-ਯੋਗ (ਵਿ) ਉਲਾਜ-ਯੋਗ                        |

|   |                 |                          |                     |
|---|-----------------|--------------------------|---------------------|
| ਇਵਜ਼ਾਨਾ (ਨਾਂ ਪੁ)                            | جیا             | ਈਰਖਾਲ੍ਹ (ਵਿ) ਅਕਾਲੂ       | حاسد                |
| ਈਸਬਗੋਲ (ਨਾਂ ਪੁ)                             | سایوس           | ਏਕਤਵ (ਵਿ) ਅਭਿਤੁ          | فردیت۔ کیتاں۔ وحدت۔ |
| ਈਸਵਰੀ ਗੁਣ (ਨਾਂ ਪੁ; ਬਵ)                      | ਅਥੋਰੀਗੁਣ        | ਏਕਤਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)        | اتحاد               |
| ਓਚਾਫ਼ ਐਂਡ੍ਰੀ                                |                 | ਏਕਵਾਦ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅਕਿਊਾਰ    | توحید فلسفی         |
| ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | عید دا چੰਦ ਹੋਣਾ | ਏਕੜ (ਨਾਂ ਪੁ) ਅਕਿਤੁ       | عکا                 |
| بعیدالعدਦਨ                                  |                 | ਏਕਾ (ਨਾਂ ਪੁ)             | اتفاق               |
| ਈਦ ਮਗਰੋਂ ਤੱਬਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                     | عید ਮਗਰੋਂ ਤੱਬਾ  | ਏਥੇ (ਵਿ) ਅਥੇ             | ایس جا              |
| قبਾਦੁਅਤ ਉਦੀ                                 |                 | ਏਥੋਂ (ਵਿਵਿ) ਅਥੋਂ         | از بینجا            |
| ਈਧਨ (ਨਾਂ ਪੁ)                                | خطب             | ਏਪਰ (ਵਿਵਿ) ਏਧਰ           | ایدر                |
| ਈਨ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)                             |                 | ਏਪਰ-ਉਪਰ (ਵਿਵਿ) ਏਧਰ او در | این سرداں           |
| اطاعت۔ تسلیم۔ فرماਂ بردارੀ۔ انਤੀਮ۔ زیر دستੀ |                 | ਏਪਰ ਉਪਰ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ایਧਰ او در ਕਰਨਾ     |
| ਈਰਖਾ/ਸਾਜ਼ਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)                     |                 |                          | جاہے جا کر دਨ       |
| ਹਸਦ۔ ਰਿਕ۔ رقبਤ                              |                 | ਏਪਰੋਂ (ਵਿਵਿ) ਏਧਰਾਂ       | از ایں سو           |
| ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |                 | ਏਨਾ (ਪੜ) ਏਨਾ             | ایں قدر             |
| ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀ                                 |                 | ਏਲੂਆ (ਨਾਂ ਪੁ) الیوا      | صر۔ صر              |

|                                |                                |                                       |  |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| سنس (نام، ایڈلین)              | مادرزن۔ مادر شوہر۔ خود امن     | میں پسند نہیں (نام، پور)              | ترمیم                                  |
| مسکون (نام، پور)               | مسکون                          | سہاٹیک (ہی) سماںک (پور)               | مدوگار۔ یاور۔ ناصر۔ حامی۔ حمایت۔ معادن |
| میں کوئی نہیں (نام، ایڈلین)    | میں کوئی نہیں                  | سہاٹیک سپاک (پور)                     | مدیر معادن                             |
| مسماں۔ کم بہا۔ زودیاب (ہی) ستا | مسماں۔ کم بہا۔ زودیاب (ہی) ستا | سہاٹیک رکھنا (امیٹ کی)                | شاخ داشن                               |
| مسماں ایلان (امیٹ کی) ستا      | آسودن                          | سہاٹیک رکھنا (امیٹ کی)                |  |
| مسماں اپن (نام، پور)           | ارزان۔ کم بہائی۔ زودیابی       | سہاٹیا (نام، ایڈلین)                  |  |
| مسماں (نام، ایڈلین)            | ادارہ                          | مک۔ ہم دستی۔ دست یاری۔ دست گیری۔ مد۔  |  |
| مسماں / جگہ (نام، پور)         | سنار رجھت                      | مساعدت۔ اعانت۔ پشتی۔ یاوری            |  |
| جهان۔ دنیا۔ عالم               | دینا۔ جہان۔ عالم (ہی) سنارک    | سہاٹیا (کی) سماں تاہست                | بعون                                   |
| دینا۔ جہان۔ عالم (ہی) سنارک    | سنارسواد (ہا کا من)            | سہاٹیا کرنی (امیٹ کی)                 |  |
| لذاتِ دنیوی                    | سنارک کھناؤں                   | دست گرفتن۔ دستیاری کردن۔ بازدادن      |  |
| مسماں رکھنا (ہا کا من)         | وقایعِ دنیوی                   | سہاٹیا چاہنا (امیٹ کی)                |  |
| مسماں رکھنا (نام، ایڈلین)      | دنیاداری                       | استظرہار۔ مددخواستن۔ استمداد۔ استعانت |  |
| مسماں رکھنا (امیٹ کی)          | سنارنوں سچاؤں                  | زند۔ زند (امیٹ کی) سماں تاری          |  |
| جمال آر استن                   | جمال آر استن                   | سہاٹیا میگانگا (امیٹ کی)              |  |
| مسماں رکھنا (امیٹ کی)          | سنارنوں تیگا                   | استمداد۔ مددخواستن۔ استعانت           |  |
| دست از دنیا شتن                | تیکیہ دادن۔ تکیہ نمودن         |                                       |  |
| مسماں رکھنا (ہی) سنار پر سدھ   | شرہ آفاق                       | سہیا (نام، پور)                       | خرگوش۔ اربن                            |
| مسماں رکھنا (نام، پور)         | نظام عالم                      | سہیگانی (نام، پور)                    |  |
| دنیادار۔ دنیادوست (ہی) سناری   | دنیادار۔ دنیادوست              |                                       | ہم قدم۔ ہمراہ۔ ہم سفر۔ ہم پا           |
| مسماں رکھنا (نام، پور)         | سناریاں                        | سہیصار / میلاد                        |  |
| جمانیان۔ عالمیان               |                                |                                       | صحت داری۔ موافقت۔ رفاقت                |

|  |                |   |                       |
|--|----------------|---|-----------------------|
| سہیندر (ہ) سہندر (ن)                   | بردار          | سراہب کریا (ن، ایلیں)                         | فعل متعدد             |
| سہیپرمی (ن، پ)                         | سہدھری         | تدوین۔ تالیف (پ)                              | میں کلنا (ن)          |
| ہم مذہب۔ ہم کیش۔ ہم عقیدہ۔ ہم آئین     | تمکین          | یازش۔ قصد۔ آہنگ (ن، ایلیں)                    | سکھپ                  |
| سہین۔ سکڈی (ن، ایلیں)                  | سہن شکستی      | سکا برا (ن، پ)                                | شقین                  |
| سہین۔ سکڈی پیدا کرنی پیدا کرنی         | طااقت آوردن    | سکرا رتمک کچھ (ہا کا نہ)                      | سکارا تمک             |
| (امیٹ کی)                              |                | سکارا تمک پخ                                  | طرف ثبت               |
| سہین۔ سیل (ہ)                          | سہن شیل        | ثانیہ (پ)                                     | سکھنے                 |
| فراغ حوصلہ۔ متحمل۔ بردار۔ حیم          | تحمل           | سکھنے کرنے (ن)                                | تیگی                  |
| سہین سیلزا (ن، ایلیں)                  | سہن شیلے       | سکھنے کرنے (ن، ایلیں)                         | پرت خیال (ہا کا نہ)   |
| فراغ حوصلہ۔ تحمل۔ برداری۔ برداشت       | تحمل کردن      | سکھنے کرنے (ن، ایلیں)                         | درس خانہ۔ درس گاہ (پ) |
| سہین کردن (امیٹ کی)                    | ہمراہ۔ ہمراہی  | سکھنے کرنے (ن، ایلیں)                         | اشارہ۔ ایما           |
| سہین پیٹھی (ہ)                         | ہم درس۔ ہم سبق | سکھنے کرنے (ن، ایلیں)                         | سکھنے کرنے (امیٹ کی)  |
| سہیم کر (ن، پ)                         | باک            | سکھنے کرنے (ن، ایلیں)                         | ایمام داشن            |
| سہیم ت ہوئا (امیٹ کی)                  |                | سکھنے کرنے (امیٹ کی)                          |                       |
| ہماری شدن۔ اتفاق کردن۔ متفق گئن۔ موافق | کردن           | اب روبلند کردن۔ اشارہ کردن۔                   |                       |
| سہیجے گا (ن، پ)                        | سہیج کاری      | سکھنے کرنے (امیٹ کی)                          |                       |
| سہیجے گا دئیا (امیٹ کی)                | سہیج گریا      | سکھنے کرنے (امیٹ کی)                          |                       |
| ہم کاری کردن                           |                | در پوست گئن                                   |                       |
| سہیجے گی (ہ، ن، پ)                     | ہم کار         | مرہ سفید                                      |                       |
| سہیواس (ن، پ)                          | ہم خانہ        | عاری  |                       |
| سہیں (ن، ایلیں)                        | حلف            | درشت  |                       |
| سو گند خوردن (امیٹ کی)                 | سو گند کھانی   | حاصل  |                       |
| سو گند چکنی (امیٹ کی)                  | سو گند کھانی   | سکھت ہنری (ن، ایلیں)                          |                       |
| سو گند چکنی (امیٹ کی)                  | سو گند کھانی   | سکھت ہملا کرنا (امیٹ کی)                      |                       |
| سو گند کھانی (امیٹ کی)                 | سو گند کھانی   | گران رکاب شدن۔ حملہ بردن بشدت۔ دو اسہہ تا نعن |                       |
| سکھلی / سڑی / رشرستی (ن، ایلیں)        | صاحبہ          | سکھت ہوئا (امیٹ کی)                           |                       |
| سکھلی / سڑی / رشرستی (امیٹ کی)         | تو اسعن        | سکھت کرنا (امیٹ کی)                           |                       |
|  |                | کلندریں                                       |                       |

|   |                               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| سکھਡ ਕੜਾ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 | خخت ਕੁਝਾ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | سਗਨ ਵੱਖਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  |
| گੰਨੇ ਗੰਨੇ ਬੂਦਨ                          | عੱਢੇ                          | رਖਾਮ (ਨਾ, ੴ)                         |
| ਸਕ਼ਤ ਪੱਠਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                     | خੱਤ ਪੱਥਾ                      | ਸੰਗ ਮਰਮਰ                             |
| ਸਕ਼ਤ ਬਦਹਾਲ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)               | ਖੱਤ ਬਦਹਾਲ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਸੰਗਰਹਿ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)                   |
| کਾਰਦ ਬੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਸੀਦਨ                   |                               | ਸੰਗਰਾਮ (ਨਾ, ੴ)                       |
| ਸਕ਼ਤ ਬਲਾਂ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)                   | ਖਾਚੇ                          | ਸੰਗਲ ਖੇਲ੍ਹ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਸਕ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ                         | ਖੱਤ ਮਹਨਤ ਕਰਨੀ                 | ਬੰਦ ਕਥਾਦਾਨ                           |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               | ਦਮਾਂ ਸੂਖਣ                     | ਸੰਗਲ ਵਿਚ ਜਕੜਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)              |
| ਸਕ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਖੱਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਡਰੰਡ ਕਿਥਿਦਾਨ                         |
| ਅਮਿਤ ਕਿ)                                | ਉਚ ਰਿਤੁਨ                      | ਸੰਗਲੀ / ਸੰਤਾਨ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)            |
| ਸਕ਼ਤੀ ਖੱਤੀ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)                  |                               | سلسلہ                                |
| ਸਲਾਭ - ਮੁਫ਼ਤ - ਏਸਟਾਰੀ - ਵਰਣੀ            | ਖੱਤੀ ਕਰਨੀ                     | زਲੁਗਿਨ - ਜਨੀਰ                        |
| ਸਕ਼ਤੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਵਰਣੀ ਕਰਨੀ                     | ਸੰਗਲੀ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)                    |
|   | ਵਰਣੀ ਕਰਨੀ                     | ਸੰਗਲੀਆਂ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ, ਛਵਾ)             |
| ਸਾਖਾ (ਨਾ, ੴ)                            | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਗਲੀ (ਨਾ, ੴ)                        |
| ਸੰਖੀਆ (ਨਾ, ੴ)                           | ਵਰਦਮ ਵਾਰ                      | ਜਲੀਸ - ਹਮ ਨਿਸ਼ਿਨ - ਵਸਾਰ - ਰਿਤੀ - ਵਾਸਤ |
| ਸਥੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਗਲੀ ਸਾਖੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਸ਼ਾਵਾਤ ਵਾਸ਼ਨ - ਕਰਮਤ ਵਾਸ਼ਨ - ਮਖ਼ਿਰ ਬੂਦਨ    |                               | ਮਚਾਹੂਬ ਬੂਦਨ                          |
| ਅਖ਼ਚਾਰ - ਅਖ਼ਾਲ (ਨਾ, ੴ)                  | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | علم ਮੁਸਿਕੀ (ਨਾ, ੴ)                   |
| ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਗੀਤ - ਸ਼ਾਸਤਰ                       |
| ਤੱਖਿੱਚ - ਕੂਤਾਹ ਕਰਨੀ                     | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਨ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                 |
| ਸੰਗਤ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)                        | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                  |
| ਸੰਗਤ ਰਾਗ / ਗੱਲਬਾਤ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)           | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਘਟਨ (ਨਾ, ੴ)                        |
| ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                 |
| ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੰਘਣੀ ਦਾੜੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                 |
| ਸੰਗਤ ਰਾਗ / ਗੱਲਬਾਤ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)           | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਦੀਵਾਲਾਂ - ਰਿਲਿਸ ਤੋਪ                  |
| ਸੰਗਤ ਰਾਗ / ਗੱਲਬਾਤ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)           | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਖੁਕਾਰਾਤ / ਅਧਿਕਾਰ                     |
| ਸੰਗਤ ਰਾਗ / ਗੱਲਬਾਤ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)           | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | (ਨਾ, ੴ)                              |
| ਚੁਗ - ਮਚਾਹੂਬ - ਵਰਦਮ - ਗੁਫ਼ਟਾਂ - ਗੁਫ਼ਟਾਂ | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਹੁਤ                                  |
| ਸੰਗਤ ਰਾਗ / ਗੱਲਬਾਤ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)           | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੱਚ / ਸੱਤ / ਅਧਿਕਾਰ                   |
| ਸੰਗਤ ਰਾਗ / ਗੱਲਬਾਤ (ਨਾ, ਇਲਿੱਟ)           | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | (ਨਾ, ੴ)                              |
| ਕਮਾਨ - ਫਾਲ ਗੁਵੀ - ਤਾਲੁਗੀ                | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ                          |
| ਸੰਗਨ ਵਿਚਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | (ਵਾਕਾਂਸ਼)                            |
| ਕਮਾਨ - ਫਾਲ ਗੁਵੀ - ਤਾਲੁਗੀ                | ਵਰਦਮ - ਵਾਸਤ                   | ਰਾਸਤ ਵਾਦੂਗ                           |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| سچ آخون (آمیڈ کی)                      | سچے مارگ چلنے (آمیڈ کی)          |
| راست گھن۔ بطور حقیقت گھن               | رشادت۔ رشد۔ رشد                  |
| سچ دل کذب صدقہ جو چھوٹھے (ن، پ) (ن، پ) | سچے میڈر خلانے (ن، پ، پ) (ن، پ)  |
| سچ بول لانے / سچی گول کہی لئی          | سچے ویسہ ہالانے (آمیڈ کی)        |
| حق گھن (آمیڈ کی)                       | قابل تمحن                        |
| الحق                                   | سنج                              |
| سچ مُص                                 | بیدار                            |
| سچل سُپڑی کچل سُتی (ن، ایلیں)          | صحو۔ ہوشیاری۔ بیداری             |
| مال منقول                              | جعہر بھل ناسی                    |
| صادق۔ راست باز (ہ)                     | سچاندا / ڈلماں نی                |
| صداقت سچائی (ن، ایلیں)                 | شرافت (ن، ایلیں)                 |
| سچا گواہ (ہاکامش)                      | اقا                              |
| شہد صادق۔ شہد راست گوی                 | متقی                             |
| سچا میہربان (ہ)                        | متقی بودن                        |
| خلالت سچاریان (ہ)                      | تازہ                             |
| سچا میڈر خلیل۔ دوست خالص۔ یار مخلص     | تازگی                            |
| بلاغ (ن، پ)                            | جدت                              |
| اجرا (ن، پ)                            | چشم پر آب                        |
| صالحت پیرار (ن، ایلیں)                 | راست                             |
| سچیاں گولانے (ن، ایلیں، پ)             | آرائی۔ آرائیدن۔ پیرائتن۔ طرازیدن |
| اوائل صداقت مآل۔ اصدق                  | سچاٹیں (آمیڈ کی)                 |
| سچی سچر (ہاکامش)                       | آئین بعن                         |
| شوک درست۔ آرزوی صادق                   | سچایساڑیا۔ سہاریا (کیہی)         |
| سچی سُچی میڈر (ن، ایلیں)               | ساختم پرداخت۔ آرائست پیرائست     |
| خلاما                                  | سچا ہنس (ہاکامش)                 |
| سچی گول (ن، ایلیں)                     | کیمین۔ دست راست۔ سمت راست        |
| حرف حق۔ سخن درست                       | سچاٹ (ن، ایلیں)                  |
| توالب سچے (ن، پ، پ)                    | زبرج۔ زینت۔ آرائی۔ زیباش         |
| ہوشیار۔ بیدار۔ خردار۔ عطا (ہ)          |                                  |
| سچیت                                   |                                  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| سماں و ست کرنی (امیڈ کی)                        | سماں و ست کرنے (امیڈ کی)           |
| تَزْمِين - مزین کردن                            | تَزْمِين - تزئین کردن              |
| سماں و ستی (ہم) سماں و ستی (ہم)                 | آرائیش - تزئین                     |
| سماں و ستی (ہم) سماں و ستی (ہم)                 | جاندار                             |
| سمنی (نام، ایلیٹ) سمنی (نام، ایلیٹ)             | شخار                               |
| سماں لالا (ہم) سماں لالا (ہم)                   | خوش تراش                           |
| سمنے ام (نام، ایلیٹ) سمنے ام (نام، ایلیٹ)       | چار آئینہ - چله                    |
| سمنے گ (نام، پ) سمنے گ (نام، پ)                 | وصال - وصل                         |
| سماں دے لانا (امیڈ کی) سماں دے لانا (امیڈ کی)   | عقاب                               |
| سمن (نام، ایلیٹ) سمن (نام، ایلیٹ)               | ضرب                                |
| ضرب خوردن (امیڈ کی) ضرب خوردن (امیڈ کی)         | سمنٹ بھانی                         |
| ضرب زدن (امیڈ کی) ضرب زدن (امیڈ کی)             | سمنٹ مارنی                         |
| سماں ایک (نام، ایلیٹ) سماں ایک (نام، ایلیٹ)     | گرو                                |
| سماں ایک کرنی (امیڈ کی) سماں ایک کرنی (امیڈ کی) | گرو کردن                           |
| سماں و ست (ہم) سماں و ست (ہم)                   | مشرح                               |
| سمنڈی (نام، پ) سمنڈی (نام، پ)                   | عکاس خانہ                          |
| سمنڈل (نام، پ) سمنڈل (نام، پ)                   | اسکملہ                             |
| سمنڈنگری (نام، ایلیٹ) سمنڈنگری (نام، ایلیٹ)     | لوازم اتحریر                       |
| سمنٹ بک (ہوا کا نہ) سمنٹ بک (ہوا کا نہ)         | بانک دولتی                         |
| سمن (ہم) سمن (ہم)                               | شست                                |
| سمنڈل تا (نام، ایلیٹ) سمنڈل تا (نام، ایلیٹ)     | رشاقت - سع                         |
| سمنڈھا (نام، پ) سمنڈھا (نام، پ)                 | جاموس                              |
| سمن (نام، ایلیٹ) سمن (نام، ایلیٹ)               | لاونہ                              |
| سمن (ہم) سمن (ہم)                               | ہفت                                |
| سماں و ست (ہم) سماں و ست (ہم)                   | احترام                             |
| سماں و ست کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)               | تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)      |
| سماں و ست کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)               | تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)      |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | دست بعن - تعظیم کردن               |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | دست بعن - تعظیم کردن               |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | معیج                               |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | شرنخ                               |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | صدیق - صادق و راسخوی - دائم الصدق  |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | انگانہ                             |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | قراغول                             |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | ہفتم - سانح                        |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | سع                                 |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | صاحبی / مالکی (نام، ایلیٹ)         |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | سماں و ست کرنے (امیڈ کی)           |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | آزادن - آزرن                       |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | پیست و هفت                         |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | پیست و هفت                         |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | اولاد                              |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | لاؤلد                              |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | سنتان میں مر جانا                  |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | اجاق کو ربودن                      |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | سنتان پیدا کرنی (امیڈ کی)          |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | توال                               |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | سنتاپ                              |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | غم - اندوه - حزن - ملالت - پریشانی |
| تکرار کرنے پیش آؤنا (امیڈ کی)                   | ہمدرم                              |

|                                     |                         |                                 |   |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| سماں (ہ)                            | ستاراں (ہ)              | ہندہ                            | ستھائی ٹکاناتاں میل لانہ                |
| سینڈالی (ہ)                         | ستالی (ہ)               | چل و ہفت                        | (امیڈ کی) جانیدن                        |
| سینڈالیوں (ہ)                       | ستالیوں (ہ)             | چل و ہفت                        | (امیڈ کی) سماں                          |
| سٹانڈاں (ہ)                         | ستوان (ہ)               | مقدر                            | جا۔ مقام۔ مکان۔ جایگا۔ محل۔ موقع۔ مستقر |
| سٹی۔ راستی۔ اصل (ن، پ)              | ست (ن، پ)               | حق۔ راستی۔ اصل                  | مکی۔ مقایی                              |
| سٹیاڑا (ن، ایلیں)                   | ستیاڑا (ن، ایلیں)       | حقانیت                          | سماں دینے (ہ) ستمان                     |
| سٹیاڑا / میٹر (ن، ایلیں)            | ستیاڑا / متر (ن، ایلیں) | صداقت۔ راستی۔ دستی۔ محبت۔ اخلاص | گنجانیدن                                |
| سٹیاڑا (ہ)                          | ستواری (ہ)              | حکم گو۔ راست گو۔ صادق نفس       | درس۔ سبق                                |
| سٹیاڑا (ہ)                          | آسودہ حال۔ مطمئن (ہ)    | سنتھٹ                           | سماں دینے (ہ) ستمان                     |
| سٹیاڑا ہونا (امیڈ کی)               | سنتھٹ ہونا (امیڈ کی)    | راضی ہون۔ مطمئن ہون             | سماں دینے (ہ) ستمان                     |
| سٹیاڑا کرنا (امیڈ کی)               | سنتھٹ کرنا (امیڈ کی)    | راضی کردن۔ مطمئن کردن           | دوسرا۔ ثابت                             |
| سٹیاڑتی (ن، ایلیں)                  | خاطر جمی                | سماں داشتن                      | دوام داشتن                              |
| سٹیاڑن (ن، پ)                       | تعادل۔ توازن            | سماں دار                        | استقرار                                 |
| سٹیاڑ (ن، پ)                        | سویق                    | سماں دار                        | سماں دار پروان کرنی                     |
| سٹیاڑ / پیچا (ن، پ)                 | ستوکھر دھیرج            | سماں دار                        | دوام دادن                               |
| صبر۔ تحمل۔ برداشت۔ شکیبائی          |                         | سماں دار                        | سماں دار گھیلانا (امیڈ کی)              |
| سٹیاڑھیلڈا (ن، ایلیں)               | جزع                     | پاسیدن۔ برپا ہون                | پاسیدن۔ برپا ہون                        |
| سٹیاڑ کرنا (امیڈ کی)                |                         | کثیف۔ درشت۔ تودہ۔ ضخیم (ہ)      | کثیف۔ درشت۔ تودہ۔ ضخیم (ہ)              |
| صبر کردن۔ صبر نہون۔ تحمل کردن۔ توقف |                         | سہول                            | سہول                                    |
| نہون۔ درنگ کردن                     |                         | سہول عصری (پ)                   | سہول عصری                               |
| سنتھکی (ہ)                          |                         | حسن ظن                          | حسن ظن (ن، ایلیں)                       |
| صابر۔ قانع۔ خرندہ بہرہ خود          |                         | سادما                           | سادما پہنچانا (امیڈ کی)                 |
| التو (ن، پ)                         |                         | کوب ریدن                        | کوب ریدن                                |
| سیخان                               |                         | صدرہ                            | صدرہ (ن، ایلیں)                         |
| سماں / سماں / ستمان (ہ)             | دیبا                    | سدھرڈے                          | سدھرڈے (ن، ایلیں)                       |
|                                     |                         | مردم داری۔ حسن سلوک             | مردم داری۔ حسن سلوک                     |

|            |                                    |                                 |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| ساد-ہیوہار | حسن سلوک (ب) (ن)                   | سدوہار (ب) (ن)                  | القاء شبہ۔ تشكیک                       |
| سادہیوہاری | راست کردار (ب) (ن)                 | سدوہاری (ب) (ن)                 | تما                                    |
| سدا        | دام۔ جادید۔ ہموارہ۔ پائینہ (ب) (ن) | سدا (ب) (ن)                     | سپر مسح                                |
| سدا        | طلی (ب) (ن)                        | سدا (ب) (ن)                     | سدھاراں انوسار ہولنا                   |
| سدا        | امیت کی (ب) (ن)                    | امیت کی (ب) (ن)                 | دچکپ بودن                              |
| سدا        | سدا چاروگڑھ (ب) (ن)                | سدا چاروگڑھ (ب) (ن)             | عام                                    |
| سدا        | فیض اخلاق (ب) (ن)                  | سدا چاروگڑھ (ب) (ن)             | سپاران کاراوس                          |
| سدا        | سدا چاری (ب) (ن)                   | سدا چاری (ب) (ن)                | قید مخف                                |
| سدا        | درست کردار۔ ٹکوکار۔ نیک۔ صالح      | درست کردار۔ ٹکوکار۔ نیک۔ صالح   | صلح۔ آشتی۔ مصالحت                      |
| سدا        | دام (ب) (ن)                        | دام (ب) (ن)                     | سندھی                                  |
| سدا        | جادو دان۔ ادامت (ب) (ن)            | جادو دان۔ ادامت (ب) (ن)         | سندھی پڑھ                              |
| سدا        | دامی (ب) (ن)                       | دامی (ب) (ن)                    | صلح نامہ۔ قراردار صلح و آشتی۔ قرارنامہ |
| سدا        | جادو دان۔ جادید۔ دوام۔ مد او مت    | جادو دان۔ جادید۔ دوام۔ مد او مت | شقرہ                                   |
| سدا        | جهان ازی (ب) (ن)                   | جهان ازی (ب) (ن)                | سندھاں                                 |
| سدا        | سندھی میسار (ب) (ن)                | سندھی میسار (ب) (ن)             | مدارک                                  |
| سدا        | سندھی ہوند (ب) (ن)                 | سندھی ہوند (ب) (ن)              | وقار                                   |
| سدا        | ہستی جادو دان۔ حیات جادید          | ہستی جادو دان۔ حیات جادید       | جلو                                    |
| سدا        | سندھی جیہن (ب) (ن)                 | سندھی جیہن (ب) (ن)              | جلوہ گری                               |
| سدا        | حیات جادو دان                      | حیات جادو دان                   | نقب زدن                                |
| سدا        | سندھی شدش (ب) (ن)                  | سندھی شدش (ب) (ن)               | ماشہ                                   |
| سدا        | پیام۔ پیغام (ب) (ن)                | پیام۔ پیغام (ب) (ن)             | مرتا غ                                 |
| سدا        | سندھی و اکب (ب) (ن)                | سندھی و اکب (ب) (ن)             | مرتا ضمیں                              |
| سدا        | قادص۔ پیغمبر۔ نامہ۔ بر۔ پیک        | قادص۔ پیغمبر۔ نامہ۔ بر۔ پیک     | زمیں                                   |
| سدا        | اختمال۔ شک۔ شبہ۔ اشناہ (ب) (ن)     | اختمال۔ شک۔ شبہ۔ اشناہ (ب) (ن)  | شنبہ                                   |
| سدا        | سندھ                               | سندھ                            | پیغام                                  |
| سدا        | شکوک۔ شبہات (ب) (ن)                | شکوک۔ شبہات (ب) (ن)             | مانبارہ کردن                           |
| سدا        | سندھ کرنا (ب) (ن)                  | سندھ کرنا (ب) (ن)               | افنی۔ مار                              |
| سدا        | سندھ دور کرنا (ب) (ن)              | سندھ دور کرنا (ب) (ن)           | سپسٹ / پرگات                           |
| سدا        | شبہ زائل کردن                      | شبہ زائل کردن                   | صرافت۔ ظاہر۔ واضح                      |
| سدا        | سندھ مگی (ب) (ن)                   | سندھ مگی (ب) (ن)                | سپسٹ آخلن (ب) (ن)                      |
| سدا        | چم پریشی۔ شک دار۔ بسم              | چم پریشی۔ شک دار۔ بسم           | صریح گھن۔ آشکارا گھن                   |
| سدا        | سندھ وچ پاونا (ب) (ن)              | سندھ وچ پاونا (ب) (ن)           |  |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| سپاٹ ہوں (امیت کی)                       | سپاٹ کی (ن: پ)   | سر مقالہ   |
| واضح شدن                                 |                  | سپینگ فیکٹری (ن: ایلی)                                   |
| واضح کردن (امیت کی)                      |                  | کارخانہ نے ریسی  |
| واضح کر کر دینا (امیت کی)                |                  | سپرد کرنا (امیت کی)                                      |
| واضح کر کر دینا (امیت کی)                |                  | واضح اگزادن۔ اگذاشنا۔ چیزی رابد گیری سپرد                |
| فاش گئی                                  |                  | تحویل۔ حوالہ (ن: ایلی)                                   |
| سپاٹاہ (ن: پ)                            | ہفتہ             | سپردگی سپورن   |
| سپاٹاہ ک (ہی)                            | ہفتگی            | مکمل۔ کامل   |
| سپاٹاہ اس (ن: پ: ب)                      | اسائج            | سپورن کرنا (امیت کی)                                     |
| سپاٹاہ مال۔ ملک۔ جایداد (ن: ایلی)        | مال۔ ملک۔ جایداد | تمام کردن۔ مکمل کردن۔ پر کردن۔ بانجام رسانیدن            |
| سپاٹاہ اماں (ن: ایلی: ب)                 | اماں             | مارافسا۔ مارافسون۔ مار گیر (پ: ن: پی) سفر کرنا (امیت کی) |
| سپاٹاہ مار گزیدہ (ہاواں)                 | مار گزیدہ        | سفر کرنا (امیت کی)                                       |
| سپاٹاہ آسودہ (ہی)                        | آسودہ            | سفر کردن۔ سیاحت کردن                                     |
| سپاٹاہ آسودگی (ہی)                       | آسودگی           | سافرت رفت  |
| سپاٹاہ لمس۔ دست سودگی (پ: ن: پ)          | لمس۔ دست سودگی   | سفر تے جان (امیت کی)                                     |
| سپاٹاہ سفر تے زدن (امیت کی)              |                  | سفر تے بھیجا (امیت کی)                                   |
| قوت لامر                                 |                  | سفر لئی تیار ہوں (امیت کی)                               |
| سپاٹاہ کرنا (امیت کی)                    |                  | جل بر گاؤ بستن (امیت کی)                                 |
| لمس کردن۔ لمس نمودن۔ دست مالیدن۔ دست زدن |                  | سفری بیلا (ہاواں) سفری تھیلا                             |
| سپاٹک (ن: پ)                             |                  | سفری بانڈا (پ: ن: پی) سفری بھانڈا خشہ                    |
| رابط۔ تعلق۔ تماں۔ برخورد                 |                  | سپرل علاج کرنا (امیت کی)                                 |
| سپاٹک رکھنا (امیت کی)                    |                  | شفاظ خشیدن   |
| برخورد کردن                              |                  | فائز شدن۔ فائز گردیدن۔ غالب۔ یا یندہ                     |
| سپرداٹک (ہی)                             | فرقہ پرست        | زدائی (امیت کی)  |
| سپرداٹکا (ن: ایلی)                       | فرقہ بندی        | سہبک پڑھنا (امیت کی)                                     |
| سپاٹکا (ن: ایلی)                         | افاغی            | درس خواندن   |
| سپاٹک (ن: پ)                             | مدیر             | سہبک پڑھیں (امیت کی)                                     |
| سپاٹکا (ن: ایلی)                         | مدیریت           | درس آموختن   |

|                               |                                      |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| سندھ جاڌ کرنا (امیٹ کی)       | سچ بیو کرنا (نام، ایلیں)             | امکان                                    |
| سین رواں کردن۔ ابجد ساختن     | سچا (نام، ایلیں)                     |  |
| سندھ سبھی (نام، پ)            | سندھ انجمن۔ سازمان۔ بزم۔ مجلس۔ ادارہ |  |
| ربط۔ بستگی۔ پیو ٹگی۔ اتصال    | سندھ پڈی (پ) سجھاتی                  | میر مجلس                                 |
| سندھ تھاپت کرنا               | سندھاں (نام، ایلیں)                  | نگاہ داشت                                |
| (امیٹ کی) تماں پیدا کردن      | سندھاں (نام، ایلیں)                  | امکان                                    |
| سندھ توڑ لئنا (امیٹ کی)       | سندھاونا چھیرا (پ) سندھاونا چھیرا    | جیز امکان                                |
| قطع علاقہ کردن۔               | سندھاوناواں (نام، ایلیں، ب)          | سندھاوناواں                              |
| سندھ رکھنا (امیٹ کی)          | سندھاوناواں (نام، ایلیں)             | ممکنات۔ امکانات                          |
| سرد کارداشن                   | سندھاچار (پ)                         |  |
| سندھ سنتوکھ توں کرم لئنا      | سندھاچار ک لین دین                   | مد نیت۔ تدان۔ شائگی                      |
| (امیٹ کی) دندان بھگ فرو بردن  | سندھاچار ک لئن دئن                   | سندھاچار ک لئن دین                       |
| اصطبار کرنا (امیٹ کی)         | (ہواں) دادو سندھاچار                 | دادو سندھاچار                            |
| سندھ سبل (ہ)                  | قوی (پ)                              | سندھوگ                                   |
| سندھ لٹا (نام، ایلیں)         | سندھوگ                               | جماع۔ جامعت۔ ہم بستری                    |
| زور مندی۔ قدرت۔ تو انائی      | سندھوگ کرنا (امیٹ کی)                |  |
| سندھ پیش کرنا (امیٹ کی)       | جفت گیری کردن                        | جفت گیری کردن۔ جمع شدن۔ جفتی کردن۔ گادن۔ |
| ولیل آوردن                    |                                      | گائیدن                                   |
| سندھ بڑھا دینا (امیٹ کی)      | سم (ہ)                               | تساوی                                    |
| پاک باختن                     | سمیا (نام، ایلیں)                    | مسئلہ                                    |
| سندھ بڑھا کھوہ دینا (امیٹ کی) | سمکھی (ہ)                            | سمکھی                                    |
| لخت کردن                      |                                      | ہم عہد۔ ہم عصر۔ ہم زمان۔ معاصر           |
| سندھ بڑھا کے آؤں آؤں          | سمکیدار (ہ)                          | ہم مرکز                                  |
| (امیٹ کی) برکنہ آمدن          | سمکھی (نام، ایلیں)                   | جملکی                                    |
| سندھ توں اچھیرے بیٹھنا        | سمگری (نام، ایلیں)                   | انشاء۔ سامان                             |
| (امیٹ کی) تخشیدن              | سمگری (نام، ایلیں)                   | عقل۔ تیز                                 |
| سندھ مکن (ہ)                  | سمیا (نام، ایلیں)                    | سمیا اتے سیਆنپ (ہواں)                    |
| سندھ گاہ باشد (ہواں)          | کاروکیا۔ فہم و دانائی                |  |

|                                      |                            |                                     |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| سماں / پڈاں                          | (نہیں) سر اتنا             | جہاں داری                           |
| دریافت۔ داشت۔ ادراک کردن۔ رسیدن      | هم صورت۔ ہم شکل۔ تشبہ (ہم) | ہم صورت۔ ہم شکل۔ تشبہ (ہم)          |
| سماں سماں ایٹا (امیٹ کی)             | سروپ                       | سروپ                                |
| تفہیم                                | تشبہ                       | تشبہ                                |
| سماں دار (ہم)                        | سروپ ہوئا (امیٹ کی)        | سروپ ہوئا (امیٹ کی)                 |
| ذکی۔ زکی۔ زیرک۔ ہوش مند              | سماں                       | سماں                                |
| الباب                                | سماں / کال کھنڈ            | دور۔ عصر۔ زمانہ۔ زمان۔ زمن          |
| سماں ایٹا (امیٹ کی)                  | (ہم)                       | سماں ایٹا (امیٹ کی)                 |
| فہمانیدن۔ فہماندن                    | سماں                       | سماں۔ درآمدن چیزی درچیز دگر۔ حاطشدن |
| سماں ایٹا (امیٹ کی)                  | سماں ایٹے سماں             | سماں ایٹے سماں                      |
| مصالحت                               | سماں                       | زمان و مکان                         |
| ہموار                                | سماں                       | تقریب                               |
| ہمواری                               | سماں کاروائی               | سماں کاروائی کاروائی                |
| تواڑی                                | سماں                       | جریان جلسہ                          |
| ہم وزن                               | سماں                       | تقاریب                              |
| حکم طی                               | سماں گزارنا                | سماں گزارنا                         |
| ہم پایہ۔ ہم ردیف                     | (امیٹ کی)                  | وقت گذاشتن                          |
| سر تھک                               | سماں اچھا پڑھ              | خبر                                 |
| موید                                 | سماں اچھا                  | سماں اچھا                           |
| تائید                                | سماں اچھا                  | جامعہ۔ معاشرہ                       |
| سر خشن اتے ورودھ                     | سماں اچھا اوتھا            | سماں اچھا اوتھا                     |
| (ہوا کاںٹا)                          |                            | اوپار اجتماعی                       |
| سماں ایٹا (امیٹ کی)                  | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | معاشرت                              |
| یار۔ تو ان۔ قدرت۔ جرأۃ۔ مقدرت۔ حیثیت | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | جامعہ شناسی                         |
| سماں ایٹا (امیٹ کی)                  | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | جامعہ شناس                          |
| حسب قدرت                             | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | عذر۔ مثل۔ مانند۔ نظر                |
| مقدتر                                | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | متراوف                              |
| سماں ایٹا (امیٹ کی)                  | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | سماں نسل کرنا                       |
| ہدیہ کردن                            | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | تصحیح اوقات                         |
| سماں ایٹا (امیٹ کی)                  | سماں ایٹا (امیٹ کی)        | برابری۔ مساوات                      |

|                  |                 |                                  |
|------------------|-----------------|----------------------------------|
| ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਕੀਰ    | (ਨਾਂ: ਇੰਡੀਆ)    | صرਵ                              |
| خط متوازی        |                 | ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵਾਕਾਂਸ਼              |
| ਸਮਾਨਾਰਥੀ         | (ਵਿਡੀ)          | ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ (ਨਾਂ: ਇੰਡੀਆ)         |
| ਮਤਰਾਫ - ہم معنی  |                 | ਬਾਲਿਸਟ ਵੱਚ                       |
| ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਫਰਾਹਮ ਆਮਗੀ - اجتماع              |
| ਪੰਜਾਬੀ/ਸਾਧਕ      |                 | ਸੰਮੇਲਨ (ਨਾਂ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ)           |
| ਪੰਜਾਬ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਜ਼ਹਾਦ (ਨਾਂ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ)            |
| ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਚੁਪ੍ਚਦੇ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) سਿਖਿ ਹੋਣਾ |
| ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਨਿਟ   | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਖ਼ਤ ਖ਼ਤ (ਨਾਂ: ਇੰਡੀਆ) ਸਰਸਾਹਟ      |
| ਸਮਾਪਤੀ           | (ਨਾਂ: ਇੰਡੀਆ)    | ਸਰਫ                              |
| ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਸਰਹੋਂ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਸਰਹੋਂ ਵਾਤਿਲ      |
| ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| روز گੜਰਾਨੀ       | - وقت گੜਰਾਨੀ    | ਸਰਾਜ ਖੋਤਬਾ                       |
| سਮਾਰਕ            | (ਨਾਂ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) | ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ                      |
| سਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ     | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮ (ਵਾਕਾਂਸ਼)          |
| بے ਸਰਭਰਨ         | - وقت گੜਰਾਨੀ    | رجਾਲ ਦੱਸਣ                        |
| ਸਮੀਖਿਅਕ          | (ਵਿਡੀ)          | ਸਰਗੀ                             |
| انتقادੀ - تنقیدੀ | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਸਮੀਖਿਆ                           |
| انتقاد           | - تنقید - نقد   | ਸਰਦਲ                             |
| ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਸਰਦਲਾਂ                           |
| انتقاد ਨਮੂਦਨ     | - نقਾਦੀ ਕਰਨ     | ਤੱਤਾਂ                            |
| نقاد             | (ਨਾਂ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) | ਸਰਦਾਰੀ                           |
| متصل             | - قرੀب          | ਖਾਲੀ                             |
| ਸਮੀਖਿਅਕ          | ਚਾਹੁਣਾ          | ਵਰਨਾ                             |
| تقریب جتن        |                 | ਸਰਨਾਮ                            |
| ਸਮੁਦਾਇਕ          | (ਵਿਡੀ)          | ਸਰਪਟ                             |
| اجتਮਾਈ           |                 | ਸਰਪਰਸਤੀ                          |
| ਸਮੂਹ             | (ਵਿਡੀ)          | ਸਰਪਰਸਤੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)           |
| ਸਮੂਹਕ ਲਾਭ        | (ਵਾਕਾਂਸ਼)       | ਸਮੀਤੀ ਕਰਨ                        |
| منافع اجتماعی    |                 | ਸਰਬ ਮੌਲਿਕੀ                       |
| ਸਮੂਹੀ            | (ਵਿਡੀ)          | ਸਰਬ ਮੌਲਿਕੀ                       |
| ਹੱਕੀ - ਕਲੀ       |                 | ਹਮੇਦਾਨ                           |
|                  |                 | ਹਮੇਦਾਨੀ                          |
|                  |                 | ਸਰਬਾਲਾ                           |
|                  |                 | ਸਾਕਤ ਵਾਲਾ                        |

|                                      |               |               |          |                                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| سراں                                 | (ہ) سرل       | سلیں          | سروت     | ماغد                                 |
| سروسمہسٹ                             | (ہ) سروسریش   | افضل          | سروتا    | شوننہ۔ سمع۔ سامع                     |
| سروٹکتیمان                           | (ہ) سروگن     | قدیر          | سروتے    | (نام بخواہ) سروتے                    |
| سروگن مکن                            | (ہ) سروگن مکن | ہمه صفت موصوف |          | شونندگان۔ سامعین                     |
| نقشہ برداری                          | (ہ) امیڈ کیا  | نقشہ برداری   | امیڈ کیا | خلعت دادن                            |
| سراں                                 | (نام، ایسٹ)   | رباط          | سراپا    | سراپا دے لئے                         |
| سراں                                 | (نام بخواہ)   | زرشک          | سراپا    | سراپا                                |
| سراں                                 | (نام بخواہ)   | سگیر          | سراپا    | سراپا                                |
| اندام۔ طلل۔ جسم۔ پیکر۔ کالبد۔ جسد    |               |               |          | مشیر۔ رای زن                         |
| جسمی۔ بدنسی۔ تنی                     | (ہ) سریک      |               |          | کنگاش                                |
| سگیرک                                | (نام، ایسٹ)   |               |          | صلح مشورہ کرنا                       |
| جسمانیت۔ جسمیت                       |               |               |          | کنگاش کردن                           |
| سگیر تے دوائی ملنی                   | ملاں          |               |          | صلح مشورہ                            |
| (امیڈ کیا)                           | ملاں          |               |          | صلح مشورہ کرنا                       |
| طلاکردن۔ مالیدن دار و بر بدنا        |               |               |          | تعزیف                                |
| سگیر دا ٹوٹنا                        | (امیڈ کیا)    |               |          | سلام کرنا                            |
| فنجن                                 |               |               |          | سلام کردن۔ تعلیل و تکریم کردن        |
| سگیر دیਆں رگاں                       | (ہاکاں)       |               |          | سلام کرنی                            |
| مجاری بدن                            |               |               |          | عشق گھن۔ دست بر سر نادان۔ تعظیم کردن |
| سگیر دی مالاں                        | (ہاکاں)       |               |          | سلام پوچھوڑنا                        |
| مارساز                               |               |               |          | عشق رسانیدن                          |
| سگیر دیس میخان ٹک کے جاؤں مار دے لئا |               |               |          | نظام دادن                            |
| سروچ میکھل ٹھوک کے جانوں مار دیا     | (امیڈ کیا)    |               |          | سلاہی دینی                           |
| چارشیخ کشیدن                         | (کیا)         |               |          | سلاہی رسوار                          |
| سگیراں                               | (نام بخواہ)   |               |          | خرکش                                 |
| اجساد۔ ابدان۔ اجسام                  |               |               |          | لوح مجری                             |
| دبق                                  | (نام، ایسٹ)   |               |          | سلیٹ دی پنسل                         |
| گرای۔ کرم۔ محترم                     | (ہ) سریش      |               |          | (نام، ایسٹ)                          |
|                                      |               |               |          | قلم البحر                            |
|                                      |               |               |          | بیطار                                |
|                                      |               |               |          | سوچھ جوٹا                            |
|                                      |               |               |          | محبت یافت۔ شفایافت از بیماری         |
|                                      |               |               |          | سونڈھ/سُوچر                          |
|                                      |               |               |          | صاف                                  |

|   |                               |                       |                 |                  |                       |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| لنگ و لکد انداختن                       | سہی کاریا جانے جانا (امیٹ کی) | شاف (ہی) سوچھ رچک دار | مہنگی           | سہنڈا (ن، ایلین) | سہنڈا/صہنڈا           |
| قبول شدن                                | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | آواز۔ صدا             | واحد درج        | سہا (ہی)         | سہر                   |
| استجابت                                 | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | واحد درج              | سہا             | سوچھ ر تدرستی    | صحت۔ سلامتی۔ تدرستی   |
| حر                                      | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | مکالمہ                | مکالمہ          | (ن، ایلین)       | سہا ڈین (ہی) سواتن    |
| صح                                      | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | اشناں درج             | اشناں درج       | (ہی)             | سہا درج               |
| کوب الافجر۔ ستارہ صح                    | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | خدویو                 | خدویو           | (ن، ایلین)       | سہا بھی/سماں ر سراٹ   |
| صلوٰۃ الافجر۔ نماز صح                   | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | راکب                  | راکب            | (ہی)             | سہار                  |
| نماز گاہ۔ محركاہ                        | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | سہار ہوئا             | سوار ہوئا       | (امیٹ کی)        | عنان واژدن۔ ران کشادن |
| سہی کیروڑی (ن، ایلین)                   | مطلبی۔ خود غرض۔ غرض آئنا      | سوار تھی              | سوار تھی        | (امیٹ کی)        | سہا رکھی              |
| حر گاہ۔ بامداد                          | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | برائی خویشن بودن      | سواری کرنا      | (امیٹ کی)        | سواری کرنا            |
| اصبح۔ سحر ہا۔ افمار                     | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | رکوب                  | رکوب            | (امیٹ کی)        | سواری کرنا کرایہ      |
| گاہ آمدن۔ سوزیدن                        | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | کرایہ بہا             | کرایہ بہا       | (ہی)             | سہی کاریا             |
| تعفن                                    | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | راحلہ                 | راحلہ           | (ہی)             | سہی کاری دا جانور     |
| تعفن                                    | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | روانداختن             | روانداختن       | (امیٹ کی)        | سہی کاری کرنا         |
| گندیدن۔ بدبوشدن۔ بوی بد کردن۔ متعفن شدن | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | دریو زہ گر۔ گدا       | دریو زہ گر۔ گدا | (ہی)             | سوال کرنا             |
| تعفن                                    | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | مفصل۔ ببسوت           | مفصل۔ ببسوت     | (ہی)             | سو تار                |
| تعفن                                    | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | سہی کار کرنا          | سہی کار کرنا    | (امیٹ کی)        | سو تار کرنا           |
| تعفن                                    | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | اعتراف                | اعتراف          | (امیٹ کی)        | سہی کارنا             |
| تعفن                                    | سہی کیروڑی (ن، ایلین)         | قبول کردن             | قبول کردن       | (امیٹ کی)        | سہی کار نا کرنا       |

|   |                  |                     |                                     |
|---|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| سماں/سماں                               | صاحب دل          | سماں-سماں شاستر     | علم ادب۔ ادبیات                     |
| سماں-سماں وہاں                          | (امیت کی)        | (نام بھی) سماں-سماں | ادبی                                |
| شپور زدن                                | دوچرخہ           | سماں-سماں           | آثار ادبی                           |
| سماں کل                                 | سماں کل          | سماں کل کرتاں       | ادبی                                |
| سماں کل چلا عینا                        | سماں کل چلا عینا | سماں کل کرتاں       | سماں کل                             |
| دوچرخہ سواری کردن                       | دوچرخہ           | سماں کل کار         | ستگان۔ خویشان۔ اقارب                |
| سماں کل رسم                             | (ہاکامہ)         | سماں کل سمجھی       | رشته                                |
| سماں کل مسابقه                          | دوچرخہ           | سماں کل ملبہ        | مشکل                                |
| سماں نیروں                              | سماں نیروں       | سماں کل ہونا        | سماں کل ہونا                        |
| سماں جان                                | سماں جان         | سماں کل کرنے        | صورت بستن۔ مشکل شدن۔ ممکن گشتن      |
| سماں جانتاں                             | سماں جانتاں      | سماں کل کرنے        | جسم دادن۔ جسم کردن۔ صورت خارجی دادن |
| سماں جانتے آؤں                          | سماں جانتے آؤں   | سماں کی             | جام دار                             |
| سماں طرف افتادن                         | قبے ریہ          | سماں پت/پدھوی       | سماں پت/پدھوی                       |
| سماں رکھنا                              | جاہوں            | سماں گر             | حیثیت                               |
| سماں رکھنا                              | جاہوں            | سماں گرٹ            | بیم۔ بحر                            |
| سماں دم                                 | سماں دم          | سماں گرٹ            | بذر                                 |
| سماں سائل                               | (نام بھی)        | سماں گرٹ            | ریشه دوائی                          |
| (ریڑاں دا ایک ہجیاڑا)                   | شاقول            | سماں گرٹ            | سماں گرٹ                            |
| سماں لے لئا                             | (امیت کی)        | سماں گرٹ            | دیسے                                |
| دم زدن۔ نفس کشیدن۔ دم برآوردن۔ نفس تازہ |                  | سماں گرٹ کرنی       | دیسے کردن۔ مایہ گرفتن               |
| کردن                                    |                  | سماں گرٹ            | دیسے کار                            |
| ادب۔ ادبیات                             | (امیت کی)        | سماں گرٹ            | سماں گرٹ                            |
| سماں-سماں                               | (امیت کی)        | سماں گرٹ            | سماں گرٹ                            |
| انتقاد ادبیات۔ تقید ادبیات              |                  |                     | سماں گرٹ                            |

|  |                      |   |                        |
|--|----------------------|---|------------------------|
| مانتہ سانچھے (نام: ایٹلی)                | اشتراك               | مادہ-سُبھرا (ہی) صاف تھرا                 | تروتر                  |
| مانتہ سانچھا (ہی)                        | مشترک                | مادہ کرنا (آمیڈ کی)                       |                        |
| مانتہ سانچھا لاتھ (پ)                    | فواید عجمیہ          |   | پالاسیدن-پالودن-پالیدن |
| مانتہ سانچھی (پ)                         | اباز-شریک            | مادہ نیڈلی (نام: ایٹلی) صاف رہی           |                        |
| مانتہ سانچھی سنتی میپڈی (ہاکاں)          | مال شرکت             |   | خلوص۔ خلوصیت           |
| مانتہ سانچھی وال (پ)                     | شریک                 | مادہ نیکل جانا (آمیڈ کی)                  |                        |
| مانتہ گھنے گن (ہاکاں)                    | صفات مشترک           |   | صاف گزش                |
| مانتہ لٹی (ہاکاں)                        | برائی ما             |   |                        |
| مانتہ ماریش (پ)                          | هم زلف۔ هم ریش       | مابال نال دھونا (آمیڈ کی)                 | صابوں زدن              |
| مانتہ سان (نام: ایٹلی)                   |                      |   |                        |
| فان۔ سگی کہ بدان تھے دکار دشمنیر تیز کند |                      |   |                        |
| رفاقت۔ ہمدی۔ مشارکت (پ)                  | ساتھ                 | مابال کرنا (آمیڈ کی) ثابت کرنا            | نشان دادن              |
| هم رہا ہی کردن (آمیڈ کی)                 | ساتھ دینا            | سماں ہونے (ہی) سانے                       | در پیش                 |
| ساتھی (پ)                                |                      | سماں ہونے آؤنا (آمیڈ کی)                  |                        |
| رفیق۔ ہمراہ۔ معاون۔ ہدم۔ شریک            |                      | در پیش آمدن۔ رو برداشت اداں۔ مقاومت نمودن |                        |
| رفاہ (نام: پ)                            | ساتھی/سنجھی (نام: پ) | سماں ہونے لیا ہونا (آمیڈ کی)              |                        |
| ساتھی بلن جانا (آمیڈ کی)                 |                      |   |                        |
| دمسازشدن۔ دمسازگشتن                      |                      |   |                        |
| ساتھوں (پڑ)                              | ازما                 |   | تریپ                   |
| ساتھ/دکھنے ہو جانا (آمیڈ کی)             |                      |   | ہنگامی۔ وقتی           |
| سادھہ پوشیدن                             | خرقہ                 | ساتھیک (ہی) سارہ                          | لب۔ خلاصہ              |
| سادھن (پ)                                | دیلہ۔ طفیل           | سارہ (نام: پ)                             | کمبو                   |
| سادھن اکٹر کرنے                          |                      | سارہنگی (نام: ایٹلی)                      |                        |
| سبب کا شن۔ فراہم کردن و سائل             |                      | سارہنگ کرنا (آمیڈ کی)                     |                        |
| توسط کردن (آمیڈ کی)                      |                      | سارہنگ کرنا (آمیڈ کی)                     |                        |
| سادھن سادھارن (ہی)                       | معمولی               | سارہ رہنا (ہی)                            |                        |
| سادھن سایکھتاوار (نام: پ)                | اضافیت               | سارہنگ کرنا (ہی)                          |                        |
| صرع۔ واضح۔ آشکارا (ہی)                   | صرع۔ واضح۔ آشکارا    | سارہنگ کرنا (ہی)                          |                        |
|  |                      | سارہنگ کرنا (ہی)                          |                        |

|                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| ساریਆں ہمسوں         | (نام: ایلیٹ: بول) ساریاں و سوں          | چوب خوار     |
| جھیچڑی               | (نام: بول) جھیچڑی                       | میکانیکا     |
| سارے جمل دکل         | - جملہ (نام: بول) سارے جمل دکل          | سیاسی آدمی   |
| سارے آدم کافہ نام    | (ہاکانڈا) سارے آدم کافہ نام             | سیاسی پارٹی  |
| سارے کم جمع کارہا    | کم بول (نام: بول) سارے کم جمع کارہا     | سیاسی حزب    |
| سارے دا مارا جزو دکل | (ہاکانڈا) سارے دا مارا جزو دکل          | سیاسی چوس    |
| سارے دے سارے سارے    | (ہاکانڈا) سارے دے سارے سارے             | مرکب مٹک کن  |
| سائیرین              |   | سیاسی طاقت   |
| سارے ہیاکڈی          | (نام: بول) سارے ہیاکڈی                  | دانا         |
| جھی مردم             |   | زیریکی       |
| شش داگی              | - دربست (ہاکانڈا) سامن                  | تیز فتح      |
| سالہ                 | برادر زن (نام: بول) سالہ                | عاقل         |
| سالی                 | (نام: ایلیٹ) خیازنا                     | سیاسی طبقہ   |
| سادھان               | ہونا (ہاکانڈا) امیٹ کی                  | عقل مند      |
| خبردار شدن           | - مطلع شدن - آگاہ شدن - ہوشیار شدن      | خردمند       |
| سادھان رصحیت کرنا    | سادھان رصحیت کرنا (ہاکانڈا) امیٹ کی     | دانہ         |
| خبردار کردن          | - آگاہی کردن - اطلاع کردن - ہوشیار کردن | زیریک        |
| سادھانی              | - اخطار کردن - اثر یار دادن             | حکیم         |
| سادھانی/سڈرکڈا       | سادھانی/سڈرکڈا (نام: ایلیٹ)             | فرساد        |
| خبرداری              | - ہوشیاری - آگاہی - صرفہ کاری - احتیاط  | شتا          |
| سادھانی نال ترنا     | نال ترنا (ہاکانڈا) امیٹ کی              | زکو کردن     |
| قدم شرده رفت         | رفت (ہاکانڈا) امیٹ کی                   | شوہرہ        |
| ساذھ دے لئا          | املاط (ہاکانڈا) امیٹ کی                 | سبوسر        |
| ساذھن جوگا           | سوختن (ہاکانڈا) سازن بوجا               | لیسہ زدن     |
| سیکھندا              | سیوٹ (ہاکانڈا) امیٹ کی                  | لیسہ کردن    |
| در دختن              | - خیاطی کردن                            | رقین         |
|                      |   | سکھ رکھنے کا |
|                      |   | سکھ رکھنے کا |
|                      |   | ضرب کردن     |
|                      |   | سکھ رکھنے کا |
|                      |   | یادگار فتن   |
|                      |   | سکھ رکھنے کا |

|   |                       |                              |
|---|-----------------------|------------------------------|
| در کار کردن۔ یادداون                            | میخیا راہ جھوٹوئیا    | سر تھاراہ جھوٹوئیا           |
| میخیا سکھیا (ن: ایلیں)                          | (امیت کی)             | راہ چپ کردن                  |
| تریت۔ تعلیم۔ آموزش                              | (امیت کی)             | میپی لکھی کسیر               |
| میخیا لئلا (امیت کی)                            | خط مستقیم۔ خط راست    | (امیت کی)                    |
| الامگرفتن                                       | میپے راہ ترنا         | سر ہے راہ ترنا               |
| میگ سگ (ن: پ)                                   | شاخ                   | (امیت کی)                    |
| میگ مارنا                                       | (امیت کی)             | راست رفت                     |
| شاخ زدن   | میپ سب (ن: پ)         | جم                           |
| میگالیگر (ن: پ)                                 | جلہ                   | گوش ماہی۔ صدف                |
| میپ گھ (ن: پ)                                   | اسد                   | میپیاں سپیاں                 |
| میپ-گاہی (ن: ایلیں)                             | برج اسد۔ دہان ضیغم    | اصداف                        |
| میپھاں (ن: پ)                                   | اور گ۔ تخت۔ سریر      | میہرگان                      |
| میجاہی (ن: ایلیں)                               | آپاٹی۔ آبیاری         | اصفار                        |
| میٹا ش (ن: پ)                                   | سنبلہ                 | میہارہ                       |
| میٹے سو گلان (امیت کی)                          | شے چن                 | میہارہ کرنی                  |
| خوش چینی کردن                                   | میٹ کرنا              | سفر اسکار                    |
| مستقیم۔ سردھا (ہ)                               | میٹ دسایہ             | میر عیسیٰ کرنا               |
| میپانڈ (ن: پ)                                   | سردھانت               | میر عیذ                      |
| قاعدہ۔ پایہ۔ اصل۔ بنیاد۔ پایہ عمود۔ رسم۔ قانون۔ | طریقہ                 | میر قلم کردن                 |
| میپانڈک (ہ)                                     | اصولی                 | میر چشم                      |
| میپا ہوئیا (ہا کاں) ساقہ راست                   | ساقہ راست             | میر اکھاں تے                 |
| میپاپن (ن: پ)                                   | استقامت               | میر افجھن                    |
| میپا (ہا کاں) صراط                              | صراط مستقیم۔ راہ راست | میر بائش                     |
|   |                       | میر جناید                    |
|   |                       | میر ہیلہ عیلان               |
|   |                       | میر کندھا پر کھ              |
|   |                       | میر کردا۔ رئیس۔ پیشو۔ سرگروہ |
|   |                       | میرکا (ن: پ)                 |
|   |                       | میرکی (ن: ایلیں)             |
|   |                       | میر قربان کرنا               |
|   |                       | (امیت کی)                    |
|   |                       | میر خاریدن                   |

|                                       |                |                  |           |                                       |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| میر صکر اونا                          | (امیت کی)      | سراچکر اونا      | (امیت کی) | دوخت                                  |
| سر بہ ہو بودن۔ پرت شدن                |                |                  |           |                                       |
| میر جنہار                             | (نینہ/نہیں پر) | سر جنہار         |           | دوزندگی                               |
| خالق۔ آفرید گار۔ آفریندہ              |                |                  |           |                                       |
| میر جڑ کے گل کرنی                     |                | سر جڑ کے گل کرنی |           | دوخت                                  |
| میر جفت کردن                          |                | سر جفت کردن      |           | دوخت                                  |
| میر جوکھ اونا                         | (امیت کی)      | سر جوکھ اونا     | (امیت کی) | دوخت                                  |
| زندگان بجیب فرو بودن۔ سرافحمندہ کردن  |                |                  |           |                                       |
| میر تؤڑ جس کرنا                       |                | سر تؤڑ جس کرنا   |           | خیاطت۔ دوزندگی                        |
| میر جدیت کردن                         |                |                  |           |                                       |
| میر دا چکر اونا                       | (امیت کی)      | سر دا چکر اونا   | (امیت کی) | تخت زدن                               |
| چھر فتن نہ                            |                |                  |           |                                       |
| میر دی بانی لائیں                     |                | سر دی بانی لائیں |           | نشت                                   |
| سر باختن                              |                |                  |           |                                       |
| میکھا دلیں                            | (نہیں پر)      | سینف             |           | تمغیر                                 |
| میر نوں سدھار کھنا                    |                | سینپا رੱ� لئا    |           | میٹ                                   |
| سر دردار اشتن۔ سر راست نگاہ داشن      | (امیت کی)      |                  |           | مغل                                   |
| میر پڑنے دیگانا                       | (امیت کی)      |                  |           | خلم دادن                              |
| عثمار۔ عثارت۔ سر در آمدن۔ سر ازیر شدن |                |                  |           | ماہنہ                                 |
| میر صداع۔ در در سر                    | (نہیں پر)      | سر پھر پھر       |           | محدود                                 |
| میکھ۔ احمد۔ پر                        | (پر)           | سر پھر پھر       |           | حد۔ ثغر۔ سرحد                         |
| میر رکھن دی تھاں                      | (ہوا کا منس)   |                  |           | سیما توں باہر ہو جانا                 |
| چای سر نہادن                          |                |                  |           | (امیت کی)                             |
| میکھڑی                                | (نہیں پر)      | سر گذشت          |           | از حد رو گذشتن۔ از حد خویش تجاوز کردن |
| میر کاسوچ                             |                |                  |           | تجاوز (پر)                            |
| میر انجام یافت                        |                | سر گے لگنا       | (امیت کی) | سیماں دا عیلہ یعنی سیماں دا لگھن      |
| میل                                   |                | صلایہ            |           | سیما نچھت کرنی                        |
| میلائیں                               |                |                  |           | (امیت کی)                             |
| دو زانیدن                             |                |                  |           | تحدید                                 |
| زربہ ہو بودن۔ پرت شدن                 |                |                  |           | حدود۔ ثبور                            |
| میلائیں۔ کھڑائی                       |                |                  |           | سیما داں، بول                         |
| دوخت                                  |                |                  |           | زربان                                 |

|            |  |                               |
|------------|--|-------------------------------|
| سُمڈیاں    | معارج (نام، ایلہیں، بھو) سیر صایں      | ستی کرنی (آمیڈ کی)            |
| سُماں      | جزوی (ہی) سوپ                          | گرانجی کردن۔ تعلیٰ و ستی کردن |
| سُماگڈ     | سوگت کرنا (آمیڈ کی)                    | شپور                          |
|            | برابر دویدن                            | سُمساری (نام، ایلہیں)         |
| سُماگڈ-ਜوگ | پذیر فتنی (ہی) سوگت جوگ                | مشیلتا، سنتیکتا               |
|            | سوگت لئی جائنا جائنا                   | سُمساری/سُنائیڈکتا            |
| (آمیڈ کی)  | باستقبال رفتہ                          | شرافت                         |
| سُماگڑیاں  | خواتین (نام، ایلہیں، بھو) سوانیاں      | حسن و قبح                     |
| سُماں      | لذات (نام، پ) بھو                      | جمال                          |
| سُماں      | سواد (آمیڈ کی)                         | حاضن۔ عروس                    |
| سُماں      | لذت داشن۔ لذید بودن۔ مزہ داشن          | حاضرات                        |
| سُماں      | چوبیاں (ہی) سوارچھاں (آمیڈ کی)         | سلفہ۔ ہد                      |
|            | ازاقت۔ چشیدن۔ مزہ کردن                 | اخلاص مند۔ مخلص               |
| سُماں      | چوب شیریں (ہی) سواولا                  | اخلاص۔ خلوص۔ صدق دلی۔ مصادقت  |
| سُماں      | سوادیں (آمیڈ کی)                       | جفاف                          |
|            | لذتیا فتن۔ لذت بردن۔ استذاذ۔ شکر خوردن | سُکھلنا (آمیڈ کی)             |
| سُماپنڈا   | سواد صیئے (نام، ایلہیں)                | خشکیدن۔ خشک شدن               |
|            | حریت۔ خود اختیاری۔ آزادی               | انتباخ                        |
| سُماں      | آقا۔ صاحب (نام، پ) سوامی               | سُکھننا (آمیڈ کی)             |
| سُماں      | خود پرستی (نام، پ) سوار تھ             | یابس۔ خشک                     |
| سُماں      | ایثار (نام، پ) سوار تھ تیاگ            | سُکھانیدن                     |
| سُماں      | سوار تھی ہوئیا (آمیڈ کی)               | خشک و تر                      |
|            | برائی خویش بودن                        | جفافت                         |
| سُمسیڈ     | آراستہ۔ پیراست                         | عشم۔ خشک نان                  |
| سُمسیڈ     | فاتر۔ ست دناتوال۔ ناچاک                | سُکھ                          |
| سُمسیڈ     | چمد۔ پختہ خوار (نام، پ) ست آدمی        | چوب خشک                       |
| سُمسیڈ     | رگ خوابانیدن (آمیڈ کی)                 | سُکھ لکڑنوس چیرٹا             |
| سُمسیڈ     | تساہل۔ کسل (نام، ایلہیں)               | جزل                           |
|            | ستی                                    | نیم                           |
|            |  | سُخ-سَاند (نام، ایلہیں)       |
|            |  | خیریت                         |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| مُسْكَنِیں | (ہم) سکھ رہنا                                 | تُن آسان       |
| مُسْكَنِیں | آرام گرفتن (امیت کی)                          | سکھ لینا       |
| مُسْكَنِیں | آرام طلب۔ آرام پند (ہم)                       | سکھیارا        |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں اسکھپت اوس تھا                     | اسکھپت         |
| -          | عالمِ خواب۔ خواب عین                          |                |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں خوبیو۔ شامہ (نہ، ہم)               | گندھ           |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں خوبیو دار۔ معطر (ہم)               | گندھ مگی       |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں شامم (نہ، ہم)                      | گندھ حمال      |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں مہیت کبم نہ نے پرے چاڑھا (امیت کی) | چاڑھا          |
| -          | رصد در کار بیعنی                              |                |
| مُسْكَنِیں | خبردار (ہم) سچیت/ساودھان                      |                |
| مُسْكَنِیں | آمایدیں (امیت کی)                             | جج جانا        |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں بجنا (امیت کی)                     | جماع           |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سُننا (امیت کی)                    |                |
| -          | فکھدن۔ انداختن۔ دورانداختن۔ بزیرانداختن       |                |
| مُسْكَنِیں | سوت کردن (امیت کی)                            | ست روپا        |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سٹ پاؤں (امیت کی)                  |                |
| -          | دورانداختن۔ ترک کردن۔ بیرون کردن              |                |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں پھ (نہ)                            | خر طوم         |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں پھ، ہم (نہ)                        | خراطیم         |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سڈول (ہم)                          | رشید۔ زیباندام |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سڈولتا (نہ، ہم)                    | خدری           |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں پھ (نہ)                            | زنجیل          |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سک (نہ، ہم)                        | آب بینی        |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سکنا (امیت کی)                     | استشار         |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سن جوگ (ہم)                        | شنسیدنی        |
| مُسْكَنِیں | مُسْكَنِیں سن (امیت کی)                       |                |

|   |            |
|---|------------|
| استماع۔ شنیدن۔ شنودن۔ گوش دادن۔ گوش         |            |
| کردن۔ فراؤ گوش دادن۔ نوشیدن۔ استماع کردن    |            |
| گوش زد کردن (امیت کی)                       | مُسْكَنِیں |
| شنیدہ                                       | مُسْكَنِیں |
| مُسْكَنِیں مُسْكَنِیں گل (ہم) سُنی سنائی گل | سخن افواہی |
| آزار  | مُسْكَنِیں |
| ریویدن۔ آزاد شدن۔ خلاص شدن۔ معاف شدن۔       | مُسْكَنِیں |
| محتربودن                                    | مُسْكَنِیں |
| آزادی۔ حریت                                 | مُسْكَنِیں |
| سُنے سُنے دن دیہا                           | مُسْكَنِیں |
| دنداں کر دچہ کندن                           | مُسْكَنِیں |
| پسلونہادن                                   | مُسْكَنِیں |
| حسین۔ جیل۔ قشگ۔ زیباد۔ خوب روی              | مُسْكَنِیں |
| حسن۔ جمال۔ زیبائی۔ قشگی۔ خوش نمائی          | مُسْكَنِیں |
| حسان  | مُسْكَنِیں |
| جیلہ  | مُسْكَنِیں |
| وطن   | مُسْكَنِیں |
| صحیح کردن                                   | مُسْكَنِیں |
| مصلح  | مُسْكَنِیں |
| قابل اصلاح                                  | مُسْكَنِیں |
| صرف   | مُسْكَنِیں |
| زرین  | مُسْكَنِیں |

|                          |                              |                           |                    |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ਸੁਨ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | ਖੁਦਰ                         | ਸੁਭਮਹੂ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਸੁਖ ਸੁਰਮੇ          |
| ਸੁਨਾਮ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਖੁਸ਼ਨਾਮ (ਨਾਂ ਪੁ)             | ਸੁਗਮਾ (ਨਾਂ ਪੁ)            | ਖੁਲ                |
| ਸੁਨਿਆਰਾ (ਨਾਂ ਪੁ)         | ਜੁਗਰ                         | ਸੁਗਮਾ ਪਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਮੁਖ                |
| ਸੁਨਿਆਰਪਣ (ਨਾਂ ਪੁ)        | ਜੁਗਰ                         | ਸੁਗਮਾ ਪਾਉਣਾ ਕਹਵੁ (ਨਾਂ ਪੁ) | ਮੁਖ-ਸੁਰਮੇ ਕਿਥੀਨ    |
| ਸੁਨੈਤਕਤਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ)    | ਖੁਨਾਲੀ                       | ਸੁਗਮਾ ਪਾਉਣਾ ਅਖ ਵਿਚ        | ਅਖਾਲ               |
| ਸੁਪਾਰੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ)      | ਫੁਲ                          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 |                    |
| ਸੁਪਤਰ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਚਾਹਬزادੇ                     | ਸੁਰਲੋਕ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਬਹਥ-ਜੱਤ            |
| ਸੁਫਨਾ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਖੁਲ                          | ਸੁਰੂਪ (ਵਿ)                | ਖੁਬ ਚੁਹੂ           |
| ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    | ਖੁਲਬੁਦਿਨ                     | ਸੂਆ (ਨਾਂ ਪੁ)              | ਸੁਲੋ-ਜੋਵ           |
| ਸੁਫਨੇ (ਨਾਂ ਪੁ; ਬਵਾ)      | ਖੁਲਬਾ                        | ਸੂਟੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ)         | ਦੁਰਜਨ-ਸੂਜਨ         |
| ਸੁਭਾ (ਨਾਂ ਪੁ)            | ਖੁਲਬਾ                        | ਸੂਟੀ ਦਾ ਨੱਗ               | ਸੂਟੀ ਰਾਖਨਾ (ਵਾਕਾਂ) |
| ਸੁਭਾਗਤਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ)     | ਖੁਲਬਾ                        | ਸੂਟੀ ਦੀ ਸੂਜਨ              | ਸੂਟੀ ਖੁਆਂ          |
| ਸੁਭਾਗਾ (ਵਿ)              |                              |                           | ਚੁਗ ਸੂਜਨ           |
|                          | ਜੁਗਾਦ-ਖੁਲਬਾ                  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 | ਖੁਕੜਦਾ             |
| ਸੁਭਾਵਕ (ਵਿ)              | ਖੁਲਬਾਕ                       | ਸੂਹੜਾ (ਨਾਂ ਪੁ)            | ਤੇ ਗੁਬਾਲ           |
| ਸੁਭਾਵਾਂ (ਨਾਂ ਪੁ; ਬਵਾ)    | ਖੁਲਬਾਵਾਂ                     | ਸੂਹੜੀਆ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਖੁਗੀਰ              |
| ਸੁਖੇਗ (ਵਿ)               | ਖੁਲਬਾਗ                       | ਸੂਖਮ (ਵਿ)                 | ਲੇਖਿ               |
| ਸੁਖ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਸੁਖ ਹੋਣਾ                     | ਸੂਚਕ (ਵਿ)                 | ਮੌਤ                |
|                          | ਮੀਓਵਹਦਾ ਕਰਦਾ                 | ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ         |
| ਸੁਰਖਿਆ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ)      | ਮੁਹਾਫਤ                       | ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ (ਨਾਂ ਪੁ)       | ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ         |
| ਸੁਰਗ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ)        | ਸੁਰਗ                         | ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ          | ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ   |
|                          | ਜੱਤ-ਫਰਦਾ-ਬਹਥ                 | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 | ਅਲੁਗਾਂ ਕਰਦਾ        |
| ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣੀ                 | ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    | ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਉਣੀ       |
|                          | ਨੱਕ ਕੰਨ                      |                           | ਖੁਗੀ ਆਉਣਾ          |
| ਸੁਰਗਵਾਸੀ (ਵਿ)            |                              |                           | ਖੁਗੀ ਆਉਣਾ          |
|                          | ਜੱਤ ਨੱਚੀਬ-ਜੱਤ ਆਸ਼ਿਅਨ-ਜੱਤ ਮਕਾਨ |                           | ਖੁਗੀ ਆਉਣਾ          |
| ਸੁਰਗਾਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ; ਬਵਾ) | ਫਰਾਡਿਸ                       | ਸੂਚਿਤ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਖੁਗੀ ਆਉਣਾ          |
| ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ (ਵਾਕਾਂ)        | ਰੰਗ ਤਿਰੰਗ                    | ਸੂਚੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਡਿ)         | ਫਰਸਤ               |

|                   |  |                                      |                                       |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | خرد۔ حس (نام: ایلین) سوجہ، کجھ توں کر لیتا (آمیڈ کی) | مُولی (نام: ایلین) سولی (آمیڈ کی)    | صلیب                                  |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | فراست داشن   | مُولی چارٹنا (آمیڈ کی)               | بردار کشیدن                           |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سوجہ بوجہ توں کر لیتا                                | مُولی                                | قند                                   |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | عقل بخراج دادن                                       | مُولی (نام: ایلین) سکے               | حرارت                                 |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | خردہ دان   | مُولی (نام: ایلین) سکے پہنچا (ہاکام) | حرارت شتن                             |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | خُریکی   | مُولی (نام: ایلین) سب سب             | صاب                                   |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | آختن۔ آئشن   | مُولی (نام: ایلین) سیوک              | چاکر۔ نوکر۔ خدمت گار۔ خادمان          |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | کلافہ  | مُولی (نام: ایلین) سیوک              | مُولی (ہاکام)                         |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | نمی  | مُولی (نام: ایلین) سیوک              | چاکر ان۔ نوکر ان۔ خدمت گار ان۔ خادمان |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | خوک۔ خزیر  | مُولی (نام: ایلین) سیوک اتنے سوائی   | خادمان و آقا                          |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سورج   | مُولی (نام: ایلین) سیوکتا            | مُولی (ہاکام)                         |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | ہور۔ آفتاب۔ خور۔ خورشید۔ مر۔ مش                      | مُولی (نام: ایلین) سیوکتا            | عبدیت۔ بندگی۔ بر دگی۔ پرستش۔ اطاعت    |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | دو خاتون (ہاکام)                                     | مُولی (نام: ایلین) سیوکری            | خدمت                                  |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | رسن آفتاب (ہاکام)                                    | مُولی (نام: ایلین) سیوار             | مُولی (ہاکام)                         |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سورج کرن   | مُولی (نام: ایلین) سیوار             | خدمت گار۔ پرستار                      |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سورج گرہن  | مُولی (نام: ایلین) سیواراں           | خدمات                                 |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | آفتاب گر ٹھی۔ کوف                                    | مُولی (نام: ایلین) سیواراں           | سیواراں حاضر ہوں                      |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | دلوك   | مُولی (نام: ایلین) سیواراں           | خدمت رسیدن                            |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سورج چھپنا   | مُولی (نام: ایلین) سیواراں           | استھار (آمیڈ کی)                      |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | طفاوہ  | مُولی (نام: ایلین) سیواراں           | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سورج دا پروار  | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | پرہار  | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سورج کھصی  | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | آفتاب گرداں  | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | شموس   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | شمسی   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | ایباء  | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | صورتائیں   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | شجاع۔ شجاع   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سور بیر  | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سور تارنی  | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | دیلری کردن   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | شجاعت کردن   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | جرأت نمودن   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | سورا   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |
| مُعَذَّب/مُعَذَّب | بدار   | مُولی (نام: ایلین) سیکڑا             | میک صد                                |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| میں کے (ہی)                               | لشکری۔ فوجی              | اندیشن۔ فکر کر دن۔ سگالیدن                |
| میں نے (نہ، ایلیٹ)                        | اشارت                    | قابل غور                                  |
| میں نے مارنی (امیڈ کی)                    | ابروزدن                  | (ہی) سوچ یوگ                              |
| میں نے مارنی (امیڈ کی)                    | فوج۔ لشکر۔ عسکر۔ سپاہ    | سوچ وحی پینا                              |
| میں نے دا سینا (ہاوا)                     | ام اکیش                  | (امیڈ کی)                                 |
| میں نے دا پالاں دوچ جوڑا                  | میں نے دا پالاں دوچ جوڑا | پس زانوشن                                 |
| (امیڈ کی)                                 | صف کشیدن                 | سوچ وحی مگن جوڑا                          |
| میں نے دا بھی (ہاوا)                      | سرفوج                    | سوچ وحی مگن جوڑا                          |
| میں نے دی کڈار کی قطار (ہاوا)             | مدد                      | سوچ وحی مگن جوڑا                          |
| میں نے نال ہمالا کرنا                     | میں نے نال ہمالا کرنا    | فکر۔ اندیشہ                               |
| (امیڈ کی)                                 | لشکر کشیدن               | سوچ رچار کرنا                             |
| میں اپنی (ہی)                             | امیر الحیوں              | فکر کر دن۔ اندیشہ کر دن۔ تامل کر دن۔ قیاس |
| میں نہ داں (ہیلیں، بھ)                    | افواج۔ جنود              | نمودن                                     |
| میں ر (نہ، ایلیٹ)                         | تفرج                     | سوچ وحیار توں کم لیتا                     |
| میں لانی (ہی)                             | سیاح۔ سیار               | تدبیر کر دن                               |
| میں ہلانا گنڈر (ہاوا)                     | طریق                     | افکار                                     |
| میں گ (نہ، پھ)                            | حزن۔ محرومیت۔ ماتم       | آماں۔ درم                                 |
| میں گہان (ہی)                             | خاطر آزدہ                | چوب دست۔ چوب دستی                         |
| میں گی (ہی)                               | حزین                     | سوچ                                       |
| میں گی بودن (امیڈ کی)                     | محروم بودن               | چوب زدن (امیڈ کی)                         |
| سوچ/ہیڈا (نہ، ایلیٹ)                      | سوگی                     | میٹی مارنی (امیڈ کی)                      |
| دغدھ۔ اندیشہ۔ فکر                         |                          | میٹی                                      |
| سوچ اکا کرنی (امیڈ کی)                    |                          | میں صاحت                                  |
| حوالے کر دن۔ توجہ کامل کر دن              |                          | سر چشم۔ منج                               |
| سوچ سماں اتے ساودھانی ہل کر کرنا          |                          | مناج                                      |
| سوچ سماں اتے ساودھانی ہل کر کرنا          |                          | شاہزادہم                                  |
| فانیدن۔ با تبر و تامل و احتیاط کاری کر دن |                          | شاہزادہ                                   |
| سوچ لانہ/ہیڈا رکنا (امیڈ کی)              |                          | صد  |
|   |                          | خر  |

|            |            |                  |                |
|------------|------------|------------------|----------------|
| ਸੋਹਗ-ਘਰ    | (ਨਾਂ ਪੁ)   | بیت الاصر        | سوہگر اگھر     |
| ਸੋਕਣ       | (ਇਲਿੰਗ)    | و سنی - انباغ    | سوਨਕਣ          |
| ਸੋਕਣਾ      | (ਇਲਿੰਗ ਬਵ) | ضر تان           | سوਕਨਾਂ         |
| ਸੋਖਾ       | (ਵਿ)       | آسان - سل        | سوਕਾ           |
| ਸੋਂ ਜਾਣਾ   | ਨਸੀਬ ਦਾ    | سوں ਜਾਨਾ ਨਸੀਬ ਦਾ | (ਅਮਿਤ ਕਿ)      |
| اجاق       | خاموش      | اجاق خاموش شدن   | (ਅਮਿਤ ਕਿ)      |
| ਸੌ         | ਟੁਕੜੇ      | ਸੌਕੜੇ ਕਰਨੇ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)      |
| ਸੋਣ        | ਖੁਲ੍ਹਾ     | ਚੁਦ ਸ਼ਾਖ ਕਰਨ      | کਰਨ            |
| ਸੋਣ        | (ਨਾਂ ਪੁ)   | ਕਮਰਾ             | ਸੋਨ ਵਾਲਾ       |
| اطاق       | خواب       | اطاق خواب        |                |
| ਸੋਣਾ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | سੋਣਾ             | ਸੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)  |
| ਖੱਤਨ       | خوابیدن    | ਖੱਤਨ - ਖ਼واہیدن  | - ਅਸਤਰਾਹਤ ਕਰਨ  |
| کਰਨ        |            | کਰਨ              | - ਖواب         |
| ਸੋਣੀ       | ਦੀ         | ਖੱਤਨ             | ਦੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਫੁਲ |
| ਸੋਪਣਯੋਗ    | (ਵਿ)       | ਤਫੋਇਸ            | ਤਫੋਇਸ ਦੀ ਸੋਨੀ  |
| ਸੋਪਣਾ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | ਸੋਣੀ             | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਮੁਹੂਲ      | کਰਨ        | ਤਫੋਇਸ            | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸੋਧਾਂ      | (ਇਲਿੰਗ)    | ਕਾਨ              | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸੋੜਾ       | (ਵਿ ਪੁ)    | ਤੱਕ              | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸੋਸਤਰ      | (ਨਾਂ ਪੁ)   | سلخ              | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਦ      | (ਨਾਂ ਪੁ)   | عسل              | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ   | (ਵਾਕਾਂ)    | کند              | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਰ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | ਕਨਦ              | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ  | ਉਜਾਝਨਾ     | ਤੁਹਾਨੂੰ          | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਥਰ         | ਬੰਹ        | ਬੰਹ              | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਰ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | ਸਜਾਊਣਾ           | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ  | ਸਜਾਊਣਾ     | ਥਰ ਆਈ            | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਦ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | شہید             | ਦੀ ਸੋਨੀ        |
| ਸ਼ਹਿਦ ਕਰਨਾ | (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | شہید کਰਨ         | ਦੀ ਸੋਨੀ        |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| شہید کرਨ  | کی را بدرجہ شہادت فائز کرਨ |
| دست قید   | مੁਕਾਬਲਾ                    |
| ਸ਼ਕਤੀ     | مੁਕਾਬਲਾ ਕਣੇ                |
| باੜਿਦਨ    | ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ                |
| ਸ਼ਕਤੀ     | ਸ਼ਕਤੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| نیرو      | توਾਨਾ                      |
| زور       | قررت                       |
| ਸ਼ਕਤੀ     | قابلیت                     |
| زਰہ شیر   | ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੀਰ (ਵਾਕਾਂ)     |
| ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ  | ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ (ਵਿ)              |
| قادر      | زوردار                     |
| قادر شدن  | قدرت دارندہ                |
| قادر شدن  | توਾਨਾ                      |
| قادر شدن  | زبردست                     |
| قادر شدن  | ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         |
| قادر شدن  | قادر شدن                   |
| قادر شدن  | قادر شدن                   |
| مرض قند   | ਸ਼ੱਕਰ روگ                  |
| درند      | ਸ਼ੱਕਲ                      |
| سੰਕੇ      | ਸੰਕੇ                       |
| شبہات     | گਮਾਂ                       |
| تلمیذ     | شبہ                        |
| تلامذہ    | شکر                        |
| تلمذ      | شکردا                      |
| غنیم      | شکردا                      |
| سਤਰ       | شکر                        |
| خصوصیت    | عدالت                      |
| صدی       | دشمنی                      |
| قردن      | عناد                       |
| سਤਾਬਦੀ    | ਸਤਾਬਦੀ                     |
| سਤਾਬਦੀਆਂ  | ਸਤਾਬਦੀਆਂ                   |
| سਤਾਬੀ     | ਸਤਾਬੀ                      |
| دارਬام    | سਤੀਰ                       |
| شناس نامہ | شਾਖਾਂ                      |
| لفظ       | آواز                       |

|            |                |                                    |                 |                          |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| سنسنی-کوئہ | (ن: پ) شبد کوش | لغت                                | (ہ) شرمیلا      | کم رو۔ حیادار            |
| سنسنی-کوئہ | (ن: ایلین)     | داڑھان                             | سراپ کڈھنی      | (امیٹ کی)                |
| سنسنی-کوئہ | (امیٹ کی)      | اشتراط                             | عرق کشیدن       |                          |
| سنسنی-کوئہ | (امیٹ کی)      | شرط بعن                            | خرابات          |                          |
| سنسنی-کوئہ | (ن: ایلین، ب)  | شرط بعن                            | سراپ بھانہ      | (ہ) شراب خانہ            |
|            |                | شرط بعن                            | سراپ دا کارخانہ | (ہاکاں)                  |
|            |                | شرط بعن                            | کارخانہ تقطیر   |                          |
| سنسنی-کوئہ | (ن: ایلین)     | شرط بعن                            | شراب بینی       | (امیٹ کی)                |
|            |                | شرط بعن                            | ساغرزدن         | - ساغر کشیدن             |
|            |                | شرط بعن                            | جام چیودن       | عرق خوردن                |
| سنسنی-کوئہ | (ن: ایلین)     | شرط بعن                            | سراپ مگنی       | (امیٹ کی)                |
| سنسنی-کوئہ | (ن: ایلین)     | کف-پناہ-امان                       | ساغر خواستن     |                          |
| سنسنی-کوئہ | (ن: پ)         | شرط سخان                           | خراباتی         | (پ) شرابی رجواریا        |
|            |                | جای پناہ-پناہ گاہ                  | شرط کرنی        | (امیٹ کی)                |
| سنسنی-کوئہ | (امیٹ کی)      | شرط مگنی                           | فضولی کردن      | - دخالت پجا کردن         |
|            |                | طلب امان زدن                       | سراڑتی          | (ہ) شراتی                |
| سنسنی-کوئہ | (ہ) شرمار تھی  | پناہ گزیں                          | خلیط            |                          |
| سنسنی-کوئہ | (ن: ایلین)     | خدرارت                             | سراڑتا          | (ہ) شروع                 |
| سنسنی-کوئہ | (امیٹ کی)      | آب دردیدہ داشتن                    | سلاپا           | (ن: پ) علاکھا            |
|            |                | اجیر                               | سلاپا           | (امیٹ کی)                |
| سنسنی-کوئہ | (ہ) شرمک       | خجلت آور                           | سلاپا جے گا     | علاکھا کرنی              |
| سنسنی-کوئہ | (ن: ایلین)     | خجالت-ندامت                        | سلاپا           | (ہ) علاکھی               |
|            |                | ندامت زده-نادم                     | قابل تحسین      | علاکھا کرنی              |
| سنسنی-کوئہ | (امیٹ کی)      | سراہمندہ ہونا                      | واسف            | تمام نمودن               |
|            |                | از رو فتن۔ عرق کردن۔ سرفجندہ بودن  | سماں دری        | - تجلیل                  |
| سنسنی-کوئہ | (امیٹ کی)      | سراہمندہ کرنا                      | شاعری کرنی      |                          |
|            |                | منفعل ساختن۔ منفعل کردن۔ رو فرمودن | سماں دری        | (امیٹ کی)                |
|            |                |                                    | شماں روانہ      | حکم ران۔ حاکم۔ فرماں روا |
|            |                |                                    | شماں روانہ      | (ہ) شاک                  |
|            |                |                                    | شماں روانہ      | (امیٹ کی)                |
|            |                |                                    | شماں روانہ      | حاکم کردن                |
|            |                |                                    | شماں روانہ      | حاکمیت                   |

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| سماں گارنی (نام: ایلین)                    | تمذ             | درماند (امیڈ کی) شتھل ہوئنا             |
| سماں گاری (نام: ایلین)                     |                 | اسٹھل (امیڈ کی) شتھل                    |
| ٹھانیت۔ سکون۔ آرام۔ آرام و قرار۔ امن       |                 | ٹھر۔ علاقہ دستار۔ شاشوں (پ) شملہ        |
| سماں گاری۔ سماں (پ) (نام: ایلین) شانتی گھن | ماں             | سیملا (نام: ایلین) شیشی                 |
| سماں (پ) (نام: ایلین) شاہس                 | شون             | سیپر (ہی) شیخ                           |
| سماں گاری (نام: ایلین) شاباش کنسی          | ہورا کشیدن      | سیپرڈا (نام: ایلین) شیر شک              |
| سماں دا ڈئن (نام: ایلین) شامروں جوں        |                 | سیل (نام: پ) شیل                        |
| عصر انہ۔ عصر دن                            |                 | سیہدا (ہی) شدرا                         |
| سماں گار کرنا (امیڈ کی)                    | میان در بر کردن | سیکورڈا (نام: پ) شکردار                 |
| سیسٹا چار (نام: پ) شکھا چار                | حسن آداب        | سیکنڈ (ہی) شہب چنگ                      |
| سیسٹا چار (نام: ایلین) شش بھلے             | ابدا کردن       | خواہ۔ خیر خواہ۔ خیر اندیش۔ خیر سگال     |
| سیکت (نام: ایلین)                          | ہزیت            | سیپ/بھر کرنا (ہی) شدھ رکھنا             |
| سیکرا (نام: پ)                             | چرغ             | خالص۔ پاک۔ درست۔ صحیح۔ بی نقل۔ کامل۔ بی |
| سیکایت کرنی (امیڈ کی)                      |                 | عیب۔ صراح۔ خالص دبی آسیغ                |
| عارض شدن۔ دادخواہی نمودن                   |                 | سیاف باطن (ہی) شدھ آتما                 |
| سیکار (نام: پ)                             | صید             | سیکھ (ہی) شیخ                           |
| سیکار ہوئنا (امیڈ کی)                      | شکار ہونا       | سیکھ سوچ (ہا کاں) شجھ سوچ               |
| سیکار کرنا (امیڈ کی)                       |                 | سیکھ میہا (نام: ایلین) شجھ سیوا         |
| چجیر زدن۔ چجیر کردن۔ شکار دیدن۔ صید کردن   |                 | سیکھ میگن ہوئنا (امیڈ کی) شجھ میگن      |
| سیکرفتن (امیڈ کی)                          | شکار پھرنا      | شگون داشن                               |
| سیکار (نام: پ) شکارہ                       | نارچ            | خیر اندیشی                              |
| سیکاری (نام: پ) شکاری                      | چجیر زن۔ میاد   | کار خیر                                 |
| سیکاری دے پنجے سے ڈھالیں                   |                 | حسن حال                                 |
| جھس (امیڈ کی) شکاری رے پنجے چوں جھوڑا      |                 | ثواب                                    |
| وارفت۔ مضھل                                | سیل (ہی) شتھل   | آثار خیر                                |
|  |                 | سرگرفتن                                 |
|  |                 | دراز کار                                |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| ਸੋਖੀ ਮਾਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | ਅਤੇ   | ਸੋਸ਼ਣ (ਨਾਂ) ਸ਼ੁਵਰਣ                             | ਸੋਖੀ ਮਾਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |
| ਫਲਾਂ ਕਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਨਾਜ਼ੀਦਾਂ | ਗੁਚਾਂ ਕਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਨਾਜ਼ੀਦਾਂ | ਗੁਚਾਂ ਕਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਨਾਜ਼ੀਦਾਂ | ਗੁਚਾਂ ਕਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ - ਨਾਜ਼ੀਦਾਂ |
| ਮਾਡੇ ਥਿਰ ਸੋਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                  | ਮਾਡੇ ਥਿਰ ਸੋਰਨੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                   | ਸੋਭ ਰੰਗ                                       | ਰੰਗ   |
| ਖਾਫਿਆਂ ਸੈਤਾਨ/ਭੂਤ                             | ਖਾਫਿਆਂ ਸੈਤਾਨ/ਭੂਤ                              | ਵਾਕਾਂ   | ਵਾਕਾਂ   |
| ਬੱਕ - ਅਲੋਬ - ਥਿਓ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                | ਬੱਕ - ਅਲੋਬ - ਥਿਓ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                 | ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ                                    | ਯਾਤਰਾ   |
| ਹਿਉਟ ਸੈਲੀ/ਪਰਨਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                | ਹਿਉਟ ਸੈਲੀ/ਪਰਨਾਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                 | ਸੋਕ ਹੋਣਾ                                      | ਸੋਕ ਹੋਣਾ                                      |
| ਹਿਉਟਾਂ ਸੈਲੀਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                   | ਹਿਉਟਾਂ ਸੈਲੀਆਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)                    | ਅਤੇ   | ਅਤੇ   |
| ਅਤੇ  | ਅਤੇ   | ਅਤੇ   | ਅਤੇ   |

|                                 |  |                               |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| ہٹلے میں (نام، ایلینڈ)          | انسٹیت                                 | مچیر۔ دنگ۔ جیران۔ بسوت۔ ششدر  |
| ہنس (نام، پا)                   | غاز۔ فون                               | خیر۔ (آمیڈ کی) ہکار بکا جوٹا  |
| ہمسلن/ہمسکر ہٹلے (آمیڈ کی)      | جستنا / مسکرا جوٹا                     | ہکومت کرنی (آمیڈ کی)          |
| وندان پید کردن                  |  |                               |
| ہمسڈاھر دستینہ۔ صح (نام، پا)    | دستخط۔ دستینہ۔ صح                      | رعیت داری کردن                |
| ہمسڈاھر ہوٹا (آمیڈ کی)          | ہستاخ رہوٹا                            | ہنگالا گٹا (آمیڈ کی)          |
|                                 | امضاشد                                 | ہنگیدن۔ ریدن۔ بے قضا حاجت رفت |
| ہمسڈاھر کرنا (آمیڈ کی)          | ہستاخ کرٹا                             | ہجامت کرنی (آمیڈ کی)          |
| امضا کردن۔ صح گزائش             |  | شاخ کردن۔ جامات کردن          |
| ہمسڈ کرنا (آمیڈ کی)             | حد کرٹا                                | انضمام                        |
| ہمسڈ کردن                       |  | ہضم ہوٹا (آمیڈ کی)            |
| ہمسپڈاھل (نام، پا)              | ہسپٹاں                                 | ہزارہاں (ہی)                  |
|                                 | دارو خانہ۔ شفاخانہ۔ بیمارستان          | ہزاراں (ہی)                   |
| ہمسڈ بخ (ہی)                    | فراخ ابرو۔ فراخ رو۔ کشاورہ رو۔ خندہ رو | آلاف۔ الوف                    |
| عروب (ہا کا سٹا)                | ہس کھا استری                           | رود تر۔ اشک۔ آب چشم           |
| ہمسڈ ایسٹری (آمیڈ کی)           | ہس لی                                  | ہنڈو کیرٹا (آمیڈ کی)          |
| اضحک۔ خندانیدن۔ شکرا گھنگھنی    |  | اشک افساندن۔ سر شک باریدن     |
| اطراد۔ راندن۔ ہی کردن (آمیڈ کی) | کنٹا                                   | اشک چیدن (آمیڈ کی)            |
| ہنڈا شن (آمیڈ کی)               | حقدار ہوٹا                             | ہنخو پونجھنا                  |
| ہنڈ بات کھنی کریں (آمیڈ کی)     | کلاہ خود را قاضی کردن                  | دکان دار۔ دکر دار             |
|                                 | احقاق                                  | ہنٹا۔ کنٹا                    |
| ہنڈ میگالا (آمیڈ کی)            | حق منگنا                               | جیسم۔ کھیم و خیم۔ تاور        |
| ہنڈا ہٹلے (آمیڈ کی)             | عقد۔ اکن                               | ہٹا دئنا کیسے نہ کہم توں      |
| ہنڈا بکا (ہی)                   | حق بات کھنی                            | جواب کردن از پیش برداشنا      |
|                                 |  | ڈکان۔ ڈکان                    |
|                                 |  | ہنٹی (نام، ایلینڈ)            |
|                                 |  | دکانیں                        |
|                                 |  | لچ۔ ضد                        |
|                                 |  | ہठ دیزہ                       |
|                                 |  | ہठ دا ہرداڑا کرنا             |

|   |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| (امیڈ کی)   | لجان کردن   | ہب-ہوکا (ن، پ)                        | دست افزار۔ افزادست                               |
| ہٹپرہمی کرنی (امیڈ کی)  | ہٹھ دھرمی کرنی  | (ہب) ہب دی صفائی (ہبکاٹ)              | شعبدہ بازی۔ حقہ بازی۔ گول زنی۔ شیادی۔ تردستی۔    |
| سر ٹھنی کردن  | خج باز۔ خدی۔ خود سر۔ سر خخت   | (ہب) ہب دی صفائی (ہبکاٹ)              | چشم بندی   |
| ہٹلیلا (ہب)   | خردیزہ  | ہب دھوکے کچھے پے جانا (ہبکاٹ)         | آزار کروں۔ تعقیب کردن۔ درد سرداری۔ تصدیع         |
| ہٹلیلا پلن (ن، پ)   | خج بازی   | (ہب) ہب دی صفائی (ہبکاٹ)              | دادن۔ اذیت کردن۔ جورو جفا کردن                   |
| ہٹ-ٹھنلی (ن، ایلیں)   | ٹکڑا عضما   | ہب طول (ہب) ہب نال ہبڑنا              | فاخت۔ پنج دست                                    |
| ہٹ-ٹھرڑی (ن، ایلیں)   | سر گذشت   | ہب نال ہبڑنا ہبڑنا (ہبکاٹ)            | آب دست   |
| ہٹ-ٹھرڑی (ن، ایلیں)   | عظم۔ اسخوان   | ہب پنجہ (ن، پ) ہب پنجہ                | ہب پیشنا (ہبکاٹ)                                 |
| ہٹلیا کرنی (امیڈ کی)  | بکول (ن، ایلیں)   | ہب پارلی (ن، پ) ہب پارلی              | دست مالی کردن                                    |
| ہٹش۔ قتل کردن۔ ذبح کردن۔ ہلاک ساختن   | ہٹلیا کرنی (امیڈ کی)  | ہب پیشنا (ہبکاٹ)                      | ہب پیر پھل جانے                                  |
| ہٹیਆ را (ن، پ) (ہب)   | قاتل۔ ٹئندہ۔ ہلاک کننہ  | ہب پیر پھل جانے (امیڈ کی)             | سر اسحہ شدن۔ دست پاچہ شدن۔ عصباتی شدن            |
| ہب (ن، پ)   | دست۔ یہ   | ہب پیر پھل جانے (امیڈ کی)             | ہب پیر مارنے / ہب پیر مارنا                      |
| ہب اڈے پیر (ہبکاٹ)  | دست پا  | ہب پیر مارنے / ہب پیر مارنا (امیڈ کی) | تفلا کردن۔ دست پا زدن (یا کردن)۔ کشمکش کردن۔     |
| ہب سُک جانا (امیڈ کی)   | ٹلل   | ہب پیر مارنے / ہب پیر مارنا (امیڈ کی) | خخت کوشیدن۔ منازعہ کردن۔ بجد و جمد تمام طلب کردن |
| ہب ہولکرنا (امیڈ کی)  | افسوں خواندن برائی دفع کردن روچ پلید  | ہب بندوں (امیڈ کی)                    | دست بستن۔ دست بریمنہ نہادن۔ تنظیم و احترام کردن  |
| ہب کرنا (امیڈ کی)   | حیلہ زدن۔ شو خی کردن۔ بی نتیجہ کردن۔ عقیم ساختن                                     | ہب مکروہنا (امیڈ کی)                  | دست بر تافتہ                                     |
| خیلی (ن، ایلیں)   | خیلی  | ہب مکروہنا (امیڈ کی)                  | ہب ملکنے (امیڈ کی)                               |
| ہب کیرو (ن، ایلیں)  | صنعت دستی۔ دست کاری   | ہب مکروہنا (امیڈ کی)                  |  |
| ہب کشادن (امیڈ کی)  | دست کشادن   | ہب مکروہنا (امیڈ کی)                  |  |
| ہب سلولنا (امیڈ کی)   | دست سلولنے (امیڈ کی)  | ہب مکروہنا (امیڈ کی)                  |  |
| ہب سوچنے (امیڈ کی)  | دست سوچنے (امیڈ کی)   | ہب مکروہنا (امیڈ کی)                  |  |
| دست لستن۔ درخواست کردن۔ التماس کردن۔ لا بہ کردن۔ دعا کردن۔ نماز خواندن۔ بدعا خواستن | دست لستن۔ درخواست کردن۔ التماس کردن۔ لا بہ کردن۔ دعا کردن۔ نماز خواندن۔ بدعا خواستن | ہب ملکنے (امیڈ کی)                    |  |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| افسوس خوردن۔ تاسف داشتن۔ متسف شدن۔  | تجیز کردن                           |
| پشیمان شدن (بودن)۔                  | بالا کشیدن                          |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| چنگ زدن۔ غصب کردن۔ کورمالی کردن     | چاک دستی                            |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | کف                                  |
| بہم دست دادن۔ مصافنہ                | اکف                                 |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| دست در و آب کشیدن                   | دستادرست۔ دست بدست                  |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | دست دادن                            |
| گیر آمدن۔ گیر افتادن۔ حاصل آمدن     | ہندوستانی (امیت کی)                 |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی کرنا                      |
| قلعی۔ دست نوں۔ مسوڑہ۔ مخاط          | دست بگریبان شدن۔ دست بخشد           |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| دست بہم دادن                        | زہ بزردن                            |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| دست بریدن۔ دست قلم کردن             | عطا                                 |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| یازیدن۔ یازدن۔ دست دراز کردن۔ پیوون | خرو تو خر                           |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| فراؤردن                             | داج۔ ظلمت۔ تاریکی                   |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| کراس                                | ہندوستانی                           |
| دست ہا۔ اپاری                       | ہندوستانی                           |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| دست افزاز۔ اوزار۔ آلت               | دلس۔ تاریکی۔ ظلمت                   |
| ہندوستانی سٹ دے لانا                | باد بند                             |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | ہندوستانی                           |
| تلیم شدن                            | ہندوستانی                           |
| ہندوستانی بند                       | ہندوستانی                           |
| سلاح دست                            | ہندوستانی                           |
| ہندوستانی بند کرنا                  | ہندوستانی                           |
| ہندوستانی (امیت کی)                 | تمام۔ گرد و غبار سیاہ               |
|                                     | ہندوستانی                           |
|                                     | سیاہ چال۔ زندن زیر زمین۔ مجرہ تاریک |
|                                     | ہندوستانی                           |
|                                     | واجیہ۔ شب تاریک                     |

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| ہدانا                                     | چندیں                        | یوں کردن                                     |
| ہدنا (ن: پ)                               | شودہ                         | غزال   |
| ہمساہر (ن: پ)                             | مرافت                        | بادفت  |
| ہمسائیاں (ن: پ: ب)                        | اتراپ                        | ہر پل (کیہی)                                 |
| ہمدوری کرنی (آمیڈ کی)                     | دل سوزی کردن                 | ہر دم۔ ہر لحظہ۔ ہر ساعت۔ ہمیشہ۔ علی الادام   |
| ہمپلے (ہمپلے)                             | موازن                        | ہر سو  |
| ہمپسٹا ہوئے ہم پیشہ ہونا (آمیڈ کی)        | محترف بودن                   | ہر دل عزیز (ہم) ہر من پیارا                  |
| ہم راز (ہم راز)                           | نجی                          | ہرمل (ن: ہیل) ہریل                           |
| ہملا کرنا (آمیڈ کی)                       | تاخن                         | ہریلہ  |
| ہمیشہ (ہمیشہ)                             | ہمارہ۔ گل                    | سیز۔ رنگ سیز۔ چیز سیز۔ سیزہ۔ تازگی           |
| ہمیں (ن: ہیں)                             | اوشاخ                        | ہر اونٹا (آمیڈ کی)                           |
| ہر جس (ن: پ)                              | فرج۔ شادمانی۔ سرور۔ خرم۔ مرت | ٹکست دادن۔ منزہ کردن۔ سر گلوں کردن۔ مات کردن |
| ہر کوڑ (ن: ہیل)                           | جنیش                         | کشت زار                                      |
| ہر کوڑ کرنی (آمیڈ کی)                     | نہست کردن                    | زک   |
| تحریک (آمیڈ کی)                           | تحریک                        | کزبرہ  |
| ہر کوڑ دئی (آمیڈ کی)                      | حرکت دنی                     | ہرامزاہ (ہم) ہرامزاہ                         |
| ہر چیز نہیں میر رکھنا                     |                              | ولد الحرام۔ ولد السخت۔ بچے کوی               |
| ہر ترتیب (آمیڈ کی)                        |                              | سخت  |
| ہر دبان ہربام (ہم) ہرجیز نوں تھاں سر کھنا |                              | ہرام دا مال (ہم) ہرام دا مال                 |
| ہر جانہ دئیا (آمیڈ کی)                    |                              | جلبان  |
| تلائی کردن                                |                              | ہریاں  |
| ہمپسٹا ہوئے ہم پیشہ ہونا (آمیڈ کی)        | محترف بودن                   | سیزی۔ تازگی۔ تازہ نفسی۔ خانی                 |
| ہر کوڑ (ن: پ)                             | آہو                          | حاصل خورم (ن: ہیل) ہری کھتی                  |
| ہر کوڑ کرنی (آمیڈ کی)                     |                              | ہرفود۔ ہریک۔ ہر کس (ہم) ہریک                 |
|   |                              | تزلزل  |
|   |                              | فاطری  |
|   |                              | قلبه   |

|                          |                      |  |  |
|--------------------------|----------------------|--|--|
| ہلکا                     | (ہلکنا) (امیٹ کی)    | ہارشدن   | ہوائی گلاں کرنیاں کرنا                       |
| ہلکا                     | بڑا (ن: پ)           | ہاری   | (امیٹ کی)                                    |
| ہلکیا                    | بڑا (ہلکتا) (ہوا کا) | سگ ہار۔ سگ دیوانہ                                | زنج کردن۔ سخنان لاطاکل و بی نفع گھن          |
| ہل                       | چلا اٹنے دا کم       | ہل چلاون را کر                                   | راہ ہوارد                                    |
|                          | (ہوا کا)             | (ہلکیا)  | (ن: پ) ہوائی رستہ                            |
| ہلکا                     | دو لاب               | دو لاب۔ دولا بہ                                  | ہوا ہے جانا (ہوا ہو جانا) (امیٹ کی)          |
| ہلکی                     | زرو چوبہ             | زرو چوبہ۔ زرو چوبہ                               | غائب شدن۔ پیدا ہونے۔ پیدا ہونے۔ نایاب شدن    |
| ہلکا                     | ہل واکہ              | قبلہ ران   | ہوا کا کڈھنی (امیٹ کی)                       |
| ہلکا                     | پورش                 | ہلکا   | ازباد تھی کردن                               |
| ہلکا                     | د گرم کردن           | د گرم کردن۔ جرأت دادن۔ دل دادن۔ تشویق            | ہوانکنا (ہوانکنا) (امیٹ کی)                  |
|                          | کردن                 |  | زوڑہ کشیدن۔ جین کشیدن۔ بازو زہاد کردن        |
| ہلکا                     | حلاں دی کمائی        | حلاں دی کمائی (ہوا کا)                           | ہوا دا چلانا (ہوا چلانا) (امیٹ کی)           |
|                          | مال طیب              |  | زندہ شدن باد                                 |
| ہلکا                     | ہلو نہا              | ہلو نہا (امیٹ کی)                                | ہوا سار کو مٹھا (ہوا کا)                     |
| تکان                     | تند دادن۔ زود کشیدن  | تند دادن۔ زود کشیدن زود انداختن۔ زود کشیدہ       | وزیدن  |
|                          | شدن                  | شدن۔ تکان خوردن                                  | ہوا بھرنی (ہوا بھرنی) (امیٹ کی)              |
| ہلکا                     | ہلو نہیا             | ہلو نہیا دلانا (امیٹ کی)                         | باد کردن۔ پرازباد کردن۔ زباد بالا بردن۔ زباد |
| ایں سود و آں سو جنباں دن | بر سو جنباں دن       | ایں سود و آں سو جنباں دن۔ بر سو جنباں دن۔ نواسان | ستودن۔ مغزور کردن                            |
| داشمن                    | تحف نفوذ در آوردن    | داشمن۔ تحف نفوذ در آوردن۔ اختیارداری کردن بر     | ہوا لالدار (پ: ن) حوالدار                    |
| ہلکا                     | باد                  | ہلکا (ن: پ) ہوا                                  | سرپاس  |
| ہلکا                     | ہوا اڑا              | ہلکا اڑا (ن: پ) ہوا اڑا                          | ہوا لالڈ (ن: پ) حوالات                       |
| میدان                    | میدان طیارہ          | میدان طیارہ۔ غرود گاہ طیارات                     | زندان شخنا۔ قد غن ضبطیہ                      |
| ہلکا                     | بڑا                  | بڑا (ن: پ) ہوا اڑا                               | ہوا لے کر دینا (امیٹ کی)                     |
| ہلکا                     | خیالات خام           | بازدیدیا نقشہ برداری ہوائی                       | در پر دن۔ تقویض کردن۔ تسلیم کردن             |
| ہلکا                     | بڑا                  | ہلکا قلعے کیلئے                                  | ہوا ڈھنڈ (ن: پ) ہوا ڈھنڈ                     |
|                          |                      | خیالات خام۔ ہوس خام۔ خوشی بی اساس یا خیالی       | ٹھیکان۔ سیل                                  |
|                          |                      |  | ہڑھاں۔ ہڑھاں (ن: پ) ہڑھاں                    |
|                          |                      |  | مرنی۔ زرخ                                    |
|                          |                      |  | ہڑھاں۔ ہڑھاں (ن: پ) ہڑھاں                    |
|                          |                      |  | ہڑھاں۔ ہڑھاں (ن: پ) ہڑھاں                    |
|                          |                      |  | نامجھا۔ زشت۔ بی اضافت۔ بد ترکیب۔ بد شکل۔     |
|                          |                      |  | آری۔ بی۔ اپی (ہیس ن: پ) ہیں                  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ہاں کرنا (امیت کی)                            | اقرار   | عدام احضار                                    |
| ہیئی کوئٹ (نہیں) (امیت کی)                    | حاضر باشی                                     | حاضری حاضری                                   |
| کاخ دادگستری                                  | ہاڑھی کھانی (امیت کی)                         | حاضری کھانی                                   |
| ہاس سیتھر (نہیں) (پر)                         | چاشت خوردن                                    | چاشت خوردن                                    |
| تصویر مسخرہ آمیز۔ تصویر مضحك                  | ہاڑھی لے لئی (امیت کی)                        | حاضری کیسی                                    |
| خندہ آور (پر) ہاس جک                          | حاضر و غایب کردن                              | حاضر و غایب کردن                              |
| ہاس-بیلہاس (نہیں) (پر)                        | دیزی  | دیزی  |
| خوش طبی۔ خوش مزگی۔ مسخرگی۔ تفریح              | ہم عمری                                       | ہم عمری                                       |
| نکاہی (پر) ہاس رسی                            | ہم عمر  | ہم عمر  |
| ہاسل ہوئا حاصل ہونا (امیت کی)                 | فیل   | فیل   |
| فراتم شدن۔ حاصل شدن                           | افیال   | افیال   |
| ہاسل کرنا (امیت کی)                           | عاج   | عاج   |
| فراز آوردن۔ حاصل کردن۔ چنگ آوردن              | ہانی (نہیں) (پر)                              | ہانی  |
| خندگی۔ خندہ                                   | ضرر۔ نقصان۔ زیان۔ حرج۔ مضرت                   | ضرر۔ نقصان۔ زیان۔ حرج۔ مضرت                   |
| ہاسا/ہاسکول (نہیں) (پر)                       | اضرار   | اضرار   |
| خندگی۔ خندہ                                   | ہانی کرنی (امیت کی)                           | ہانی کرنی                                     |
| ہاسے ہیلہ (پر)                                | ہانی کارک (پر)                                | ہانی کارک                                     |
| مسخر آمیز۔ مز خرف۔ پوچ۔ نامحقول               | نقصان دہ۔ نقصان رسان۔ ضرر رسان۔ ضار۔ مضر      | نقصان دہ۔ نقصان رسان۔ ضرر رسان۔ ضار۔ مضر      |
| ہاگا کار (نہیں) (امیت کی)                     | ہانی پورتی (امیت کی)                          | ہانی پورتی                                    |
| صاحب کار (پر) حاکم                            | جبران۔ تلائی۔ تکافو۔ پاداش۔ عوض               | جبران۔ تلائی۔ تکافو۔ پاداش۔ عوض               |
| ہاک مارنی (امیت کی)                           | ہانی پورتی کرنا (امیت کی)                     | ہانی پورتی کرنا                               |
| بلند صد اکردن۔ صدا زدن۔ دعوت کردن۔ احضار کردن | پاداش دادن۔ عوض دادن۔ جبران کردن۔ تلائی کردن۔ | پاداش دادن۔ عوض دادن۔ جبران کردن۔ تلائی کردن۔ |
| ہاٹھے وچ مددوئی (امیت کی)                     | نصیر  | نصیر  |
| گواراند (امیت کی)                             | مات   | مات   |
| ہاڑھر (پر) حاضر                               | قوہ اسب                                       | قوہ اسب                                       |
| ہاڑھر نا ہوئا حاضر نہ ہونا (امیت کی)          | علم افحمن                                     | علم افحمن                                     |
|   | ہار جانا (امیت کی)                            | ہار جانا                                      |
|   | شکست خوردن۔ منزہ شدن۔ ہز بیت یافت۔ مات        | شکست خوردن۔ منزہ شدن۔ ہز بیت یافت۔ مات        |

|  |   |
|--|---|
| شدن۔ پرانگھمن                                | رینگ                                    |
| ہارسیک (پ) ہر دک قلبی                        | ہیچکی (ن، ایلیں)                        |
| ہار مٹن لئنی (امیٹ کی)                       | فوق۔ ہمچکہ۔ سکھنے۔ زعنگ                 |
| پرانگھمن۔ پرانداختن                          | ہیچکی آونی (امیٹ کی)                    |
| خیر گرفتن (امیٹ کی) حال پੁਛنا                | فوق زدن۔ زغبیدن                         |
| حال بدل جانا (امیٹ کی)                       | ہیچکیاں لئنی (امیٹ کی)                  |
| حال برگشتن                                   | ہمچک کردن                               |
| حال ویگڑ جانا (امیٹ کی)                      | ہینڈول (پ) ہٹولو                        |
| فادآمدن                                      | گاخوارہ۔ گاہوارہ۔ گوارہ۔ مدد۔ گازہ      |
| حوال بے حال ہوئا                             | ہیلنکنا (پ) ہک                          |
| دگر شدن۔ تغیریافتن (امیٹ کی)                 | شہہ زدن۔ شہہ کشیدن۔ زنو بیدن            |
| نازوانداز۔ عشوہ (پ) ہو جاؤ رفہ۔ چاہ          | رفاہ۔ سازواری۔ آسودگی (پ) ہت            |
| ہارڈنا/تلہننا (امیٹ کی)                      | خیر خواہ۔ خیراندیش (پ) ہتیشی            |
| ٹکن۔ کیل کردن                                | ہیڈاٹ کرنی (امیٹ کی)                    |
| ہڑی (پ) ہڑی (ن، ایلیں)                       | گھمداشت                                 |
| ہیماہ حساب                                   | ہیم                                     |
| ہیماہ کرنا (امیٹ کی)                         | ہیم ت ہار جانا (امیٹ کی)                |
| شارہ کردن۔ حساب کردن                         | کرم باختن                               |
| ہیماہ کیماہ ویس لیا اول                      | سر خوردن (امیٹ کی)                      |
| قلمداد کردن (امیٹ کی) حساب کتاب و ج لیا اونا | رو دخانہ تج۔ تو ده تغلیان               |
| ہیماہ سوکا دے لئا (امیٹ کی)                  | ہیم۔ پرہبت (پ) ہم پرہبت                 |
| عاید داشتن                                   | تو ده تج شاور۔ کوہ تج۔ آدمی عاطفہ       |
| ہیماست (امیٹ کی) حساب لینا                   | طرف داری (پ) ہمایت                      |
| سیم۔ شریک (پ) حصہ دار                        | ہیماٹیڈ (ن، ایلیں) حمایت کرنی (امیٹ کی) |
| ہیمسے بھرے کرنا (امیٹ کی)                    | پرداری کردن۔ حمایت کردن                 |
| ٹھیش و پلا کردن                              | ھمایتی (پ) حمایتی                       |
| ہیکنا / ہنکنا (امیٹ کی) کھنار کھنا           | ھول خوردن (امیٹ کی)                     |
| ذات الصدر (ن، ایلیں) کب پئر                  | ہینلنا (پ) ہلنا (امیٹ کی)               |

|                  |                                 |                        |
|------------------|---------------------------------|------------------------|
| ہیلدا ہئیا دے د  | (ہ) ہتھ سکر ب پین والا (ہا کاں) | ہُنکا/سیگارٹ پینے والا |
| دنداں لق         | دو دن                           | دو دن                  |
| ہیلنا            | قلیان کشیدن                     | قلیان کشیدن            |
| خوگرفتن          | ہُنکا پینا (آمیڈ کی)            | ہُنکا پینا (آمیڈ کی)   |
| عادت کردن        | قلیان چاق کردن                  | قلیان چاق کردن         |
| خود را عادت دادن | جامت                            | جامت                   |
| معتاد شدن        | ہُنکا بھرنا (آمیڈ کی)           | ہُنکا بھرنا (آمیڈ کی)  |
| ہیلائیلنا        | سخن زدن                         | سخن زدن                |
| در شورانیدن      | ہُنکا مارنی (آمیڈ کی)           | ہُنکا مارنی (آمیڈ کی)  |
| جنبانیدن         | سک زدن                          | سک زدن                 |
| جنبانیدن         | ول گیری کردن                    | ول گیری کردن           |
| ہیل جزا          | ہُنکا                           | ہُنکا                  |
| ہیلڈا            | ہُنکا                           | ہُنکا                  |
| ہیلنا            | ہُنکا                           | ہُنکا                  |
| فرو دست          | ورقہ تحویل                      | ورقہ تحویل             |
| دو دن            | سفتہ                            | سفتہ                   |
| لب قدرت          | سفجہ                            | سفجہ                   |
| عاجز             | اکنوں                           | اکنوں                  |
| ہین              | ہُن                             | ہُن                    |
| عدیم             | ہُن تک                          | ہُن تک                 |
| ہیرا             | تاکنوں                          | تاکنوں                 |
| الماں            | تا بحال                         | تا بحال                |
| بہانہ            | تا بجا                          | تا بجا                 |
| چالاک            | با فعل                          | با فعل                 |
| چست              | الا ان                          | الا ان                 |
| اگاہ             | السلطہ                          | السلطہ                 |
| ہوشیار           | ہمیں حالا                       | ہمیں حالا              |
| ہوشیار           | فی الحال                        | فی الحال               |
| آدمی             | اکنوں                           | اکنوں                  |
| ہوشیار آدمی      | صنعت                            | صنعت                   |
| ہوشیاری          | ہُنر ر                          | ہُنر ر                 |
| آدمی             | ہُنر مند ہونا                   | ہُنر مند ہونا          |
| ہوشیاری آدمی     | (آمیڈ کی)                       | (آمیڈ کی)              |
| کہ داشن          | کہ داشن                         | کہ داشن                |
| کمال داشن        | مرد کار بودن                    | مرد کار بودن           |
| امر              | صنعت کار                        | صنعت کار               |
| ہُنکم            | ہُنر کار                        | ہُنر کار               |
| ہُنکم کرنا       | (پی نا) ہنگام                   | (پی نا) ہنگام          |
| کار فرمودن       | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| امر کردن         | ہُنگام کرننا                    | ہُنگام کرننا           |
| فرمان دادن       | ہورا کشیدن                      | ہورا کشیدن             |
| ہُنکم            | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| چلا عیلانا       | خوشی کردن                       | خوشی کردن              |
| حکم              | شادی کردن                       | شادی کردن              |
| فرمابودن         | وجد کردن                        | وجد کردن               |
| حکم کردن         | قارت و قورت                     | قارت و قورت            |
| سلط داشن         | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| تفوق یافتن       | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| کول البستونی     | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| ہُنکم            | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| دا گولہ          | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| ہُنکم دے لانا    | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| حکم دینا         | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| امر فرمودن       | خیج دادن                        | خیج دادن               |
| امر دنی کردن     | مصر اصرار کنندہ                 | مصر اصرار کنندہ        |
| ہُنکم مبنی لانا  | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| اتصال            | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| ہُنکا            | ہُنگام                          | ہُنگام                 |
| قلیان            | ہُنگام                          | ہُنگام                 |

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| بھال آمدن                                | ہو جھاپن (ہی) | ماں کے زدن         |
| تگ ظرف۔ سبک سر۔ کم عوصلہ۔ کم عمق۔ بی عقل | ہو جھاپن (ہی) | بیٹک               |
| کم ظرفی۔ کم عمقي۔ بی عقلی۔ بیکی۔ خفت     | زیر دبala     | ہو جھاپن (ہی)      |
| فند قلی                                  | ہو جھاپن (ہی) | ہو جھاپن (ہی)      |
| شدن۔ بودن۔ گتن                           | ہو جھاپن (ہی) | ہو جھاپن (ہی)      |
| ہست۔ ہست و بود۔ وجود                     | ہو جھاپن (ہی) | ہو جھاپن (ہی)      |
| ہست و نیست۔ ہست و نیستی                  | ہو جھاپن (ہی) | ہو جھاپن (ہی)      |
| عالم وجود۔ جہان ہستی                     | ہو جھاپن (ہی) | اوقات              |
| ہادث شدن                                 | ہو جھاپن (ہی) | کولیر              |
| دیگر                                     | ہو جھاپن (ہی) | کیف دستی           |
| دیگر                                     | ہو جھاپن (ہی) | دری مدرس           |
| دیگر                                     | ہو جھاپن (ہی) | مدھوشی             |
| دیگر                                     | ہو جھاپن (ہی) | محیر               |
| بے سخن دیگر                              | ہو جھاپن (ہی) | عجب داشن۔ مسوت شدن |
| مزید کردن                                | ہو جھاپن (ہی) | ہو جھاپن کرنے کا   |
| دیگران                                   | ہو جھاپن (ہی) | مسوت کردن          |
| دلمل                                     | ہو جھاپن (ہی) | حیران پریشان ہونا  |
| رقابت۔ مسابقة                            | ہو جھاپن (ہی) | سر ایکھے شدن       |
| منصرف کردن۔ باز داشن۔ قد غن کردن۔ نی     | ہو جھاپن (ہی) | تھیر               |
| کردن۔ غیر ممکن ساختن                     | ہو جھاپن (ہی) | ہوش توں کم لینا    |
| زہرہ باختن                               | ہو جھاپن (ہی) | ہوشیدن             |
| زہرہ باختن (آجیکا) حوصلہ ہونا            | ہو جھاپن (ہی) | ہوش دیچ اور آکونا  |
| زہرہ باختن (آجیکا) حوصلہ رکھنا           | ہو جھاپن (ہی) | ہوش دیچ اور آکونا  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| جگرداشن                               | ہنلی-ہنلی (ہولی ہولی) (کیا ہے)            |
| ہوکلنا (آمیت کی)                      | رفتہ رفتہ۔ آہستہ آہستہ                    |
| نفس بریدن۔ نفس سو ختن نفس زدن۔ مخیدن۔ | ہنلی ہنلی چلان (ہولی ہولی) (آمیت کی)      |
| رخیدن                                 | جستہ جستہ راہ رفتہ                        |
| ہندا (نہ) ہو وہ پر غیریش              | ہنلی ہنلی ترنا (ہولی ہولی ترنا) (آمیت کی) |
| ہولارزیل (ہی) ہولارزیل                | قدم کردن۔ چھل قدمی                        |
| خفیف۔ سبک۔ بی قدر۔ خوار               | ڑکیک (ہا کامپ) ہولی چال                   |
| سبک سر (ہی) ہولار تھج                 | زیر بگھن (آمیت کی) ہولی بولنا ہنلی بے للن |
| ہنلی (کیا ہے) ہولی یواش               | آہستہ۔ یواش                               |

|                               |                               |   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| کہی (ہ)                       | متعدد                         | کسوئی تے پر کھنا (امیت کی)                  |
| کہی آدمی (ن، پ، ب)            | چند                           | محک زدن                                     |
| کہی مال (ن، پ، ب)             | چند تن۔ تن چند                | تعب۔ ایذا                                   |
| کہی سال (ن، پ، ب)             | چند سالہ                      | ایزارسان                                    |
| کہی وار (ن، پ، ب)             | چند بار۔ چند دفعہ۔ چند گاہ    | استطاعت                                     |
| گرک پی (ہ) کشم افسر (ہا کاںہ) | عمر                           | کہانی                                       |
| وہ مل کنی (امیت کی)           | قسم خوردن                     | اساطیر۔ قصص۔ داستان ہا۔ حکایات۔ افسانہ ہا   |
| وہ بھائی (امیت کی)            | ورزشی                         | کہانی سناؤنی (امیت کی)                      |
| وہ بھائی (امیت کی)            | عيار۔ سگ محک                  | داستان گھن۔ داستان زدن                      |
| وہ بھائی (امیت کی)            | ساطع۔ قصاص۔ گوشت فروش         | ضرب المثل                                   |
| وہ بھائی (امیت کی)            | ساتور (ہا کاںہ) تصائی دال بغا | کہاوت                                       |
| وہ بھائی (امیت کی)            | کلند                          | کہاوت                                       |
| وہ بھائی (امیت کی)            | عفتر                          | کہاوت                                       |
| وہ بھائی (امیت کی)            | خطا                           | ضرب الامثال                                 |
| وہ بھائی (امیت کی)            | قصور معاف کروئیا              | خنداخند۔ خند خند۔ قاہ قاہ                   |
| وہ بھائی (امیت کی)            | فر دگداش                      | کہیکہ مار کے ہمسن                           |
| وہ بھائی (امیت کی)            | قصیر کار۔ خاطی                | قاہ قاہ خندیدن۔ تلا بیدن                    |
| وہ بھائی (امیت کی)            | قصور وار                      | خندیدن (امیت کی) قوچہ لارکنا                |
| وہ بھائی (امیت کی)            | زخت۔ بی مزہ۔ بد مزہ           | چہیلنا/بیللن (امیت کی)                      |
| وہ بھائی (امیت کی)            | غومت                          | حرف زدن۔ گھن                                |
| وہ بھائی (امیت کی)            | معیار۔ محک                    | کنگن  |
|                               |                               | کنگن  |
|                               |                               | دست ابرنجن۔ دست برنجن۔ دستیارہ۔ سوار۔ عضاد  |
|                               |                               | کنگال (امیت کی) کنگال                       |
|                               |                               | مفلس۔ نادار۔ بنوا۔ شگ دست۔ تھی دست۔ بی نوا۔ |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| بی حاصل                                       | بے کندھ (ن: ایلی)             | چینہ                                    |
| کنگال ہوئا (امیت کی) اصرام                    | کنگال ہوئی (ن: ایلی)          | بے کندھاری/بٹانی                        |
| کنگالی (ن: ایلی)                              | کنگالی اتنے تھا جی (ہا کا نس) | کنگالی کنڈھاری/بٹانی                    |
| فلکت۔ زبونی۔ ناداری۔ افلاس۔ بی چیزی۔ بی نوائی |                               | چینہ کشیدن                              |
| کنگالی آتے میساڑی (ہا کا نس)                  |                               | لاک پشت۔ چلپہ                           |
| فاقد و فقر                                    |                               | زغارو۔ خانہ فاوش                        |
| کنپا کرنا (امیت کی) انشاط                     |                               | جلابا                                   |
| کنپی کرنا (امیت کی) کنکھی کرنی                |                               | لئیم۔ بخل                               |
| شاندن۔ شانہ زدن۔ شانہ کردن۔ شانہ نہادن        |                               | جعدالدین                                |
| کنچ   | زبان                          | کنچوری                                  |
| کنھی گری (ن: ایلی)                            |                               | اساک                                    |
| دادگاہ۔ دارالقصاء۔ دادری گاہ                  |                               | منقطع شدن۔ منقطع ساختن                  |
| دادسرای (ن: ایلی) کچریاں                      |                               | کٹا خش (ن: ایلی)                        |
| کنھی گری لائونی (امیت کی) کچری لائونی         |                               | غمزہ۔ ”غمزہ برہم زدن از روی ناز و کرشم“ |
| دیوان باز کردن                                |                               | کارد                                    |
| کنچ کرنا (امیت کی)                            | خانی کردن                     | کشوار دا زخم کھانا                      |
| کنچ کو (ہی)                                   |                               | کارد خوردن                              |
| خنچ۔ خام۔ ناپختہ۔ نارسیدہ۔ نارس               |                               | کارد زدن                                |
| کنچ آتے بخٹا ہل کھچل                          |                               | کاراں بٹانیاں                           |
|   | غنجال                         | کارد سازی                               |
| کنچ سینٹا (ہا کا نس)                          | ورق خام                       |   |
| کنچ سیع (ن: ایلی)                             | حیب                           | دشنہ                                    |
| کنچ پن (ن: ایلی)                              | خامی                          | از بر۔ حفظ۔ یاد                         |
| کنچ ہل کھچل (ہا کا نس)                        |                               | کنچ کرنا (امیت کی)                      |
| میوه کال۔ میوه نارس۔ میوه خام                 |                               | از بر کردن۔ حفظ کردن                    |
| خام۔ نارس (ہی) کچا میوه                       |                               | مالائیخ۔ صعب۔ دُقیق۔ مشکل               |
| کنچ غیر ثابت (ہا کا نس)                       |                               | کنچ کرنا (ہا کا نس)                     |
| بادہ نارس (ن: ایلی)                           |                               | دقت۔ دشواری                             |

|                                      |               |  |                |
|--------------------------------------|---------------|--|----------------|
| کلنائی (ن: ایلیں)                    | عسر           | کٹلنا (آمیڈ کی)                              | رشن            |
| کنپٹلی (ن: ایلیں)                    | قراقور        | کترن (ن: ایلیں)                              | ڑاشہ           |
| کنٹھمالا (ن: ایلیں)                  | چنبر گردن     | کٹل کرنا (آمیڈ کی)                           | کٹل کرنا       |
| کنٹھی اکھر (ن: پ: بھ) کھور           | حروف الحلن    | گردن زدن۔ سُن                                | گردن زدن       |
| کھور چت (ہاکاں)                      | کرخت          | کٹلام کرنا (آمیڈ کی)                         |                |
| بد خصلت۔ بد مزاج۔ سُنگ دل۔ قاسی      |               | خاک باخون سر شتن۔ کشت و کشدار کردن۔ قال کردن |                |
| کٹھوڑتا (ن: ایلیں)                   |               | کڈار بندھنی (آمیڈ کی)                        | ردہ کشیدن      |
| خشونت۔ قسادت۔ درشتی۔ سخت دل۔ کر خنگی |               | کڈار ہیص بھذنا (آمیڈ کی)                     | کڈار ہیص بھذنا |
| کٹھوڑتا کرنی (آمیڈ کی)               |               | ریسہ کردن                                    |                |
| شلائق کردن۔ جبر کردن                 |               | کڈار ہیص چلننا (آمیڈ کی)                     |                |
| خار (ن: پ)                           |               | ریسہ رفت                                     |                |
| خار گل (ہاکاں)                       |               | سگ چوت۔ سگوچ                                 |                |
| کرستون (پ: ن) کنڈا توں وala          |               | کٹورا (ن: پ)                                 |                |
| کینڈیا لارکھ                         |               | کشن (ن: پ)                                   |                |
| جولق۔ درخت خاردار                    |               | کلام۔ سخن۔ گفتگو۔ قول۔ مقولہ                 |                |
| کینڈیا لی داڑ (ن: ایلیں)             |               | کشن اتے کرم اچار دی پیکانیاں دے دھرمی        |                |
| خار بست۔ خار بند                     |               | سدار (ہاکاں)                                 |                |
| اشوک۔ خارہا (ن: پ: بھ)               |               | کتھن اتے کرم اچار دی پیکانیاں تے درستی       |                |
| خار چیدن (آمیڈ کی)                   |               | کشن اتے کریما (ہاکاں)                        |                |
| کینڈے دار جھاڑی (ن: ایلیں)           |               | کشن اتے کریما دے دھرمی                       |                |
| خار بن                               |               | قول و فعل۔ گفتار و کردار                     |                |
| کینڈرنا (ن: پ)                       | اسفر۔ خار پشت | کشن شروع کرنا (آمیڈ کی)                      |                |
| کینڈکٹ (ہیں)                         | طرار          | بہ حرفاً مدن                                 |                |
| کینڈھا (ن: پ)                        | جب            | راستاں گو                                    |                |
| کلنک                                 | حط۔ گندم      | کھا۔ ہا۔ چک                                  |                |
| کلندا دا دلیਆ (ہاکاں)                | سمو           | کنک بروکھ                                    |                |
| کلنک بھن۔ گندمی (ہیں)                |               | کنک بھن                                      |                |
|                                      |               | قامت۔ اندام۔ شکل۔ ہیئت                       |                |
|                                      |               | کدم  | گام            |
|                                      |               | کدم اੱگو دھاونا                              |                |
|                                      |               | (آمیڈ کی)                                    |                |
|                                      |               | کدم برداشنا (آمیڈ کی)                        |                |
|                                      |               | کدم روک لینا (آمیڈ کی)                       |                |



|                          |                                       |                        |  |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| تلبس                     | کپڑے پہننا (امیت کی)                  | عکرہ                   | کبوتری (نام، ایلکٹن)                       |
| کپڑے بدلنے               | کپڑے بدلنے (امیت کی)                  | مجاب شدن               | قبول ہونا (امیت کی)                        |
| لباس گرداند              |                                       | کسب ل کرنا (امیت کی)   | پذیر فتن۔ مجاب کردن۔ بحثہ شدن۔ گردن گرفتن۔ |
| کپاہ سے دھوئے اٹلگا کرنے |                                       | تن دردارن              |  |
| تمیدن                    | کپاہ چوں وڑیوں الگ کرنے (امیت کی)     | عمل۔ فعل۔ کار۔ شغل     |  |
| کافور                    | کپور (نام، پا)                        | کم                     | کم آؤنا (امیت کی)                          |
| ڈواز                     | کپوڑر (نام، پا)                       | کم آٹیا (امیت کی)      | بکار خوردن۔ بکار آمدن                      |
| دھلیاں                   | دھلیاں (نام، پا)                      | کم آرہن کرنا (امیت کی) |  |
| کبسہ کر لینا             | کبسہ کر لینا (امیت کی)                | فتح باب کردن           | آغاز درکار کردن                            |
| دست اندازی کردن          | دست اندازی کردن۔ بکف آوردن۔ تصرف کردن | کب کردن                | میکھلانا (کھسکھننا) (امیت کی)              |
| کبسہ جاتا                | کبسہ جاتا (امیت کی)                   | کم کرنا                | کم کرنا (امیت کی)                          |
| در آستین کردن            |                                       |                        | کاریدن۔ عمل کردن۔ کار کردن۔                |
| کبسہ جاتا لے لانا        | کبسہ جاتا لے لانا (امیت کی)           | کم کاچ ٹھوٹنا          | کار پیدا کردن                              |
| تصرف کردن                |                                       | کم چل پہنا             | کار بala گرفتن                             |
| کبھن                     | کبھن (نام، پا)                        | کم چھڑ دینا            | کم ڈھنڈ دینا (امیت کی)                     |
| ارتعاش۔ اختلاج           | کبھن کن بننا (امیت کی)                |                        | دست از کارداش                              |
| کبھن                     |                                       |                        | زیر چاق                                    |
| نویدن۔ لرزیدن            | نویدن۔ لرزیدن۔ تکان خوردن۔ چندس زدن   | کمزور رزم              | (نام، ایلکٹن)                              |
| چندش۔ لرزہ               | لرزش (نام، ایلکٹن)                    | کمزوری                 | (نام، ایلکٹن)                              |
| کبھر                     | کبھر (نام، ایلکٹن)                    |                        | نقاہت۔ ضعف۔ ناتوانی                        |
| تربت                     |                                       | کم تے لاؤٹا            | کم تے لاؤٹا (امیت کی)                      |
| اجداث                    | کبھر اس (نام، ایلکٹن)                 |                        | براءانداختن                                |
| گلیم                     | گلیم (نام، پا)                        | کم توں ہٹھ کھج لینا    |  |
| کبھا                     | کبھا تیار کرنا (امیت کی)              |                        | دست از کارکشیدن                            |
| کباب درسانیدن            |                                       |                        | کم توں رہ جانا (امیت کی)                   |
| کبھا بھانیا              | کبھا بھانیا (امیت کی)                 |                        | دست از کارماند                             |
| کباب درست کردن           |                                       |                        |  |
| کبھا بھانیا              | کبھا بھانیا (امیت کی)                 |                        |  |
| کباب درسانیدن            |                                       |                        |  |
| کبھا بھانیا              | کبھا بھانیا (امیت کی)                 |                        |  |

|   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ                     | ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ        | ਕਾਰਪੋਰਾਤਨ            |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   | ਕਾਰਕੰਡ ਬੁਦਨ               | ਕਸ਼ਓਂ ਵੱਖਣ ਪਾਉਣਾ     |
| ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਨਿਕਲਣਾ                         | ਕਾਰਕਾਰਾਵਹਾਨ ਨੁਕਨਾ         | ਗਰੇਵਾਕਾਰਗੜਾਈ         |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   | ਕਾਰਾਹ ਅਫਾਰਾਨ              | ਮਾਲ ਕਰਨ              |
| ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਨਾਂ ਇੰਡਿੰਗ)                  | ਦਬੇ                       | ਨਾਨ ਆਂਹ੍ਰ-ਕਾਬ        |
| ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ                | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ   | ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ (ਵਾਕਾਂ) |
| ਕਾਰਖਣੀ ਕਰਨ-ਮਾਨੁਖਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਫਤ ਕਾਰ         |                           | ਉਭਾਵ-ਮਾਲ ਕਾਰਹਾ       |
| ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ                     |                           | ਚੁਪਖ ਮਨ              |
| ਕਾਰਬਾਹਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਕੀਕ ਖਾਕ ਕਰਦੀਆਂ |                           | ਫੁੜ                  |
| ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ                          |                           | ਸ਼ਫਲੇ-ਹਿੱਤ-ਫਰਮਾਈ     |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   | ਕਾਰਬਾਹਮਦਨ                 | ਕਮੀਨਾਪਣ ਪ੍ਰਭੂ        |
| ਕਮਰ   | ਖਾਚਰੇ                     | ਸ਼ਫਲੀ-ਫਰਮਾਈ-ਖਾਸਤ     |
| ਕਮਰਾ  | ਗੁਬੰਧ-ਅਤਾਂ                | ਕਮੀਨੀ ਤੀਵੀ (ਵਾਕਾਂ)   |
| ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ                            | ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ          | ਜਨਕ                  |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   | ਕੰਮ ਮੁਣ                   | ਵੱਡਾ                 |
| ਕਮਲ ਰੋਗ                                     | ਪ੍ਰਤਾਪ                    | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ                             | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਤਾਦਾਨ                                       |                           | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ                               | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕੰਮ ਗੁਝ ਜਾਣਾ    | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਦਿਲੋਚਾਹ ਅਫਾਰਾਨ                              |                           | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਲੱਝਣ ਪੈਣੀ                          |                           | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   | ਕਾਰਦਰਗੇ ਅਫਾਰਾਨ            | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਜਾਨਕਾਰ ਹੋਣਾ              |                           | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਹਾਸਤ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕੰਵੋਂ ਹੋ ਥਿਾਰਟੇ ਜਾਨ ਕਾਰ ਹੋਣਾ |                           | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝਣਾ                              | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕੰਵੋਂ ਰੁੱਝਣਾ    | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਬਕਾਰੀ ਦਰਖਣ                                  |                           | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |
| ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ                            | ਕੰਵੋਂ ਲੀਨ ਹੋਣਾ            | ਅਗਲਾ-ਵੱਡਾ            |

|   |   |
|---|---|
| کرمچاری ہرگ (ہاکاں) کرمچاری ورگ عملہ                              | از بک شدن۔ چر کین شدن                                 |
| کرم دمڈ پ (ن: پ) کرم دمڈ کرم دمڈ                                  | کرور (پ) کرور   |
| کیف کردار۔ مكافات عمل   | شقی۔ سخت دل۔ فقیر دست۔ خوار و ذیل۔                    |
| کرم-پٹر (ن: پ) کرم پٹر کرم نامہ                                   | بد بخت و بد کردار                                     |
| سلسلہ بندی (ن: ایل) کرم بدھتا کرم بندی                            | کرورتا (ایل) کرورتا                                   |
| غلت (ایل) کروٹ کرمٹ   | شقافت۔ بکب خواری۔ بد بختی و سخت دلی۔ بی ادبی و گستاخی |
| کرمٹاں بدل نمیاں (امیت کی) کرمٹاں بدل نمیاں                       | کروشیے و کرم کرنا                                     |
| غلت زدن   | بامیل چیدن  |
| کرم-بڑی (ہ) کرم بڑی جو گندم                                       | خشم۔ خفگی۔ غصہ۔ طیش (پ) کروہ کروہ                     |
| کرم-بڑی داڑھی (ہاکاں) کرم بڑی داڑھی ریش جو گندی                   | کروہ کرنا (امیت کی)                                   |
| کرمٹا کھور کٹھور (م) کرمٹا کھور کٹھور سخت۔ علگین                  | جزیہ کردن۔ خشم کردن                                   |
| کرمٹا کرٹا (ن: ایل) کرمٹا کرٹا عاہت                               | کروہ ٹھنڈا کرنا                                       |
| کرمٹا/بھیانکا (ن: ایل) کرمٹا/بھیانکا علگین                        | آب بر آتش ز تھن                                       |
| کرمٹا کسیاں (ن: ایل) کرمٹا کسیاں عابات                            | کروہ وان (ہ) کروہ وان                                 |
| کرمٹا کرنی (امیت کی) کرمٹا کرنی سخت شدن۔ سخت گرفتن۔ شدد کردن      | غصہ در۔ خشمگین۔ غصب ناک۔ ناراض۔ خفا                   |
| کرمٹا جھلنی (امیت کی) کرمٹا جھلنی در تاب رفت                      | کروہ و بچ آذنا  |
| مرارت کشیدن   | کل (کیا) کل   |
| کرمٹی کےڑی گاں نے سہی لے لئا (امیت کی) کرمٹی کوڑی گل نوں سہہ لینا | فردا۔ روزی کہ پس از امر و ز خواہد آمد                 |
| بن اندا چن۔ بن بر گرفتن   | کلکنکی (ہ) کلکنکی                                     |
| کرمٹی ٹھنڈ کرٹی ٹھنڈ (ن: ایل) کرمٹی ٹھنڈ قارس                     | عیب دار۔ عیب ناک۔ دارای عیب                           |
| کرمٹی پڑی درھتی (ن: ایل) کرمٹی پڑی درھتی جلس                      | داغی شدن (امیت کی) کلکنکی ہونا                        |
| کرمٹی کرانٹی (ن: ایل) کرمٹی کرانٹی انقلاب                         | کلکنکی ہونا (ن: ایل) کلکنکی                           |
| کرمٹ (ہ) کرمٹ افروختہ   | جیخہ  |
| کرمٹ ہوئا (امیت کی)   | کل جھوپیت چکا ہے (ہ)                                  |
|   | دی۔ دیر دیز   |
|   | سال نامہ  |
|   | کلپنا (ن: ایل) کلپنا                                  |
|   | تصور  |

|                               |                     |                            |  |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| کلپنا-آڈیٹ                    | فوق تصور            | (نہ) کلپنا اتیت (ہی)       | غل خلی کردن                                  |
| کلپنا-سکتی                    | قوت مخلیہ           | (نہ) کلپنا سکتی (نہ) ایلیں | شاعری۔ سخن دری                               |
| کلپ                           | آہار                | (نہ) کلف                   | کہیں تا کوئی کوئی                            |
| کلپ دادن                      | نشاستہ دادن         | (آمیڈ کی) کلف دینی دہنی    | شاعر۔ سخن در۔ سخن سرا۔ سخن گو۔               |
| کلپ لاؤنا                     | آہار زدن            | (آمیڈ کی) کلف لاؤنا        | غرض  |
| کلم                           | خامہ                | (نہ) ایلیں                 | کوش کردن                                     |
| کلم-کلام                      | باخوش۔ سر تھا۔ مجرد | (ہی) کلم کلام              | کوش اسی                                      |
| کلم زدن                       | خامہ زدن            | (آمیڈ کی) قلم کھڑنی        | قزغان۔ طاحن۔ ماہی تا بہ                      |
| کلم چلاؤنا                    | خامہ چلاؤنا         | (آمیڈ کی) قلم چلاؤنا       | تلہ موش                                      |
| کلم راندہ                     | نوشن                | (آمیڈ کی)                  | دانہ زنجیر                                   |
| کل رات                        | (کیا ہی)            |                            | دو غبا                                       |
| دی شب۔ دوشین۔ دیشینہ          |                     |                            | بیونہ دادن                                   |
| کلہوں گا                      | سیاہ رو۔ رسولی عزت  | (ہی) کلہوں گا              | کرم  |
| کلاک                          | ساعت دیواری         | (نہ) کلاک                  | قرینة۔ مناسبت ظاہری میان دوچیز۔ مناسبت معنوی |
| کلاکار                        |                     | (نہ) کلاکار                | میان دوامر                                   |
| ہنر مبد۔ ہنر در۔ ہنری۔ فن کار |                     |                            | زاغ۔ غراب                                    |
| صاحب ہنر                      |                     | (نہ) کارا دھاری            | زاغ وزغن                                     |
| صاحب ذوق                      |                     | (ہی) کلار پر کی            | کالبد۔ جسم                                   |
| کلابنی خانی                   | تورہ زدن            | (آمیڈ کی) قلابزی کھانی     | کامیابیت دادن                                |
| کلابنی مارنی                  | معلق زدن            | (آمیڈ کی) قلابزی مارنی     | کامیاب کرنا                                  |
| کلایاں                        | یکن                 | (نہ) کلایاں                | گاؤ آب                                       |
| کلی                           | شگوف۔ غنچہ          | (نہ) ایلیں                 | صفر۔ روی                                     |
| کلے س                         | کھیش                | (نہ) یو                    | ہندب۔ ہندبا                                  |
| کلفت۔ زحمت۔ رنج۔ تقدیم        |                     |                            | مبادرت                                       |
| کنول                          | لیلو پر             | (نہ) کنول                  | کاہل کرنی                                    |
| کنول کرنا                     |                     | (آمیڈ کی)                  | شتابی کردن۔ بزودی کاری کردن۔ تجیل کردن       |

|                      |                                  |   |
|----------------------|----------------------------------|---|
| کاہلی                | رواروی۔ چلبہ                     | آرزو۔ خواہش۔ میل۔ اشتیاق۔ شهوت۔ عشق شوانی             |
| کاہلی کرنی           | (امیٹ) کاہلی کرنی کرنی           | کوت باہ (امیٹ) کام بھکتی                              |
| سرعت کردن            | سرعت کردن۔ شتاب کردن۔ عجلت نمودن | فیردز (امیٹ) کامیاب                                   |
| کاہلی نال            | علی الجمل (کیہی) کاہلی نال       | کام جاہ (امیٹ) کامیاب ہونا                            |
| کاں-کاں              | قار قار                          | نائل شدن۔ نائل گھشن۔ کامیاب شدن۔ مستولی               |
| کاگذ                 | قرطاس                            | گردیدن  |
| کاگذی پہلوان         | (ہاکاٹا) کاگذی پہلوان پہلوان     | کام-ہماں (امیٹ) کام وہاں                              |
| پہلوان پنپہ          |                                  | شووت۔ خواہش و شوق نفس در حصول لذت و منفعت۔ آرزوی جماع |
| قطع۔ برندہ           | قطع کننہ (ہی) کاٹنے بار          | کامی (امیٹ) کامی                                      |
| موش دشی              | دار موش (امیٹ) کاٹو کاٹو         | کامیک (امیٹ) کامک                                     |
| کاٹی                 | زین                              | کامیک (امیٹ) کارخانہ                                  |
| کاٹ                  | فصل۔ باب                         | کارکن۔ کارپیرا (امیٹ) کارج کرتا                       |
| تویب                 | کاٹی کرنا (امیٹ) کاٹی کرنا       | کارت (امیٹ) کارڈ                                      |
| کاٹی چشم             | کاٹا العین۔ اعور (امیٹ) کاٹا     | کارٹوس (امیٹ) کارتوس                                  |
| کاٹی وند کرنی        | (امیٹ) کاٹی وند کرنی             | نیک (امیٹ) کارتوس دی پتی                              |
| خاصہ دخربی کردن      |                                  | سماں (امیٹ) کارتوس دی پتی                             |
| کاناہومی             | (امیٹ) کاناہومی                  | سماں دان  |
| نجوں۔ نجوی           | سر گوشی                          |   |
| کاناہومی کرنی        | (امیٹ) کاناہومی کرنی             |   |
| سر جفت کردن          | سر گوشی کردن                     | سبب۔ واسطہ۔ موجب۔ وجہ۔ باعث                           |
| کاپیا پنپل           | (امیٹ) کاپیا پنپل                | کارن (ہاکاٹا) کارن اتے پریام                          |
| مداد کی              |                                  | علت و معلول   |
| کاپی رائٹ            | حق الطبع                         | کارن ہونا (امیٹ) کارن ہونا                            |
| کاپی                 | چندش۔ لرزہ                       | سبب شدن۔ سبب بودن                                     |
| کاگذ                 | کاگذ لگانا (امیٹ) کاگذ لگانا     | تجیہ (امیٹ) کارن دئنا                                 |
| لرزہ بر انداز اقتدار |                                  | کارن پھٹانا (امیٹ) کارن پھٹانا                        |
| تب لرزہ              | تب لرزہ (امیٹ) کا بنے داتا پ     | تعلل (امیٹ) کارن منڈل                                 |
| کام                  | ڈاپ (امیٹ) کام                   | عالی اسباب (امیٹ) کارن منڈل                           |
|                      |                                  | کارن اس (امیٹ) کارن اس                                |
|                      |                                  | علل۔ اسباب۔ وجہات۔ باعث                               |

|                                       |                       |               |               |                               |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| کارپوئیشن                             | شرداری                | کالپنک        | (ہ)           | فرضی                          |
| کاربائن کا گند                        | کاربن کا گند          | کال پین       | (ہ) (امیڈ کی) | اقاط                          |
| کاروائی                               | کاروائی               | کالم          | (ہ)           | عامود                         |
| کاروبار۔ مشغولیت                      | کاروبار۔ مشغولیت      | کالر          | (ہ)           | قفل۔ سو                       |
| کاروبار۔ اشغال                        | کاروبار۔ اشغال        | کالر لائیٹ    | (ہ) (امیڈ کی) | کلکل زدن                      |
| کاروبار۔ ٹپ رہے جاننا                 | کاروبار۔ ٹپ رہے جاننا | کالا          | (ہ)           | سیاہ۔ رنگ سیاہ                |
| (امیڈ کی)                             | فج شدن کار            | کالا ایڈے     | (ہ) (ہ) (ہ)   | سیاہ و سفید (ہاکاں)           |
| کاروبار۔ ٹپ کر دینا                   | کاروبار۔ ٹپ کر دینا   | کالا ہے جاننا | (ہ) (امیڈ کی) | کالا ہے جاننا                 |
| (امیڈ کی)                             | فج کر دن کار          | کالا۔ کالکوتا | (ہ)           | کبودی گرفتن                   |
| کاریںدا                               | کارنڈہ                | کالا دانہ     | (ہ)           | سیاہ فام                      |
| کاریں دے                              | کارنڈے                | کالا بدل      | (ہ)           | حمل                           |
| کاریگاری                              | کاریگاری              | کالاپن        | (ہ)           | چڑ کھلی                       |
| صنعت گری۔ صناعت                       |                       | کالانیں       | (ہ) (امیڈ کی) | سیاہی                         |
| کارے لائیں                            | کارے لائے             | کالنڈ         | (ہ) (ہ)       | کلنڈن                         |
| بکار انداختن                          |                       | کالی          | (ہاکاں)       | کالی بولی رات                 |
| کارے باز بند کرنا                     |                       | کالی میرچ     | (ہاکاں)       | لیل دیجور۔ شب دیجور           |
|                                       | برچیدن بساط           | کالی لکھنیر   | (ہاکاں)       | فلفل۔ پلمل                    |
| کال                                   | خیک سائی۔ قط          | کالی روندی    | (ہ)           | خط ازرق                       |
| کال                                   |                       | کالا          | (ہ)           | قطا و قوط                     |
| دہر۔ وقت۔ زمان۔ زمانہ۔ مرگ۔ موت۔ ممات |                       | کالا۔ عین     | (ہ)           | تخلص                          |
| کال اتنے واتاون                       |                       | کالا          | (ہ)           | جو شاندہ                      |
| زمان و محیط                           |                       | کیوں          | (ہاکاں)       | چرا۔ برائی چ۔ از چ رو         |
| سیاہی۔ تاریکی۔ ظلمت                   | کالکھ                 | کیوں کس واسطے | (ہاکاں)       | کیوں کس واسطے                 |
| دور زمان                              | کال گتی               |               |               | چون و چا                      |
| کال۔ چکر                              |                       | کیوڑا         | (ہ)           | کذر                           |
| چرخ زمان۔ آشوب زمان                   |                       | کیوڑا کیوڑا   | (ہ)           | لنگر انداختن                  |
| کالس                                  | درسرے عالی            | کیا میڈیا     | (ہ) (امیڈ کی) | کیا میڈیا دا دین              |
| کالسما                                | جنگ                   | کیا میڈیا دار | (ہ)           | روز جزا۔ روز حساب۔ روز مکافات |

|                      |                           |               |            |                                   |  |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|--|
| کیسہ ترگ             | کس طرح                    | (بیہی)        | چطور       | کیسے کہم نہیں ڈھن دے لیا          | کے کہنوس پھٹو دینا                           |
| گیسم                 | تھرم                      | (نہیں، ایسیں) | صنف        | (امیت کی)                         | کہ کشادن۔ ترک کردن۔ توقف کردن۔ استغفار       |
| گیسم بٹ              | قست                       | (نہیں، ایسیں) | دادہ       |                                   | کردن   |
| گیس لڑی              | کس لئی                    | (بیہی)        | چراک       |                                   |  |
| ویسما ملنا           | متلک شیدن                 | (امیت کی)     | قصہ سننا   | کیسے کہم نہیں ڈھن دے لیا          | کے کہنوس پھٹو دینا                           |
| ویسما ملنا           | متلک گھن                  | (امیت کی)     | قصہ سننا   | (ہاوا جانہ)                       | در صدد بودن۔ ارادہ و قصد داشتن بے اجرائی کار |
| ویسما بیان کرنا      | کہ کہنوس پھٹو دینا        | (امیت کی)     | ماجرا کردن | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         | بادر   |
| ویسے تھے             | (نہیں پہ بھو)             |               | قصص        | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| ویسے اونکھ دا        | دُر رہے جاننا             |               |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| مرتفع شدن            | کے اوکڑا اور ہو جانا      | (امیت کی)     |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| کے شرط نوں ہٹا دینا  | کے سلاط                   | نہیں          |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| قدیمی راز دن         | کے کہنوس فارغ ہونا        | (امیت کی)     |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| کیسے کہم توں         | ہارنا                     | (امیت کی)     |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| راز چیزی بیرون آوردن |                           |               |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| کیسے کہم دا          | ایڑا دا کرنا              |               |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| قرار دا دن           | کے کہنوس دارا دہ کرنا     | (امیت کی)     |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| کیسے کہم دا          | سنبھال پ کرنا             |               |            | کیسے کہم دھیوں پھیل کر نی         |  |
| تمد                  | کے کہنوس انسلکپ کرنا      | (امیت کی)     |            | کیسے گول ہونے                     |  |
| کیسے کہم دا          | بیٹھا چکنے                |               |            | کے گل نوں روک دینا                |  |
| زیر بار رفتہ         | کے کہنوس رابڑا اچکنا      | (امیت کی)     |            | کیسے چیڑ توں ہجھ دھولینا          |  |
| کیسے کہم نہیں        | اندازی پلانے              |               |            | کے چیڑ توں ہجھ دھولینا            |  |
| سر ہم بندی کردن      | کے کہنوس اہڑی پے ہال کرنا | (امیت کی)     |            | فاتح خواندن از چیزی               |  |
| کیسے کہم نہیں        | سیرے چڑھنا                |               |            | کیسے چیڑ دا ہنخے-ہنخ لے لیا       |  |
| بجا آوردن            | کے کہنوس سرے چڑھنا        | (امیت کی)     |            | کے چیڑ راتھو۔ ہجھ لیتا            |  |
| کیسے کہم نہیں        | ہنخ پاٹھنا                |               |            | کیسے چیڑ دی ہدسم کرنی             |  |
| دست بے کاری زدن      | کے کہنوس مچھ پاؤ          | (امیت کی)     |            | غذ زدن دل                         |  |
| کیسے کہم نہیں        |                           |               |            | کے چیڑ دی ہوس کرنی                |  |
|                      |                           |               |            | کیسے چیڑ دی ہیم دا انہماں لٹاٹھنا |  |

|  |   |
|--|---|
| دید زدن (امیت کی) کے چیز دی قیمت والا نومان لاؤنا    | کے تے شک کرنا                               |
| کیسے چੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਸਥਾਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ                | (امیت کی)                                   |
| تعدید (امیت کی) کے چੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਮਾਲ ਅਸਾਬ ਬਾਲਿਆ          | برفلانੀ ਜਗ੍ਹਦਾਨ                             |
| کیسے ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ                              | فرمان دادਨ ਬਰਕੀ (امیت کی) کے تੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ |
| کیسے چੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ (امیت کی) کے چੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ | ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ                           |
| ਖੁੱਗ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ੀ                                       | ਦੁਰਕੀ ਗਰਦਿਨ                                 |
| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇਣਾ                                | ਕੇ ਬੇਤ ਘੱਟੇ ਹੋਣਾ                            |
| (امیت کی)  | (امیت کی)                                   |
| دست از چੀਜ਼ੀ ਬਰਕਨਦਾਨ - دست از چੀਜ਼ੀ ਬਰਾਤਨ            | ਜ਼ਹਰ ਖੋਲਿਸ਼ ਬਰਕੇ ਰਾਖਨ                       |
| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ                 | ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਾਵ ਹੋਣਾ                            |
| (امیت کی) ਕੇ چੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸੂਨੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾਂ ਬਾਣੀਆ       | (امیت کی)                                   |
| ਕਾਲ ਬੜਨ - ਕਾਲ ਕਰਨਾ                                   | ਸ਼ਵਾਰ ਕੀ ਸ਼ਦਨ                                |
| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਆਈ ਕਰਨਾ                           | ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ           |
| ਕੇ چੀਜ਼ਾਂ ਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨਾ (امیت کی)                    | ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਾਵ ਹੋਣਾ                            |
| ਜ਼ਹਰ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ੀ                                       | ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਤਰਨਾ (امਿਤ ਕਿ)                   |
| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣਾ                         | ਫਰਾਕ ਕੁਝ ਦਨ                                 |
| ਗੀਰ ਆਰਦਾ (امਿਤ ਕਿ) ਕੇ چੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਕਰਿਆ                 | ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ (ਮਿਤ ਕਿ)                    |
| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਖ ਲਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ                      | ਰਖਤ ਅਖੀਬਨ                                   |
| (ਮਿਤ ਕਿ) ਕੇ چੀਜ਼ਾਂ ਲਾਕਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ                 | ਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ                            |
| ਲਾਕ ਰੜਨ - ਲਾਕ ਕਰਨਾ                                   | ਜ਼ਬਾਨ ਬੱਕੀ ਯਕੀ ਕਰਨ                          |
| ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ                            | ਕੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ                             |
| (ਮਿਤ ਕਿ) ਕੇ چੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ                   | (ਮਿਤ ਕਿ)                                    |
| ਦੰਦਾਨ ਤੀਜਕਰਨ   | ਗੁਢੀ  |
| ਕਿਸੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ                                 | ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਭਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ                   |
| (ਮਿਤ ਕਿ) ਕੇ ਢੁਕਾਨੇ ਨੇ ਲੱਗਨਾ                          | ਨਾਂ ਖਰੀਦਨ (ਮਿਤ ਕਿ) ਕੇ ਵਾਖੀ ਬਰਵਾਸ਼ਟ ਕਰਨਾ     |
| ਬਾਹੀ ਨੇਂਦਰ   | ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ (ਮਿਤ ਕਿ) ਕੇ ਵਾਕੀ ਲਿਆ       |
| ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਪਰਮੰਨ ਹੋਣਾ                                  | ਤੱਤ ਗੁਪਤ                                    |
| (ਮਿਤ ਕਿ)   | ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ (ਮਿਤ ਕਿ) ਕੇ ਵਾਸਰ ਜਾਣਾ       |
| ਅ  | ਕਾਰਕੀ ਸ਼ਦਨ                                   |
| ک  | ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ                       |

|                                   |  |                                       |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| کیسے دی شرمن وچ آؤنا              | آتنا ف (امیڈ کی)                           | تغلب                                  |
| کیسے دی ہٹیا کرنا                 | کے دی ہٹیا کرنی (امیڈ کی)                  | کیسے دے پاس آماڈ رੱ�لنی               |
| کار کی ساضن۔ ٹھن کی               | کے دی ساضن کرنی (امیڈ کی)                  | کے دے پاس لامنٹ رکھنی                 |
| کیسے دی نکال کرنا                 | کے دی نکل کرنی (امیڈ کی)                   | و دیخت گزاردن                         |
| ادای کی رندر آوردن                | ادای کی رندر آوردن (امیڈ کی)               | کیسے دے ڈرےسہ ویس آٹیلان              |
| کیسے دی بے پنڈی کرنا              | کے دی بے پنڈی کرنی (امیڈ کی)               | فن خوردن (امیڈ کی)                    |
| بجن مالیدن                        | بجن مالیدن (امیڈ کی)                       | کیسے دے بے میڈیاں تے چڑن              |
| کیسے دے ٹیپکار اپینہ رہنا         | کے دے ٹیپکار اپینہ رہنا (امیڈ کی)          | کے دے موڈھیاں تے چڑھنا                |
| زیربار کی بودن                    | کے دے اور میں جونا بودن (امیڈ کی)          | کولی دارن                             |
| کیسے دے اپینہ رہنا                | کے دے اور میں جونا بودن (امیڈ کی)          | کیسے دے ویروپ ساٹھیاں کرنا            |
| درخط کی بودن                      | درخط کی بودن (امیڈ کی)                     | کے دے وردھ سازش کرنی (امیڈ کی)        |
| کیسے دے هک وچ جونا                | کے دے هک وچ جونا (امیڈ کی)                 | ریشہ دواندن                           |
| لہ کی بودن                        | لہ کی بودن (امیڈ کی)                       | کیسے پنڈن دی میہا ویس پھر چلانا       |
| کیسے دے بے ل اسٹس نال بیٹھنا      | کیسے دے بے ل اسٹس نال بیٹھنا (امیڈ کی)     | کے دھنوان دی سیوا وچ پنچنا            |
| زانوڈ کردن۔ زانوڈن                | زانوڈ کردن۔ زانوڈن (امیڈ کی)               | بڑا غریدن                             |
| کیسے دے سڑا لے ایکنڈر رہنا        | کیسے دے سڑا لے ایکنڈر رہنا (امیڈ کی)       | کیسے نال واه پیٹا پہننا (امیڈ کی)     |
| دور کی گرفت                       | کے دے دوالے اکتر جونا (امیڈ کی)            | کار افاذن بکسی                        |
| کیسے دے دے سڑ نہ ٹھنڈن کرنا       | کیسے دے دے سڑ نہ ٹھنڈن کرنا (امیڈ کی)      | کیسے نہ ٹھنڈیکرنا (امیڈ کی)           |
| چشم پوشی                          |  | کے نوں سکھ دینا                       |
| کیسے دے دے سڑ نہ چرگاٹ کرنا       | کے دے دے سڑ نہ چرگاٹ کرنا (امیڈ کی)        | آرامیدن                               |
| عیب بردن۔ آشکارا کردن بدی کسی را  | کے دے دوش نوں پر گٹ کرنا (امیڈ کی)         | کیسے نہ ہر آٹیلان (امیڈ کی)           |
| کیسے دے پن-مآل نہ پیگوئھی لے جانا | کے دے دوش نوں دھنکو زوری لے جانا (امیڈ کی) | کی راشکست دادن                        |
|                                   |  | کیسے نہ گالاں دینیاں                  |
|                                   |  | حر بابا کی کردن (امیڈ کی)             |
|                                   |  | کیسے نہ چپ کر آٹا کر آٹیلان (امیڈ کی) |
|                                   |  | دہان گرفتن کسی                        |
|                                   |  | کیسے نہ ٹھاٹ کر دینا                  |

## قال چری کندن

|                                  |                                  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| (امیڈ کی)                        | دماغ از روز گار کی برا آوردن     | کیمے دھنے ملے ڈنڈا/ہین سماں                |
| کیمے نہ ڈنڈا/ہین سماں            | کے نوں تھہ رہا کجھنا             | کے نوں تھہ رہا کجھنا                       |
| (امیڈ کی)                        | خاک در ترازو الحمدن              | (امیڈ کی) کے وشیش گن دار صاری ہونا         |
| کیمے نہ ڈنڈا کرنا                | کے نوں نامر اد کرنا              | خاصیت داشن                                 |
| (امیڈ کی)                        | حروم کردن                        | مغیل۔ مغیلان                               |
| کیمے نہ ڈنڈا کرنا                | کے نوں بے عزت کرنا               | کینکار                                     |
| (امیڈ کی)                        | ناموس کی بردان                   | ناموس کی بردان                             |
| کیمے نہ ڈنڈا کرنا                | کے نوں یاد کرنا                  | کینٹنی ماتورا                              |
| (امیڈ کی)                        | یاد کی افتادن                    | کینٹا                                      |
| کیمے نہ ڈنڈا کرنا                | کے نوں لائی نال مارنا            | کینٹا                                      |
| عسو                              | (امیڈ کی) کے نوں لاٹھی نال مارنا | کتاب دی جلد سخنی                           |
| کیمے نہ ڈنڈی دئی                 | کے نوں وڈھی دینی                 | تجلید                                      |
| (امیڈ کی)                        | سیل کی راچب کردن                 | کجا۔ بجا۔ در کجا۔ چہ جا                    |
| کے پچھی نوں اڑا کوئا             | کے پچھی نوں اڑا کوئا             | از کجا۔ از چہ رو                           |
| (امیڈ کی)                        | اطارعت۔ پراندنا۔ پراندنا         | تاجا                                       |
| کیمے ڈھڑل کہم دیچ جان مارنی      | کے فضول کم درج جان مارنی         | بکجا۔ کجا                                  |
| آہن افسر دہ کو فتن               |                                  | تقدر                                       |
| کیمے بارے افسوگ گؤلے کرنا        |                                  | حاشیہ۔ ناجیت                               |
| (امیڈ کی) کے بارے اجوگ گلاں کرنا |                                  | اجتناب                                     |
| در زبان داشن                     |                                  | کنارے رنو کرچا کر                          |
| کیمے بارے بُرگا دیسا ر گھلن      |                                  | (نہ۔ پر۔ بہ) حواشی                         |
| گمان بد داشن                     | (امیڈ کی) کے بارے بر اوچار کھنا  | (نہ۔ پر۔ بہ) کرسان                         |
| کیمے وسٹ دی اینڈا کرنا           | (امیڈ کی) کے وستو دی اچھا کرنی   | حارت۔ زارع۔ کشاورز۔ بر زگ۔ کاشت کار۔ زراعت |
| فرود آمدن حیزی                   |                                  | پیشہ۔ دھقان۔ زمین دار                      |
| کیمے وسٹ نہ سپورن کرنا           |                                  | شعاع                                       |
|                                  |                                  | کیرپا                                      |
|                                  |                                  | مر بانی۔ لف۔ عنایت۔ شفقت۔ نوازش۔ مر بانی۔  |
|                                  |                                  | کرم  |
|                                  |                                  | کیرپا کرنی (امیڈ کی)                       |

|   |  |
|---|--|
| لطف کردن۔ دل نوازی د مر بانی کردن             | کیوں ہے (کیہی)                                   |
| کیرپا گرائی نامہ (پ) کرپاٹر پੱਤر              | چ گونہ۔ چ طور۔ چ نوع۔ چوں۔ چسال۔ چقدار۔ چ اندازہ |
| کیرپا لٹا کرنا (آمیڈ) کرپاٹا کرنی کرنی        | چکار   |
| دل نوازی کردن۔ شفقت د مر بانی کردن۔ ناز کشیدن | کرم کش   |
| کیرپا لٹا (ہی) کرپاٹو                         | بغض  |
| کریم۔ سخن۔ بلند بہت۔ مر بان۔ بخشانیدہ         | حاقد   |
| مال اجارہ (پ) کرایہ                           | حقدور  |
| کیراٹیا نشین (پ) کرایہ دار                    | چ محن  |
| کیراٹے تو دے لئا (آمیڈ) کرائے تے دینا         | شم   |
| کرایہ دادن                                    | امہمان   |
| کرائے تے رہن والا                             | قیمتاں نوں ذرخاہتاں                              |
| (ن، پ) اجارہ نشین                             | زرخ پالا بردن۔ زرخ بالا کردن                     |
| کیراٹے تو لے لئا (آمیڈ) کرائے تے لینا         | شین  |
| کرایہ ستاندن۔ اجارہ کردن                      | نکوناں۔ نام آور                                  |
| کیریا (پ) کریا (ن)                            | چ فایدہ  |
| فعل۔ کار۔ عمل۔ سعی و کوشش                     | کرم۔ عرف   |
| کیریا کارکنندہ (ہی) کریشیل                    | زمول۔ مور۔ نسل                                   |
| کیریا اسٹیل کریشیل ہوئا (آمیڈ) کریشیل         | دبدب   |
| فعال بودن                                     | کرمان  |
| کیریا اسٹیل تا (ن، ہی) کریشیل                 | کیڑے   |
| فعالیت  | کیڑے مکوڑے                                       |
| کیریا کرنا (آمیڈ) کریکرنی                     | حشرات  |
| فعل کردن۔ کار کردن۔ عمل کردن۔ سعی کردن        | دو شیرگی۔ بکارت                                  |
| کیریا تمک (ہی) کریتمک                         | کوہاڑا۔ ناکد خدا                                 |
| افعال   | ابکار  |
| کیلک  | وقت بد   |
| غزو   | جلبز۔ بد شکل۔ بد صورت                            |
| لخت در  | صافور۔ تبر                                       |
| کیوں ہے (کیہی) کو اڑ بند کرنا                 | کوہاڑا   |
| جستہ کردن۔ غلن                                |  |



|      |   |  |                                    |
|------|---|--|------------------------------------|
| بُنی | خچک   | بُرپ                                       | (ہ)                                |
| بُنی | نافل  | بد شکل                                     | - زشت - بد ترکیب - بد صورت         |
| بُنی | حدب - کج  | بُرپا                                      | (ہ) کروپا (ن، ایسی)                |
| بُنی | چنگ پشت - کوز پشت                                 | بد شکلی                                    | - بد ترکیبی - بکھی - زشت روئی      |
| بُنی | تو زدر آوردن                                      | تخصص کردن                                  | (امیڈ وی) کریدنا (امیڈ وی)         |
| بُنی | کب اپن  | قاطبہ - ہمہ - تمام - جمع - جملہ - عموم (ہ) | کل                                 |
| بُنی | کبی - خیدگی - پیچیدگی - سیزیدگی                   | نگ خاندان                                  | (ہ) کل کلک                         |
| بُنی | دل  | عتال - بار بر - حمال                       | کلیں (ہ) قلی                       |
| بُنی | مساعدت کردن                                       | نجیب - شریف                                | کلینا (ہ) کلین                     |
| بُنی | کمارگی  | نجابت - شرافت                              | کلینٹا (ہ) کلینٹ                   |
| بُنی | ضال - گراہ - بدراہ - شوریدراہ - "مرد کچ رکہ برہا" | سوء استعمال                                | کور توں (ہ) کورٹوں                 |
| بُنی | ستقیم نیايد و ثبات نوازد"                         | تلہ موش                                    | کڑکی (ہ) کڑکی                      |
| بُنی | کو زہ گر  | تلخی - مرارة                               | کڑٹن (ہ) کڑٹن                      |
| بُنی | زیر گاہ - صندلی - کرسی                            | تمیض                                       | کڑتا (ہ) کڑتا                      |
| بُنی | مصادرات   | دل سوختن                                   | کڑٹا (ہ) کڑٹا                      |
| بُنی | کو رکی کرنی                                       | ہمسک                                       | کوہنی (ہ) کوہنی                    |
| بُنی | مصادروہ کردن                                      | آرخ  | کوہنی زدن (ہ) کوہنی مارنی          |
| بُنی | کو رکھاں ہے جا لانا                               | رہنگی - رحلت                               | کوچ (ہ) کوچ                        |
| بُنی | گردسر گردیدن                                      | رحل  | کوچ رہن (ہ) کوچ رہن                |
| بُنی | کرلی کرنی   | لبادہ برجاونہادن                           | کوچ کرنا (ہ) کوچ کرنا              |
| بُنی | غراہہ کردن - مز مزہ کردن                          | کوچن                                       | کوچیدن - برستن - رخت بستن - ارتحال |
| بُنی | کراہیا  | کوچن کرنا                                  | کوچنیدن (ہ) کوچ کردا               |
| بُنی | چاہ دچاوان - گراہ - منحرف                         | کوچن کرنا                                  | کوچنیدن (ہ) کوچ کردا               |
| بُنی | تعزف  | کوچن کرنا                                  | کوچنیدن (ہ) کوچ کردا               |
| بُنی | کراہے جا لانا                                     | کوچن کرنا                                  | کوچنیدن (ہ) کوچ کردا               |
| بُنی | کراہے ترنا  | کوچن کرنا                                  | کوچنیدن (ہ) کوچ کردا               |
| بُنی | دل راہ رفتہ                                       | تغار                                       | کوڈا میٹی دا (ہ) کوڈا میٹی دا      |
| بُنی | کراہے پلنا  | ساروخ                                      | کوڈی (ہ) کوڈی                      |

|                                |                |                         |  |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| کوڑ (نام، پر)                  | باظل           | کیپٹ (نام، ایلین)       | ہیئت دزرا  |
| کوڑ بولنا (امیت کی)            | دروغ گھن       | کیمرہ (نام، پر)         | شیشه عکاسی   |
| کوڑا-کرکٹ (نام، پر)            | کوڑا کرکٹ      | کوآ (نام، پر)           | موق  |
| خاشک-خاشک-خاش                  |                | کوئی چیز حاصل کرنی      |  |
| کیس (نام، پر)                  | مو             | (امیت کی)               | فتح کردن چیزی                                      |
| کیسر (نام، پر)                 | زعفران         | کوئی چیز مانگ دی لیتا   | کوئی چیز مانگ دی لیتا                              |
| کیک (نام، پر)                  | کاک            | (امیت کی)               | اعارت  |
| کیکڑا (نام، پر)                | خرچنگ          | کوئی نویں گل کڈھنی      | کوئی نویں گل کڈھنی                                 |
| کیندر (نام، پر)                | محاذ-مرکز      | (امیت کی)               | رنگ برآب رسم                                       |
| کیندر بن جانا (امیت کی)        | مر تکزشدن      | کوئی ویرتا رکھ کر رکھنا | کوئی ویرتا رکھ کر رکھنا                            |
| کیندر بندو (نام، پر)           | نقطہ مرکز      | (امیت کی)               | مغز شیر برآوردن                                    |
| کیندری (ہی)                    | مرکزی          | کوش (نام، ایلین)        | کنز-خزانہ-قاموس                                    |
| کیل کرنی (امیت کی)             | تلی            | کوشماں (نام، ایلین)     | مساعی  |
| کیل کریں (نام، ایلین)          | چمگردش-لوو لعب | کوہ (نام، ایلین)        | کرہ  |
| کیلار گھل (نام، پر)            | موز            | کوہنڈ (نام، ایلین)      | گاؤں عصاری (ہا کاں سلا)                            |
| کیلے دا بُٹا (نام، پر)         | خنگول-خنگول    | کوہر کری (نام، ایلین)   | مار موک  |
| کیلے دا بُٹا (نام، پر)         |                | کوکین (نام، ایلین)      | کوکائین  |
| کیلے دا بُٹا (نام، پر)         |                | کوچوان (نام، پر)        | در شکه پی  |
| کیلے دا بُٹا (نام، پر)         |                | کوچھ (نام، پر)          | کوچھ   |
| کی کرنی (امیت کی)              |                |                         | تج-زشی-بد شکلی- صندھن و خوبی                       |
| زمین دیدن-ہر اشیدن-استفراغ     |                |                         | تج-زشت-بد شکل-ناشایستہ (ہی) کو جھا کوشا            |
| جامہ بر-مقراض                  | تینچی          | کوٹ (نام، پر)           | کوٹ  |
| کیلے آں (نام، ایلین)           | مقاریض         |                         | بارہ- قلعہ- دڑ- دڑ- حصار                           |
| کیلے آں (نام، ایلین)           | کیشھا          | کوٹلہ (نام، پر)         | تازیانہ- سوط- چاک                                  |
| کیدھونا (امیت کی)              | جس شدن         | کوٹلہ (نام، پر)         | کوٹلہ ہپا کی                                       |
| کیدھونا (امیت کی)              | جس کردن        | کوٹلہ (نام، ایلین)      | طرہ بازی- ”قسمی ای بازی کہ کو دکان دست مال گرہ زدہ |
| جس کردن- مقید کردن- مقید ساقن  |                |                         | را برداشتہ از دنیا، ہم میدوند“                     |
| دستاق- محبوس- زندانی (نام، پر) | کیدی           | کوٹلہ مارنا (امیت کی)   |  |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ਚਾਬਕ ਜਦਨ - ਤਾਜਿਅਨ ਜਦਨ - ਦਰੇਕਾਰੀ ਕਰਦਨ | ਕੋੜੀ ਕਿਰਲੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)         |
| ਕੋਠੜੀ ਆਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਕੁਝਹੀ           | ਜਗਰ                            |
| ਕੋਠੜੀਆਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਬਵਾ              | ਜਗਰਤ                           |
| ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਉਚਿਅਤਾਉਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਕੁਝੇ ਨੂੰ ਉਚਿਅਤਾਉਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    |
| ਏਸਾਡਤ                                | ਏਸਾਡਤ                          |
| ਕੋਡਾ ਹੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਕੁਝਾ ਹੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             |
| ਚੰਗ ਸ਼ਦਨ - ਖੁਨੀ ਸ਼ਦਨ                   | ਕੁਝਾ ਹੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             |
| ਕੋਣ (ਨਾਂ ਪ੍ਰਾ)                       | ਕੁਣ                            |
| ਜਿਬਤ                                 | ਕੁਤਲ ਘੋੜਾ                      |
| ਕੋਤਲ ਘੋੜਾ                            | ਕੁਤਲ ਘੋੜਾ                      |
| ਕੁਤਲਾਲ                               | ਕੁਤਲਾਲ                         |
| ਕੁਤਲਾਲੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)                  | ਕੁਤਲਾਲੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)            |
| ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਚੂਹੂ ਕਰਦਨ - ਖੋਲਕਰਦਨ - ਸੁਕਰਦਨ         | ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਕੋਮਲ                                 | ਨਾਕ (ਵਿ)                       |
| ਕੋਮਲਤਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)                   | ਨਾਕਤ                           |
| ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ                            | ਜਵਾਬ ਖਾਲੀ                      |
| ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਜਵਾਬ ਦੇਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             |
| ਕੁਟੁੰਬ                               | ਜਵਾਬ ਦਾਰ                       |
| ਕੋਲਾ                                 | ਜਗਲ                            |
| ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੀਂਗ (ਵਾਕਾਂਸ਼)              | ਜਗਲ - ਜਗਲ                      |
| ਜਗਲ ਵਿਲਾਸ                            | ਜਗਲ - ਜਗਲ                      |
| ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੇਗੀ                         | ਜਗਲ                            |
| ਖਾਕੇ ਜਗਲ                             | ਜਗਲ                            |
| ਕੋਲ (ਕਿਵਿ)                           | ਲਦਨ                            |
| ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ                       | ਲਦਨ                            |
| ਖਾਨੇ ਸਾਲਾਰ                           | ਜਦਾਮ                           |
| ਕੋੜੁ                                 | ਜਦਾਮ                           |
|                                      | ਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ                   |
|                                      | ਮਜ਼ਦੂਮ                         |
|                                      | ਕੁਰਜ਼                          |
|                                      | ਅਬਰਸ - ਮਜ਼ਦੂਮ - ਜਦਾਮ           |
|                                      | ਮਜ਼ਦੂਮ ਬੁਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
|                                      | ਮਲਕ                            |
|                                      | ਡਕਲ                            |
|                                      | ਅਮਤ - ਮਲਟ                      |
|                                      | ਅਮਿਦ - ਸੁਦਾਰ ਤੌਰ (ਵਾਕਾਂਸ਼)     |
|                                      | ਅਮ                             |
|                                      | ਮਲੀ                            |
|                                      | ਕੌਮੀ ਸਵਾਰ ਤੁਹਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼)       |
|                                      | ਖੁਦਕਾਹੀ ਮੀ                     |
|                                      | ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੌਮ                    |
|                                      | ਥਾਵਰ ਮੀ                        |
|                                      | ਮੁਵੁਦਤ                         |
|                                      | ਮਰ - ਤੁਖ                       |
|                                      | ਤੁਖ ਦੀ ਸ਼ਿਰੀਨ                   |
|                                      | ਜਿਕਿਸ                          |
|                                      | ਤੁਖਾਬ                          |
|                                      | ਚੱਪ ਚੱਪ ਨਗਾਹ ਕਰਦਨ - ਚੱਪ ਅਨਿਧਿਨ |
|                                      | ਖੁਲ੍ਹੇ                         |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| بسم                                    | خشنگ                     | ترشی (نام: ایٹلین)                             |
| بسمی دا جی (واکاں) خنسی والہی          | ریش مورچہ پی             | بٹا-میٹا (ہمہ) کھانمہ                          |
| بسم را (نام: پی) خرہ                   | حماق۔ سرخچ               | بٹا-میٹا (نام: ایٹلین) کھنڈ                    |
| بسمارا (نام: پی) خمارہ                 | علل                      | بٹا-میٹا (نام: پی) کھنڈ                        |
| بسمی (ہمہ) خنسی                        | سادہ کردا                | ریزہ۔ خردہ کو چک ازہر چیزی۔ تراشه۔ پارہ۔ رقعہ۔ |
| بسمی ہوئے (نام: ایٹلین) خنسی ہوئے      | غرشدن                    | جزو  |
| بھیڑا / کسوارا (نام: پی) اصرار         | اصرار                    | کاسر   |
| بھول دیا (نام: ایٹلین) بھول دیا        | ہیات۔ علم الافلاک        | فاق خوردن                                      |
| بھولنا (نام: ایٹلین) سعال۔ سلف۔ سرف    | بھیڑا (نام: ایٹلین) کھجھ | تہافت  |
| بھوپل (نام: ایٹلین) سرف کردن           | سرف کردن                 | بھوپل۔ ترید                                    |
| بھوپل (نام: ایٹلین) سرف کردن           | سرف کردن                 | کند مند  |
| بھوپل (نام: ایٹلین) استر۔ قاطر         | استر۔ قاطر               | مغارات   |
| بھوپل ہوئے (نام: ایٹلین) چشم پیش گرفتن | بھوپل ہوئے               | پاچاہہ   |
| بھوپل دا درخت (واکاں) کھجور دا درخت    | خیل۔ خل                  | چال (نام: ایٹلین) کھنڈی جلا ہے وی              |
| بھوپل (نام: پی) خزانی                  | خازن۔ گنجان              | بھوپل کو چھپنا                                 |
| بھوپل (نام: پی) خزانے                  | خزانے                    | بھوپل کو دھاؤنا                                |
| بھوپل (نام: پی) خزانے                  | خزانے                    | بھوپل کو دھاؤنا                                |
| بھوپل (نام: ایٹلین) قرع کردن           | سار                      | بھوپل کو دھاؤنا                                |
| بھوپل (نام: ایٹلین) کھمل               | مس                       | بھوپل کو دھاؤنا                                |
| بٹا-میٹا (ہمہ) کھنڈ                    |                          | بھوپل کو دھاؤنا                                |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| کھٹک        | خراچ   | زاد راه   |
| بھڈن        | جامہ مردہ  | بھرچ/تمپا                                       |
| بھدا ہوئا   | (آمیڈ کی)  | خرچ سفر (ہاوا مسٹر)                             |
| سر گران شدن | خشمگش کرنے   | خرچ کرنا (آمیڈ کی)                              |
| بھر/مُصانہ  | خبر/سوچنا ہوئی   | صرف کردن۔ خرج کردن۔ داس انگھمن                  |
| (آمیڈ کی)   | خبر شدن۔ آگاہی یافت  | خر طبوور (ہاوا مسٹر)                            |
| بھر/مُصانہ  | خبر/سوچنا رینی   | بھر بھٹکیاں (ہاوا مسٹر) خربوزیاں را کھیت        |
| (آمیڈ کی)   | خبر دادن۔ آگاہی دادن   | فائلز۔ جالیز                                    |
| بھر پائی    | دار سیدن (آمیڈ کی)   | ہاؤن  |
| بھر لائی    | خبر گرفتن (آمیڈ کی)  | کھرھوی گل کرنی                                  |
| بھسا        | چپ (ہی)  | راہہ کشیدن۔ راہہ گھن                            |
| بھسا ہنس    | یار۔ دست چپ۔ سمت چپ<br>چپ رو۔ چپ گزین (ہی) کھباکھی<br>بھسا۔ پختی پارٹی پارٹی | زرخالص۔ زرخٹک۔ زابوم۔ زرسارا                    |
| بھسا پاسا   | حرب دست چپ<br>پسلوی چپ۔ سمت چپ   | گرگ کمن (ہی) خرانٹ                              |
| بھسٹ        | دست (ہی) کھبے  | بھرالٹ۔ اصالت                                   |
| بھسے        | چپ   | بھرپلن (ہی) کھراپن                              |
| بھسے سنجے   | عمادات   | خابت (ہی) خراب/کمینہ                            |
| بھتر        | چپ دراست (کیہی)  | بھر باش کر دئنا (آمیڈ کی)                       |
| بھیر نوں    | بال افساندن۔ بال زدن   | ناقص کردن                                       |
| بھیرنے      | خسیر نوں کھٹک دینی   | بھر باش کرنا (آمیڈ کی)                          |
| (آمیڈ کی)   | ترشانیدن   | ریگ زمحن۔ لک کردن۔ زیر دزبر کردن                |
| بھیرنے      | ما یہ زدن (آمیڈ کی)  | روبدل (ہاوا مسٹر) خراب گل بات                   |
| بھیما جزا   | خسیازہ بھگتا   | علف، هرزہ (ہاوا مسٹر) خراب گھاہ                 |
| (آمیڈ کی)   | فائز دین۔ خسیازہ کشیدن   | بھریاں گلؤں (ہاوا مسٹر) کھریاں گلؤں (ہاوا مسٹر) |
| بھرچ        | صرف  | صلاف و پوست کندہ                                |
| (ہاوا مسٹر) |  | پوست زخم  |
|             |  | خک ریش  |
|             |  | بھریڈ   |
|             |  | بھریڈا (آمیڈ کی)                                |
|             |  | ایتیاع کردن۔ خریدن                              |
|             |  | بھریڈا (آمیڈ کی) خرید و اکٹا                    |

|  |                       |                               |                                |                            |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| بھرے                                   | (ہ) بھرے              | جیار                          | بھائیاں (ن) کھائیں بھا         | خندوق                      |
| بھرگا                                  | (ن) بھرگا             | قشو۔ پشت خار                  | خاص سماں دینا (امیت کی)        |                            |
| بھرگداں                                | (ن) بھرگداں           | قشو کردن (امیت کی) کھریا کرنا | امیت کی                        | وقت دار                    |
| بھل بھلی                               | (ن) بھل بھلی          | شلووق۔ خان خانی               | کھان                           | معدن۔ کان                  |
| بھل لایا                               | (ن) بھل لایا          | پوست کشیدن۔ سلاخی کردن        | کھان جوگ                       | خوردنی                     |
| بھل                                    | (ن) بھل               | جو                            | بھان۔ بھان پین                 | خوردنے۔ اکل دشرب           |
| بھل                                    | (ن) بھل               | جلود                          | بھا وچ رل جانا                 | خاک وچ رل جانا             |
| بھلی                                   | (ن) بھلی              | سچالہ                         | امیت کی                        | بگدرفت                     |
| بھرگ                                   | (ن) بھرگ              | بھرگا                         | کھان پین                       | کھان پین                   |
| حام۔ شمشیر۔ سيف                        |                       |                               |                                | اکل دشرب۔ خوردنے۔ اکل دشرب |
| بھرگا سمنڈلی                           | (امیت کی) کھرگ سوتی   |                               |                                | اوقات                      |
| شمشیر کشیدن                            |                       |                               |                                | بھا۔ بھل لانہ (امیت کی)    |
| بھرگا جاں سڑی نہیں ساہ کرنا            |                       |                               |                                | حساب باز کردن              |
| بھرگا کھرگ جاں شیشے نوں صاف کرنا       | (امیت کی)             | صقات                          | بھاد                           | کود۔ زبل                   |
| بھرگا۔ پونچ                            | (ن) بھرگا             | چیقلش                         | خانہ بدوش قبیلے                |                            |
| بھرگا                                  | (ن) بھرگا             |                               | (ن) بھرگا                      | ایلات                      |
| اسیاف۔ سیوف۔ شمشیر                     | ہاں                   |                               | بھائی                          | نقض۔ عیب                   |
| بھڑا۔ علانا                            | (امیت کی) کھر جو کرنا |                               | کھار                           | رقابت                      |
| استانیدن۔ متوقف ساختن۔ بازداشت از حرکت |                       |                               | بھارا ہوئا                     | بھارا ہوئا (امیت کی)       |
| راکد                                   | (ہ) کھر اپنی پالنی    |                               |                                | لب شور بودن۔ لب شور شدن    |
| بھڑے                                   | (امیت کی) کھرے ہوئے   | قیام                          | بھارا پلن                      | لب شور                     |
| بھائیاں                                | (امیت کی) کھائیاں     |                               | بھارا۔ آب نمکین (ہ) کھارا پانی | بھورا۔ آب نمکین            |
| خوردن۔ تناول کردن۔ خواردن۔ اکل         |                       |                               | بھارا پانی (ہ) خاص             | صرافت                      |
| بھر۔ بسیار خورندہ۔ خورندہ۔ شکم بنندہ   | (ہ) کھار              |                               | بھالس                          | نقدہ خام                   |
| بھائی                                  | (ن) بھائی             |                               |                                | بھالی                      |
| بغ۔ جرف۔ جلباب۔ خندق                   |                       |                               |                                | بھالی ہنس۔ تھی دست         |

|   |        |
|---|--------|
| بھالی ہوئے (آمیڈ کی)                    |        |
| لئے ہوئے۔ لئے شدہ۔ تھی                  |        |
| بھالی کرنا (آمیڈ کی)                    |        |
| خالی کردن۔ تھی کردن۔ گذاشتن۔ خلوت کردن۔ |        |
| تھی کردن۔ صفت کردن                      |        |
| بھالی کرائیں (آمیڈ کی) خالی کرائیں      |        |
| خالی الو قاص (نہ، ایسی) خالی تھیں       |        |
| طا عم۔ خورندہ۔ آکل (پ) (نہ) کھاؤں ہار   |        |
| بھالی/بیالہ کرنا خیال رقیس کرنا         |        |
| (آمیڈ کی)                               | خمن    |
| بھالی کرنا خیال کرنا (آمیڈ کی)          |        |
| فرض کردن۔ پنداشتن۔ قیاس کردن            |        |
| بھالی وچ لیا ہوا                        |        |
| بھالی وچ لیا ہوا (آمیڈ کی)              |        |
| بھاطر آوردن                             |        |
| دک شدن (آمیڈ کی) کھک جانے               |        |
| بھیج (نہ، ایسی)                         | کشش    |
| بھیجنا (آمیڈ کی)                        |        |
| بھیج دھوپ (نہ، ایسی)                    | جر     |
| بھیجی کھڑی (نہ، ایسی)                   | جد بجٹ |
| بھیجے تاں (نہ، ایسی)                    | مجدرہ  |
| کش مکش۔ ترس۔ نیم۔ خوف                   |        |
| بھینڈ لانا (آمیڈ کی)                    |        |
| دانہ دانہ شدہ۔ پرائندہ شدہ              |        |
| درہمی۔ بی ترتیبی (پ) (نہ) کھٹرا         |        |
| بھینڈا ہوا (آمیڈ کی)                    |        |
| شیر ازہار ہم سختن۔ تو زیع کردن          |        |
| بچ گردن (نہ، ایسی)                      |        |
| لا عب۔ بازی کنندہ (پ) (نہ) کھڑاری       |        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| بھینڈا۔ پیٹھا (ہ)                         | کھنڈ بیٹھنے (ہ) |
| درہم برہم۔ پریشان۔ متفرق                  |                 |
| غفران۔ غفو                                |                 |
| غفو                                       |                 |
| بھماں لیں (ہ) کھماشیں                     |                 |
| بھماں کرنی (آمیڈ کی)                      |                 |
| غفو کردن۔ غفو نمودن۔ غوفر مودن۔ معاف کردن |                 |
| عذر خواہی (آمیڈ کی)                       |                 |
| بھماں میگھی (آمیڈ کی)                     |                 |
| واجب الرعایت (ہ) کھماں پوگ                |                 |
| غفو                                       |                 |
| بھماں (ہ) کھماں                           |                 |
| بھلبلی بچ جانی (آمیڈ کی)                  |                 |
| ہرج و مر ج شدن                            |                 |
| بھلر جانا (آمیڈ کی)                       |                 |
| جو لیدن۔ پرائندہ شدہ                      |                 |
| بھلر پلر جانا (آمیڈ کی)                   |                 |
| لت پار شدن                                |                 |
| بھلریا۔ پلریا (ہ)                         |                 |
| ناجور۔ بی ترتیب۔ بی قرینة                 |                 |
| اشتات                                     |                 |
| بھلارنا (آمیڈ کی)                         |                 |
| بھلار کرنا (آمیڈ کی)                      |                 |
| شکولیدن۔ پرائندہ کردن۔ شورانیدن           |                 |
| لیب                                       |                 |
| دریچہ۔ روزن۔ غرفہ (نہ، ایسی)              |                 |
| بھڑکی بھلنی (آمیڈ کی)                     |                 |
| روزان کشادن                               |                 |
| بھڑکی بند کرنی (آمیڈ کی)                  |                 |
| روزان گرفتن                               |                 |
| بھڑنا (آمیڈ کی)                           |                 |
| شکشن۔ دمیدن۔ شلگوفہ کردن۔ واشدن           |                 |

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| بھیر کھیر (ن: ایلین)                          | شیر برع                | بُھدا دے راہ ویچ جاندھر بُرہبان کرنا     |
| بھیر کھیرا (ن: پ)                             | خیار                   | (آمیڈ کی) خداوے راہ ویچ جانور قربان کرنا |
| بھیوا (ہی) کھیوا                              | مست۔ شرابی             | قریانی کردن                              |
| بُھا اٹیلان (آمیڈ کی) کھوائیا                 | خورانیدن               | قاق۔ زماروں                              |
| بُھسگال (ہی) خوش حال                          | چرب آخور               | ساروں۔ ساروں                             |
| بُھسگال (آمیڈ کی) خوش حال ہونا                | سر درا شن              | ظلف۔ سم                                  |
| بُھس ہونا (آمیڈ کی)                           | زہت داشن               | خارش                                     |
| بُھس خبری (آمیڈ کی)                           | زہت کردن               | خرسینگ                                   |
| بُھدہ۔ بشارت (ن: ایلین)                       | خوش خبری               | گراشیدن۔ حک کردن                         |
| بُھس بھرگی (آمیڈ کی)                          | خوش خبری و نی          | خراشیدن (آمیڈ کی) کھر چوائیا             |
| بُھدہ دادن                                    |                        | خراشیدن (آمیڈ کی) کھر چوائیا             |
| بُھس بھرگی لیا یوں (آمیڈ کی)                  |                        | بُھر د بُھر کردن (آمیڈ کی) خروبر د کرنا  |
| بُھدہ آوردن                                   |                        | حیف د میل کردن                           |
| بُھس بھار (ن: ایلین)                          | لا بہ۔ چاپوس           | بُھر د را بُھار (آمیڈ کی) کھر د را بُھار |
| بُھس بھاری (ہی) خوشامدی                       |                        | زبر کردن                                 |
| بُھسی (ن: ایلین)                              | خایہ بردار۔ چاپوس      | بُھرنا/ہنل ہونا (آمیڈ کی)                |
| نشاط۔ مرت۔ شارمنی۔ خورندی۔ خرسندی             |                        | تحلیل رفتان                              |
| بُھسی/پر سمنڈا (ن: ایلین)                     | خوشی رپنٹا             | مقفل۔ آخر۔ آخر                           |
| سر در۔ مرت                                    |                        | رزوی۔ ماکول                              |
| بُھسیاں (ن: ایلین)                            | طرب                    | باز شدن                                  |
| بُھسیاں (آمیڈ کی)                             | خوشیاں مناؤں           | بُھل د را زدا شن (آمیڈ کی) کھل د نی      |
| فرخیدن  |                        | بُھل ا بُھل کرنا (آمیڈ کی)               |
| بُھسی دا سما گام (ن: پ)                       | جشن                    | سر کیسہ شل کردن                          |
| بُھن۔ ہر چیز کہ تیز د بُرندہ بناشد (ہی) کھنڈا |                        | فاج                                      |
| بُھنی (ن: ایلین)                              | خانج                   | ما حصل                                   |
| بُھدا دے راہ ویچ جان دئی                      |                        | جب۔ چاہ                                  |
| قریانی دادن (آمیڈ کی)                         | خداوے راہ ویچ جان د نی | کھوہ چوں گا کر ٹھنی                      |

|  |  |
|--|--|
| جیجھے  | خدا کے لئے جانا (امیت کی)                            |
| گوشہ۔ کنچ۔ زاویہ                             | ربودن۔ ربیدن   |
| غدان۔ وتد۔ شمع                               | (امیت کی) کھوں لینا                                  |
| بُختیاں (نام: ایلین) کھوں میاں               | کھوں لینا (امیت کی)                                  |
| اوتاب  | قاب زدن۔ قاپیدن۔ ربودن چیزی                          |
| بُخن دا دسما (ہاواسٹا)                       | اجوف   |
| فشارخون                                      | بے�لا (ہی) کھوکھلا                                   |
| بُخن دا بستلا لے لیا (امیت کی)               | بے�ل پلن (ہی) کھوکھلا پن                             |
| قصاص کردن۔ سیاست و مكافات کردن۔ گشیدہ رائشنا | پڑھش۔ تحقیق  |
| بُخن دی کمی (ہاواسٹا)                        | بے ج ورنا (امیت کی) کھوچ کرنا                        |
| فقدم   | تحقیق کردن۔ پڑھش کردن                                |
| خون پسینہ اک کرنا                            | بے جان خرد کردن                                      |
| (امیت کی)                                    | پڑھیدن   |
| بے چل/مُعَصیۃ / مصیت (نام: ایلین)            | بے جان (امیت کی) کھوجتا                              |
| زمت  | بے جی (ہی) کھوچی                                     |
| بے چل کرنی (امیت کی) کھیچل کرنی              | تجسس۔ پڑھش کشندہ                                     |
| سر درد کشیدن                                 | زیافت۔ غش  |
| بے چل ان (نام: ایلین) کھیچلاں                | بے ٹ (ہی) کھوٹ                                       |
| ٹکالیف                                       | بے ٹا (ہی) کھوٹا                                     |
| بازی   | قلبی۔ کاسد۔ ناصرہ                                    |
| بے ڈ۔ مُلٹو (نام: ایلین) کھیڈ ملھ            | بے ٹا میکا (ہاواسٹا) کھوٹا سکہ                       |
| لہو لعب                                      | زر قلب   |
| بے ڈاں (نام: ایلین) کھیڈلاں                  | ناک بودن   |
| العاب  | بے ٹا میکا (ہاواسٹا) کھوٹا ہوٹا                      |
| مزرع۔ مزرعہ۔ کشت۔ حارہ (ہی) کھیت             | بے ٹا پلن (ہی) کھوٹا پن                              |
| بے ڈ دا رسا (ہاواسٹا)                        | بے ٹے میکے بُلٹا میکے بُلٹا (امیت کی) کھوٹے کے بُلٹا |
| دشت بان۔ پاسبان کشت زار                      | قلب سازی   |
| بے ڈرہل (ہی) کھیڑ پھل                        | بے ڈلان (امیت کی) کھوتنا                             |
| بے ڈی کرنی (امیت کی)                         | وجین کردن۔ علف ہرزہ چیدن۔ تراشیدن۔                   |
| فلاحت۔ کشاو رزی از راعت                      | خراسیدن۔ بانسل بریدن                                 |
| بے ڈی بڑی (نام: ایلین) کھیتی بڑی             | کوسہ   |
| زراعت  | جام  |
| افسوس۔ تاسف                                  | بے ڈیاں (نام: ایلین) کھوپڑیاں                        |
| بے ڈن۔ جنک (ہی) کھید جنک                     | بے ڈو دے رکھ دئیا (امیت کی) کھول کے رکھ دئیا         |
| افسوس ناک                                    | ظاہر کردن  |
| انبساط۔ انشراح                               | بے ڈوں (نام: ایلین) کھولنا (امیت کی)                 |

କଶାଦନ - ବାଜିକରଦନ - ଫାଶ ନମୋଦନ - ବୀଯାନ କରଦନ -  
କଶୁଡ଼ନ

(ଅଧିକତ କିଳ) ଖେତ୍ର ପାଇଁଲା କହୁରୁପାଇଁଲା  
ପାବିମିନ ରଦନ - ଲକୁବିମିନ ରଦନ - ତମାତ ରଦନ - ଗୁଚ୍ଛ  
ଆବଦଶଦନ - ଏଜାଦର ରଫତନ - ଶଦେତ କରଦନ

|                         |   |                            |                             |
|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| گھینٹا (ن: پ)           | زیور  | گھنڈ دئی (امیٹ کی)         | عقد                         |
| گھینٹے رکھنا (امیٹ کی)  | رہیں دادن۔ گرد کردن                         | گھنڈ بھنڈی (امیٹ کی)       | رشتہ بانگشت بست             |
| گھنٹا (ن: پ)            | سپر۔ آسان۔ فلک۔ سا                          | گھنٹا (ن: پ) مارنی         | گھڑ زدن                     |
| گھنٹا (ن: پ) بھل        | سہوات۔ افلاک                                | گھنٹا (ن: پ) بھل           | عقد                         |
| گھنٹا (ن: پ) دس         | عالم ساوی                                   | گھنٹا (ن: پ) گستاخ         | علم حساب                    |
| گھنٹا (ن: پ) گلناں      | گھنٹا (ن: پ) بھل                            | گھنٹا (ن: پ) ریاضی         | ریاضی                       |
| گھنٹا (ن: پ)            | ساوی  | گھنٹا (ن: پ) گتہ           | مقرر                        |
| گھنٹا (ن: پ)            | صلع   | گھنٹا (ن: پ) رچال          | حرکت                        |
| گھنٹا (ن: پ)            | شفشان                                       | گھنٹا (ن: پ) اتے پریورتن   | گھنٹا (ہوا کا سماں)         |
| گھنٹا (ن: پ)            | کچل۔ اقرع                                   |                            | حرکت و تغیر                 |
| گھنٹا (ن: پ) گنجایش     | کچل   | گھنٹا (ن: پ) گتیاں/ رچالاں | حرکات                       |
| گھنٹا (ن: پ)            | کول   |                            | ساکت۔ بی حرکت               |
| گھنٹا (ن: پ)            | باد مفاصل۔ وچ الفاصل (پ)                    | گھنٹا (ن: پ) گتیاں         | خط حرکت                     |
| گھنٹا (ن: پ)            | گھنٹا (ن: پ) گذرواٹا                        | گھنٹا (ن: پ) ریکھا         | تحرک                        |
| گھنٹا (ن: پ)            | نصب کنائیدن۔ برپا کنائیدن۔ زیر خاک کنائیدن۔ | گھنٹا (ن: پ) وان           | قازورہ۔ پلیدی۔ نجاست        |
| پھنس کنائیدن            |   | گندگیاں (ن: پ) گندگیاں     | قازورات۔ پلیدی ہا۔ نجاست ہا |
| گھنڈیاں (ن: پ)          | در شکر ران۔ کالسکر ران                      | گندگیاں (ن: پ) بھل         | داخیل                       |
| گھنڈے (ن: پ)            | خراطین                                      | گندھمند (ن: پ)             | گرز                         |
| گھنڈہ عقدہ              |   | گدا (ن: پ)                 | طراح                        |
| گھنڈہ کٹ کر برو         |   | گدا (ن: پ)                 | نخس۔ آلووہ ریم              |
| گھنڈہ بھل لئی (امیٹ کی) |   | گدا (ن: پ) گندھ            | کاریز                       |
| گھنڈہ کھونی             | حل عقدہ۔ باز کردن گرہ                       | گندھ نالا (ہوا کا سماں)    | گنداب                       |
| گھنڈہ بھل لئی (امیٹ کی) | گھنڈہ کھونی (امیٹ کی)                       | گندھ پانی (ہوا کا سماں)    |                             |
| گھنڈا (ن: پ)            | تعقید                                       |                            |                             |

گوئی کرنی (ا) غداری کرنی (امیٹ کی)

چپ دارن

گندیاں گالاں (ہاکاں) گندیاں گالاں مغلقات

گوگرد کبریت (ن: ایلیں) گندھک گوگرد کبریت

گردھا (ن: پ) گردھا گردھا

گردھا پن (ن: پ) گردھا پن گردھا پن

گردھی (ن: ایلیں) مادھ۔ اتاں۔ ماچ گردھی

عطار گردھی (ن: پ) گردھی

خران گردھے (ن: پ، ب) گردھے

خوز نیشخ (ن: پ) گنا گنا

غائیمیت سمجھنا (ا) غائیمیت سمجھنا گانیمیٹ

غائیمیت شردن۔ ہستی و حیات خود را منفعت خویش

دانستن

لاف و گزاف (ن: ایلیں) گپ پ

گپ پ مارنا (ا) گپ پ مارنا گپ پ مارنا

ذوق و حال کردن

گپ مارنی (ا) گپ مارنی گپ مارنی

گیتن۔ گرفتہ زدن

گپ مارنیاں (ا) گپ مارنیاں گپ مارنیاں

لالہ باختن۔ ہرزہ درائیدن

گپی (ہ) گپی

در گو۔ در زن۔ گرفتہ زن۔ ہرزہ گو۔ حراف۔ زبان آور

گاہلٹ غفلت (ن: ایلیں) ذہول

گاہٹا پاٹیاں (ا) گھٹا پاٹیاں تعینت

گاہن/ہرے ب غبن رفریب خیانت

گاہن کرنا (ا) غبن کرنا

اختلاس کردن

گھر رو (ن: پ) جوان

گنبدیت (ہ) گنبدیت

گنبدیت عیڈھاٹی ویص ہوئا

گنبدیت (ا) گنبدیت اکھیاگی ویچ ہوئا

صعوبت داشتن۔ دشوار بودن۔ زحمت داشتن

گنبدیت ایڈے ویسٹ میڈرڈا دا ہوئا

گنبدیت ایڈے ویسٹ میڈرڈا ہوئا (ا) گنبدیت ایڈے ویسٹ

صیمیت داشتن

شف (ہ) گنبدیت سندھ

حروف تار (ن: ایلیں) گنبدیت گل

خوامض (ہ) گنبدیت گل

متانت۔ سنجیدگی (ن: ایلیں) گنبدیت تا

گنبدیت تا ساری سوچنا کے کمر بارے

گنبدیت تا سہت سوچنا کے کمر بارے (ا) گنبدیت تا سہت سوچنا کے کمر بارے

تمیت

گولہ گل

گارک ہوئا/ڈلبنا (ا) گارک ہوئا/ڈلبنا

در آب افادن۔ غرق شدن۔ فرو رفتہ زیر آب

گارک کرنا (ا) گارک کرنا

غرق کردن۔ فرو کردن در آب

ج گرد (ن: ایلیں)

گرد عیڈا عیڈنی (ا) گرد عیڈا عیڈنی

گرد جھاڑنی (ا) گرد جھاڑنی

گرد گیری کردن

گردان جھکا کوئی (ا) گردان جھکا کوئی

گردان انداختن

گردان دے مہرے (ہ) گردان دے مہرے

نقرات عنقی

جل۔ حمل گر بھ

|                       |                |                   |              |                  |                    |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|
| گارڈ-اہمیت            | (ن: ایلین)     | گر بھ او تھا      | گر بھ او تھا | غ رور پ          | خوت                |
| امیدواری              |                |                   |              |                  | یقہ                |
| گارڈ-پات              | (ن: پ)         | گر بھ پات         |              | گر بیان پ        | یقہ                |
| اسقاط حمل             | (ن: پ)         |                   |              | گرے ہلن کرنا     | آہمیت کی           |
| گارڈ پات ہو جانا      |                |                   |              | گرے ہلن کرنا     | آہمیت کی           |
| گارڈ پات ہو جانا      | (آہمیت کی)     | گر بھ پات ہو جانا |              | پچگ آوردن        | بصرف آوردن         |
| ساقط شدن              |                | پچ ناماں از شکم   |              | قبول کردن        | انتخاب کردن        |
| افادن پچ ناماں از شکم |                |                   |              | جمع کردن         | دریافت کردن        |
| حتمی                  |                |                   |              | فہم کردن         | چیدن               |
| حاملہ                 |                |                   |              | گروہ رئویہ       | خیل                |
| باردار                | (ہی)           | گر بھ وی          |              | گرے ہٹ لہ        | گروہ رئویہ         |
| گارڈ وی               | (ہا کانس)      | گر بھ وی استری    |              | گرے ہن دے گرے ہن | گروہ رئویہ         |
| زن بار دار            |                | زن حاملہ          |              |                  | جوہ جوہ            |
| گارڈ وی استریا        | (ن: ایلین: ہد) |                   |              |                  | ر خار- وجہ- عارض   |
| حوالی                 |                |                   |              | گل س             | (ن: ایلین) گل س    |
| گارڈ وی               | (آہمیت کی)     | گر بھ وی ہوئا     |              | گل شنیدن         | گل شنیدن           |
| حاملہ شدن             |                |                   |              | گل س             | گل س               |
| گرم                   | تفیدن          | (آہمیت کی)        | گرم ہوئا     | گل کھ            | فخ کلام دادن       |
| گرم کرنا              | (آہمیت کی)     |                   |              | گل کھ            | شروع در تکم کردن   |
| گرم پالی              | (ن: پ)         | آب جوش            |              | گل کھ کرنی       | (آہمیت کی)         |
| گرمala                | (ن: پ)         | مالج              |              | گل کھ کرنی       | گل کھ کرنی         |
| گرمی                  | (ن: ایلین)     | کونت              |              |                  | خون پر داخن        |
| گرمی نال جلس جانا     |                |                   |              |                  | - حرف زدن          |
| (آہمیت کی)            |                |                   |              |                  | - صحبت کردن        |
| کباب شدن              |                |                   |              | گل گل تے روپیا   | گل گل تے روپیا     |
| انفار ناز نازش        | (ن: پ)         | گروہ              |              | (آہمیت کی)       | اشک در آستین داشتن |
| گارہ کرو کرنا         | (آہمیت کی)     |                   |              | گل گھٹنا         | (آہمیت کی)         |
| فعکشودن               | نائزیدن        | نائزیدن           |              | گل گھٹنا         | خپہ کردن           |
| خود ستائی کردن        |                |                   |              |                  | گلوفشدن            |
| گارہی                 | (ن: ایلین)     | لقمہ              |              |                  |                    |
| گارڈیل                | (ہی)           | پلٹن              |              |                  |                    |
| گرام                  | (ن: پ)         | قریہ              |              |                  |                    |
| گارہ کرنا             | (آہمیت کی)     | غ غرہ             |              |                  |                    |
| گاریہ ہوئا            | (آہمیت کی)     | غ غرہ             |              |                  |                    |
| دیوار کو تاہ بودن     |                |                   |              |                  |                    |

|   |                         |                                     |         |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| گالڈیਆں                                       | زلات                    | زلات                                | خوبیدن۔ |
| گالڈی کرنی (امیت کی)                          | غلطی کرنی (امیت کی)     | گل وڑھنا (امیت کی)                  |         |
| مغالط کردن۔ خطا کردن۔ خط کردن                 |                         | ذنک کردن۔ گلوبریدن                  |         |
| گالڈی ویس پاٹھا (امیت کی)                     | غلطی وچ پوٹھا (امیت کی) | گولان (امیت کی)                     |         |
| غلط دارن                                      |                         | جنات۔ خدود                          |         |
| لب تکاندن (امیت کی)                           | لب تورنی (امیت کی)      | گولان (امیت کی)                     |         |
| گالنا (امیت کی)                               |                         | گلام (امیت کی)                      |         |
| فاسد شدن۔ بو سیدن۔ غافر پا شدن۔ غافر پاپی     |                         | گل کرنیاں/بولنا (امیت کی)           |         |
| کردن۔ شقا قولوں شدن                           |                         | گل کھوڑی (امیت کی)                  |         |
| گول نہیں اعلیٰ کر دئنا                        |                         | فضول گو۔ زیادہ گو۔ یادہ گو          |         |
| گل نوں ان سکی کر دینا (امیت کی)               |                         | حراف۔ پرحراف (امیت کی)              |         |
| حرف پشت گوش انگھمن                            |                         | گلاب حڑ (امیت کی)                   |         |
| گول نہیں لہمیا اولنا (امیت کی)                |                         | ریم (امیت کی)                       |         |
| قصہ دراز کردن۔ کش دادن سخن                    |                         | گلی سڑی ہڈی (امیت کی)               |         |
| گلپکار (امیت کی)                              |                         | گوچہ گرد (امیت کی)                  |         |
| افسانہ نویس۔ داستان نویس۔ رمان نویس           |                         | گوبہ کو (امیت کی)                   |         |
| گل بات (امیت کی)                              |                         | گلے دی (امیت کی)                    |         |
| گل بات کرنی (امیت کی)                         |                         | خیاگر۔ قول۔ سرایندہ۔ مغنا (امیت کی) |         |
| صحبت داشن۔ صحبت کردن۔ گفتگو کردن۔ جواب د      |                         | گواہی آ (امیت کی)                   |         |
| سوال کردن۔ گفت و شنود کردن                    |                         | سرایندہن۔ سبب سرایندہن شدن          |         |
| گل بات نوں و ستار دینا (امیت کی)              |                         | شاہد (امیت کی)                      |         |
| اطالات  |                         | گواہ (امیت کی)                      |         |
| شفاہی (امیت کی)                               |                         | گواہ (امیت کی)                      |         |
| گل مڑھنا (امیت کی)                            |                         | شوہد۔ گواہان۔ شہادت دہندگان         |         |
| بگردن (کسی) گذاشتن۔ تکلیف کردن بہ۔ تحمیل کردن |                         | گواہی/سہیاری (امیت کی)              |         |
| هم آغوشی (امیت کی)                            |                         | شہادت۔ گواہی۔ کشته شدن در راه خدا   |         |
| گل و کڑی پوٹھی (امیت کی)                      |                         | گواہی دہنی (امیت کی)                |         |
| در آغوش کشیدن۔ در آغوش گرفتن۔ د کرفتن۔        |                         | شہادت دادن۔ تصدیق کردن۔ گواہی دادن  |         |
|   |                         | درشت پسند۔ ابلہ۔ روستائی (امیت کی)  |         |
|   |                         | گیوار (امیت کی)                     |         |
|   |                         | قزوینی شدن (امیت کی)                |         |
|   |                         | گیوار ہونا (امیت کی)                |         |
|   |                         | دہقانیت (امیت کی)                   |         |
|   |                         | گیوارپنا (امیت کی)                  |         |

|                                     |                               |   |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| گواڑا (ن: پ)                        | گواڑا دو شدہ                  | نخش دادن۔ نام کی رابڑتی سقط گھن۔ دشام دادن۔ |
| گزبڑ کرنی (آمیڈ کی)                 | گزبڑ کرنی بہم زدن             | بردن  |
| غارو غور کردن۔ ہرج مرچ کردن۔        |                               |   |
| گزبڑ/کیٹ (ن: پ)                     | حصار                          | شام   |
| گزبڑ کھ (ن: پ)                      | غور                           | سفت   |
| گزبڑا (ن: پ)                        | برد۔ ٹال۔ ٹگرگ                | کیف شدن                                     |
| گزبڑا (ن: پ)                        | سچے۔ ٹال                      | غلاظ  |
| گاٹیں (آمیڈ کی)                     | برزدن۔ سر ددن۔ سر ایندین      | سرد   |
| گائیک (ن: پ)                        | سر ایندہ                      | دانہ۔ داننہ                                 |
| گائیکا (ن: پ)                       | عالمه۔ مخفیہ                  | علم   |
| گائیکا (ن: پ)                       | علم نخہ پردازی۔ فن نخہ پردازی | علوم  |
| گاہک (ن: پ)                         | مشتری۔ خریدار                 | قمر   |
| گاہکی (ن: پ)                        | خریداری                       | آئینہ داش                                   |
| گاہک (ن: پ)                         | زردک                          | گیان درپن                                   |
| گاہک (ن: پ)                         | کون۔ مقدر                     | گیان سار                                    |
| گاہک (ن: پ)                         | لجم۔ لجن                      | گیان مارگ                                   |
| گاہک (ن: پ)                         | سمیل۔ گلاب                    | گیان وان                                    |
| گاہک (ن: پ)                         | کاہو گل (ہاکاں) گرا لاتے توڑی | گیان ریپ                                    |
| گاہک (ن: پ)                         | گاہو اتے ٹوڑی                 | گیان پرکاش                                  |
| گاہک (ن: پ)                         | گاہو بھانیں (آمیڈ کی)         | نور داش۔ نور معرفت                          |
| گل مالی کردن                        |                               | طریقہ داش                                   |
| گارے دار دا ردا چاڑھنا              | مالدن                         | گیان مارگ                                   |
| (آمیڈ کی)                           |                               | گیان عالم۔ داننہ۔ قابل                      |
| گاہکی (ن: پ)                        |                               | گیان وان                                    |
| رووہ دراز۔ حراف۔ یادہ گو۔ کشادہ نفس |                               | یازدہم                                      |
| دشام۔ دشام                          | گاہل                          | گیاراں                                      |
| گاہل دئی (آمیڈ کی)                  |                               | یاڑدہ                                       |
|                                     |                               | گیاشنا (آمیڈ کی)                            |
|                                     |                               | خو گرفتن۔ خو گر شدن۔ عادی شدن۔ متعاد شدن۔   |
|                                     |                               | خود را متعاد کردن                           |
|                                     |                               | گیاشنا (آمیڈ کی)                            |
|                                     |                               | خو دادن۔ عادت دادن۔ عادی کردن               |
|                                     |                               | حلقة درونی میوہ                             |
|                                     |                               | گیٹک (ن: پ)                                 |
|                                     |                               | قوزک۔ پیوندپا۔ کعب                          |
|                                     |                               | گٹا (ن: پ)                                  |
|                                     |                               | گینٹیاں گیلنہ (آمیڈ کی)                     |

|  |   |
|--|---|
| آخر شماری کردن۔ بی خواب ماندن بے شب          | گوآماں جا لانا کیسے سچیں دا               |
| گینڈ۔ بالشت۔ شبر و جب۔ بالشت۔ شبر            | از کیسہ رفتن (امیٹ کی) گواہ جان کے چیز را |
| گیٹھمٹھی آغا کوتولہ۔ قد کوتاہ                | گم شدن۔ ناپیدیدشدن (امیٹ کی) گواڑنا کرنا  |
| گیٹھی میلننا                                 | گواڑنا کرنے۔ ہم سائیگی۔ جوار (پ) کو ائندہ |
| دنج کردن                                     | گواڑنا کرنے۔ گواڑنا (ن) گواڑنا            |
| گینڈ   | گواڑنا کرنے۔ گواڑنا (ن) گواڑنا            |
| ریمه۔ چک کنج چشم دمیان مرگاننا               | گواڑنا کرنے۔ گواڑنا (ن) گواڑنا            |
| گیٹھی شمار۔ عدد                              | گواڑنا کرنے۔ گواڑنا (ن) گواڑنا            |
| گیٹھی ویسی آعیلہ (امیٹ کی)                   | گواڑنا کرنے۔ گواڑنا (ن) گواڑنا            |
| شمار رفتن                                    | شیر ک شدن                                 |
| گیٹھنا                                       | زبان درازی                                |
| گیٹھنا (امیٹ کی)                             | گستاخی (ن) گستاخی                         |
| شردن۔ عد                                     | گستاخی/سرکشی (ن) گستاخی/سرکشی             |
| گیٹھا عیلانا                                 | سرکشی                                     |
| گیٹھا عیلانا (امیٹ کی)                       | گستاخی/بہہجا اتی (ن) گستاخی/بہہجا اتی     |
| شغال۔ ٹکال                                   | شوخ چشمی                                  |
| گینڈڑ۔ ٹکال                                  | گستاخی کرنی (امیٹ کی)                     |
| تمدید بی یار۔ تمدید بی اساس۔ لاف و گزار باطل | سوء الادب۔ شوخی کردن                      |
| گیڑگاٹ                                       | تعاب۔ خفی                                 |
| گرگٹ (ن) ٹکلی                                | غصہ                                       |
| گیڑھے  | غصہ ہوئنا (امیٹ کی)                       |
| گیڑھے  | طیرہ گرفتن۔ خشم گرفتن۔ لب گزیدن           |
| گیڑھے  | خشم آکود (پ) غصیلہ                        |
| گیڑھے  | خوی تند (ن) غصیلی عادت                    |
| گیڑھے  | گنگا                                      |
| گیڑھے  | لوبان                                     |
| گیڑھے  | لال۔ گنگ۔ زبان ٹکین۔ اکم (پ) گنگا         |
| گیڑھے  | گنگا ہوئنا (امیٹ کی)                      |
| رگیدن۔ الحاح                                 | لال شدن۔ از زبان افتدان                   |
| نیشید۔ سرو د۔ ترانہ۔ نغمہ (پ) گیت            | سنبلہ                                     |
| مزامیر۔ نغمات                                | سنبلہ                                     |
| گیٹھا عیلانا (امیٹ کی)                       | گنڈا (ن) گچھا                             |
| گم کردن۔ مفتوک کردن۔ از دست دادن۔ تکف کردن   | گنڈھے (ن) گچھے                            |
| زیان دیدن۔ خارت دیدن۔ ضرر کردن               | گناہگارہ (ن) گناہگارہ                     |

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
| گنجصل (نام، ایٹلی)                             | جیع       | گنوان (ہی)                             | صاحب کمال                                    |
| گنجصلدار (ہی)                                  | چیدہ      | گناس پی، بہا                           | صفات   |
| غلق (ہاکانس) گنجصل دارگل                       |           | گناک                                   | مضروب  |
| سرخی۔ راز نہانی (ہاکانس) گجا بھیت              |           | گنا کرنا (امیٹ کی)                     |  |
| گنجی لیپی و ج لکھنا                            |           | ضرب کردن۔ بیمار کردن۔ زیاد کردن۔ نکشیر |  |
| (امیٹ کی)                                      | رمز کردن  |  | کردن۔ افزودن                                 |
| گنٹ (نام، پی)                                  | پیوند دست | گنا پاؤٹا (امیٹ کی)                    |  |
| گوشہ۔ کنخ۔ زاویہ                               | گٹھ       | ربودن یا بردن (درجہ ترقہ کشی)          |  |
| بطور مورب۔ ارتی (ہی)                           | گٹھ پرنے  | گنا تمک (ہی)                           | کیفی   |
| گنٹھے لاؤٹا (امیٹ کی)                          |           | گنا تمک                                |  |
| درستگنا اندرا ختن۔ بگوشہ راندنا۔ گوشہ دار کردن |           | گنڈ                                    | چند  |
| عرصہ را (بکسی) تنگ کردن                        |           | گنڈا (امیٹ کی)                         |  |
| گنڈا (پی)                                      | لوٹی پوٹی | گنڈا (امیٹ کی)                         | غلغلک کردن                                   |
| فضلہ بازار                                     |           | گنڈا (امیٹ کی)                         |  |
| عروسک۔ کاغذ باد                                | گنڈی      | گنڈا (امیٹ کی)                         |  |
| فروزہ۔ وصف۔ شفت۔ تاثیر (پی)                    | گن        | گنڈا (امیٹ کی)                         |  |
| گن   |           | گنڈا (امیٹ کی)                         |  |
| فرودگان۔ صفات۔ اوصاف                           |           | گنڈا (امیٹ کی)                         | مغزدار۔ گوشی۔ گوشت دار                       |
| گن کاری (ہی)                                   |           | گنڈا (امیٹ کی)                         |  |
| مؤثر۔ کارگر۔ کا آمد۔ سودمند۔ مفید۔ ہفع۔ قابل   |           | گنہاں دار کردن                         | تاه زدن۔ چین دار کردن۔ گیس باف زدن۔ کلا بتوں |
| اجر۔ عملی                                      |           | گنہاں (امیٹ کی)                        | دوزی کردن                                    |
| گن گن کرنا (امیٹ کی)                           |           | گنہاں کرنا (امیٹ کی)                   | مز شن  |
| غ غر کردن۔ لند لند کردن۔ درینی حرف زدن         |           | گنہاں کرنا (امیٹ کی)                   |  |
| غ غر کردن (امیٹ کی)                            |           | فوق۔ عصیان۔ بیرون شدگی از راه حق       |  |
| مضرب۔ چندیں۔ متعدد (پی)                        | گنخ       | گناہ گار (ہی)                          | منب  |
| تصف (ہی)                                       | گنیکت     | گناہ گار (ہی)                          | نایدید۔ غیر مرئی۔ مضمر۔ پنهان (ہی)           |
| گردنوا صک سنبھیا                               |           | گپت                                    | گپت کرم (ہاکانس)                             |
| مضروب فیہ۔ عدد مک کند ب ضرب                    |           | گپت کرم                                | عاقول  |
|  |           | گپت چر (ہی)                            | جاسوس  |

|              |           |   |           |                       |   |
|--------------|-----------|---|-----------|-----------------------|---|
| گوپٹ رےگ     | (ن: پ: ب) | گپت روگ   | (ن: پ: ب) | ریت                   | غلامی کرنی (آمیڈ کی)                          |
| امراض داخلی  |           |   |           | گولی                  | گلی ڈنرا (ن: پ)                               |
| گنبد         | (ن: پ)    | قبہ۔ سقف بر جتھے مدور   | (ن: پ)    | لاوہ۔ چالیک۔ الک دولک | گڑھکنا (آمیڈ کی)                              |
| گواہ         | (ن: پ)    | خسائے   |           | گاڑھکنا               | پیش خود خندیدن۔ بارہاں بستہ خندیدن۔ خوشی کردن |
| گرام         | (ن: پ)    | قدان۔ گم شدگی۔ نیست شدگی۔ تلف   |           | گاڑھ گواہ (آمیڈ کی)   | غلیان کشیدن۔ غلیان کشیدن                      |
| گرام کرنا    | (آمیڈ کی) | غایب کردن۔ پنهان کردن۔ تلف کردن۔ درجہ انگمن   |           | گاڑھ گزی (آمیڈ کی)    | غلیان کو چک۔ غلیان کو چک                      |
| گرامنام      | (ہ)       | مجھول ہویت۔ نامعروف۔ خامل   |           | گاڑھی (آمیڈ کی)       | زندہ  |
| خمول         | (ن: پ)    | غاوی۔ برگشہ   | (ہ)       | گونجنا                | تلخ تلخ۔ غار و غور۔ غرش۔ پڑاک                 |
| گرامنامی     | (ن: پ)    | ظلن بردن  | (آمیڈ کی) | گونجنا                | تلخ تلخ کردن۔ غار و غور کردن۔ غرش کردن۔ صدارا |
| دبس          | (ن: پ)    | فراری بودن  | (آمیڈ کی) | پیشاپ مارہ گاؤ        | منعکس کردن۔ خیند                              |
| گاڑھ رے ڈاہی | (آمیڈ کی) | خود را بادہ نوشی پر دن۔ تسلیم خوی میگ ساری شدن۔ پیروی از ہوا و ہوس کردن۔ خوش گذاری کردن |           | چسپ۔ لزج۔ دوزہ۔ صمع   | گرہن  |
| گاڑھ         | (آمیڈ کی) | محیرے اڑکوئا  | (ہ)       | گوند                  | شکر خواب                                      |
| گاڑھ         | (آمیڈ کی) | حورا بادہ نوشی پر دن۔ تسلیم خوی میگ ساری شدن۔   |           | نیں د                 | گوہی  |
| گاڑھ         | (آمیڈ کی) | پیروی از ہوا و ہوس کردن۔ خوش گذاری کردن   |           | نیں د                 | نیں د   |
| گاڑھ         | (آمیڈ کی) | محب کردن۔ مدور کردن   |           | گیسر                  | ٹابتہ   |
| گاڑھی        | (ہ)       | محیط۔ محیط داریہ  |           | گیسر                  | حدائی۔ خرمائی۔ مائل بقمر مز۔ سجنابی (ہ)       |
| گاڑھ         | (ن: پ)    | ورد   |           | گیڑ                   | تقلب  |
| گاڑھ         | (ہ)       | گاڑھ دی پنجھڑی  | (ہ)       | گیڑنا                 | گردش دادن۔ دور زدن۔ دور گرداندن               |
| گاڑھی        | (ہ)       | گل برگ  |           | گیڑے                  | تقلیب   |
| گاڑھ         | (ہ)       | وردی  |           | گیڑا                  | کر گدن  |
| گاڑھ         | (ہ)       | غلام۔ داغ دار   |           | گیڑا                  | زانوں   |
| گاڑھی        | (ن: پ)    | بردگی   |           | غیسب داعم جاننا       | غیسب داعم جاننا                               |

|                                    |                                     |   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| (امیت کی)                          | علم غیب داشت                        | کارہ زانو                                   |
| گوہماں                             | (ن: ایلین) غیر سالی                 | ہل  |
| دوری۔ بیزاری۔ دشمنی۔ عداوت۔ خصوصت۔ |                                     |   |
| گوہماں                             | (ہی) غیر حاضر                       | دلق۔ لباس درویش۔ جامہ مرتع۔ خرق             |
|                                    | غایب۔ پناہ۔ مخفی۔ ناپدید            | خلقان                                       |
| گوہماں                             | (امیت کی) غیرت رکھنی                | فلاخن۔ فلاںگ۔ سگ انداز (پ) گوپیا            |
| چشم و رو داشت                      |                                     | جہد۔ قبر                                    |
| گو                                 | چوب بست۔ سکو                        | عقل و سواس                                  |
| گوہماں                             | گوشت داقیہ کرنا                     | صحیح  |
| (امیت کی)                          | خذع                                 | ساق بلورین                                  |
| گوہماں/ٹکڑا                        | زاوی (ن: پ) گوشہ رکھنا              | مدور  |
| گوہماں                             | زویا (ن: پ) ہل                      | ہل بان                                      |
| گوہماں۔ احرش۔ باشو                 | گوہ (ن: ایلین)                      | خط مستدیر                                   |
| گوہماں                             | گوہماں (ن: پ) گوہ رکھنا             | پرتاپ وزن                                   |
|                                    | رجع۔ روث۔ براز۔ سر گین۔ سر جین۔ زبل | غلول  |
| گوہماں                             | گاوی (ہی) گوکر                      | حب  |
| گوہماں                             | روغن گاو (ہاکاں) گوکھیو             | حباب۔ حبوب                                  |
| گوہماں                             | خک (ن: پ) گوکھرو                    | حاجت۔ غرض۔ خود غرضی۔ خود خواہی              |
| گوہماں                             | دستبد (ن: پ) گوکھرو                 | گوہ نال مُٹلن                               |
| گوہماں                             | شلم (ن: پ) گوگھلو                   | فراؤش دادن                                  |
| گوہماں                             | شکم (ن: ایلین) گوگھر                | گوہ وہ (ن: پ)                               |
| گوہماں/گوہماں                      | فرہ۔ گوشتalo (ہی) گوگھری رگوگھرو    | بزرگی۔ سر بلندی۔ وقار۔ عزت۔ آبرو مندی۔ نام۔ |
| گوہماں                             | زد (ن: ایلین) گوٹ چوسردی            | حیثیت                                       |
| گوہماں                             | رکہ۔ زانو (ن: پ) گوڑا               | گوہماں                                      |
| گوہماں                             | زانو بزمیں زدن (امیت کی) گوڑے میکنا | حساسیت نشان دادن۔ مسئول بودن۔ متاثر شدن۔    |
|                                    |                                     | گوش دادن۔ اعتنایا توجہ کردن                 |
| گوہماں                             | گوڑے دی چپلنی                       |   |

|  |   |
|--|---|
| پس بودن (آمیڈ کی) گھس جانا                       | این سو آن سور فتن۔ از پیش (چیزی) گر تمحن        |
| خاستری۔ خاستری رنگ (ہی) گھمیلا                   | پس اپلنا (آمیڈ کی) گھچونا                       |
| پس ر (نہ) گھسر                                   | آب کشیدن۔ سبکشی کردن۔ شتن                       |
| خراش۔ سر خارانی۔ تن خارانی                       | ہٹ جوٹا (آمیڈ کی) گھٹ جوٹا                      |
| پس ر مس ر مس ر (نہ) گھسر مس ر                    | کارتہ شدن۔ کم شدن۔ کاہیدہ شدن۔ کوتاہ شدن        |
| مساچہ۔ تعلل۔ دفع الوقت۔ طفرہ۔ تعویق              | اقلیت (نہ) ٹیلیں                                |
| پس ر مس ر ورنا (آمیڈ کی) گھسر مس ر کرنا          | ہٹ گیلنڈی (آمیڈ کی) گھٹ جانا                    |
| مساچہ کردن۔ دفع الوقت کردن۔ امر و زور فردا کردن۔ | کم شدن۔ کم بودن۔ کم آمدن۔ کارتہ شدن۔ اندر       |
| بعویق انگداختن                                   | شدن   |
| پسیٹنا (آمیڈ کی) گھٹیٹا                          | سانخ۔ واقع۔ حادثہ                               |
| فروکشیدن۔ بزور کشیدن۔ بزیر بر آوردن۔ بروی زمین   | ہٹنہا (نہ) ٹیلیں                                |
| کشیدن۔   | ہٹنہاواں (نہ) گھٹنہاواں                         |
| پسیٹنا (لیکھائی ہے) (آمیڈ کی) گھٹیٹا             | ماجریات۔ جریانات۔ واقعات۔ حادثات                |
| بد نوشن۔ باشتا ب نوشن                            | نقر و قطیر۔ کم و بیش (ہی) گھٹ و دھ              |
| ہشت مشت (نہ) ٹیلیں                               | ہٹ-ہٹ   |
| پسون-بازی (آمیڈ کی) گھسن بازی                    | خاک۔ گرد۔ غبار۔ چیز کم بہا۔ چیز بی اہمیت۔ یقچیز |
| پسون-بازی کرنی (آمیڈ کی)                         | قابل تخفیف (ہی) گھٹاون بیوگ                     |
| ہشت مشت کردن                                     | ہینار ساعت (پ) (نہ) گھنٹہ کھر                   |
| پسون مارنا (آمیڈ کی) گھسن مارنا                  | ہینٹی-ٹنگی (نہ) گھنٹی رملی                      |
| سلی زدن۔ طپانچہ زدن۔ مشت زدن                     | درای۔ زنگ۔ جرس                                  |
| پس گردنی (نہ) ٹیلیں                              | ہٹنیا (آمیڈ کی) گھٹنیا کھجنا                    |
| خشن۔ گرفتہ (ہی) گرگا                             | مچشم کم زیدن۔ بد شردن۔ بد پنداشنا۔ کم بہا       |
| پسی آٹیٹنا (آمیڈ کی) گھلیڑا                      | شردن۔ خوارداشنا                                 |
| از روی پستی التماس کردن۔ استغاثہ کردن از۔ بلا بہ | حداقل (ہی) گھٹو گھٹ                             |
| خواستن۔  | ہینڈ (پ) (نہ) کھنڈ                              |
| پس اپنی رئی دئی (آمیڈ کی)                        | آدم پست۔ بد ذات۔ شریر۔ پست فطرت۔ رذیل۔          |
| انغفال کردن۔ عاجز کردن۔ این سو آن سور دن۔        | فرمایہ۔ حقہ باز                                 |

|   |   |
|---|---|
| ઘરપુણા (અમિત કિ)                                | ઘરવળા (અમિત કિ)                               |
| બદાતી-શરારત-રડાલત-ફર્ડાયીકી-દોની-હ્રદેબાયી      | બદાન બાંડમંડન-નેસ નેસ મંડન-બ્રિડેડ મંડ મંડન   |
| ઘરંડી (નાં એલિલિ)                               | ઘરવણી (નાં એલિલિ)                             |
| ઝબાન કુચ્ક-લમાસ-મલાઝ-મલાઝ                       | ન્યસ કરું-દમ બરાઓરું                          |
| ઘરંડી મરોઝની (અમિત કિ)                          | ઘરવાઉણા (અમિત કિ)                             |
| ખુંચ-કુંચન-બ્લાક કરું                           | અગ્રિરાન્ડન બે હંટિલી જિયારદસાંદન             |
| ઘરંઢલ (નાં પુ)                                  | ઘર-ઘર (કિલ્લિ) ગ્રેર ગ્રેર                    |
| ઘરંદેર (નાં પુ)                                 | ઘર-જહાઈ (નાં પુ) ગ્રેર જહાઈ                   |
| ઘર ફલ (નાં પુ)                                  | ઘર જહાઈ રેખણા (અમિત કિ) ગ્રેર જહાઈ રેખણા      |
| ઘરપાલ (નાં પુ)                                  | સ્રે ખાને રૂફન દામાર (વાકાંસા)                |
| અખ્લાસ-હિફ દ મીલ-ડસ્ટ્રેડ                       | ઘર ના ઘાટ ગ્રેર ને ગ્રાથ                      |
| ઘરપાલ કરુના (અમિત કિ)                           | બી ખાનમાની-ડ્રબર્ડી-આર્ગી                     |
| બ્રાઇ ખુદ્ડાશન-હિફ દ મીલ કરુન-અખ્લાસ કરુન-      | ઘર નું ઉઝાડના (અમિત કિ) ગ્રેર નું ઉઝાડના      |
| ડસ્ટ્રેડ કરુન-ડસ્ટ્રેડન                         | ખાને બ્રાન્ડાખ્નન-ખાને પાક કરુન               |
| ઘરબાહાર (નાં એલિલિ)                             | ઘર એફ્ઝ્રેડન (અમિત કિ) ગ્રેર પંચન્યા પહુંચણા  |
| આશોબ-અસ્ત્રાબ-તશ્વિશ-હ્રાસ-ફ્રેઝ-તશ્વિશ         | ઘર પંકી રેટી (વાકાંસા) ગ્રેર પંકી રોટી        |
| ઘરબાહાર જાળા (અમિત કિ)                          | ઘર-સારી (નાં પુ) ગ્રેર સારી                   |
| ઝામ-ત્હાલ્ક દ ત્હાસ્ક એર્ડસ્ટ દારન              | ખાને દાર-બ્રર્ગ્ર ખાને-ર્યેસ ખાનોદાર          |
| ઘર્મંડ (નાં પુ)                                 | ઘર્યુષ (અમિત કિ) ગ્રેર ભ્યુષના                |
| ક્રેચ-નાશ-ફ્રેચ-મ્બાહાત-ખુદ્ડિની-ગ્રેડર         | ઘર વસ્તુઓણ (અમિત કિ) ગ્રેર વસ્તુઓણ            |
| ઘર્મંડ બાલાશન (અમિત કિ) ગ્રેમંડ હેલા            | ગ્રેડી કરુન-એર્ડોએજ કરુન-એક્ડ્રેડ કરુન        |
| ઘર્મંડ કરુના (અમિત કિ)                          | ઘર્વાલા (નાં પુ) ગ્રેવાલા                     |
| ફ્રેચ કરુન-નાશન-મ્ફાખ્રત ન્મ્બુદન-મ્બાહાત       | શોહર-ખાનેન્ડ-સાહિબ ખાને                       |
| ન્મ્બુદન-દ્માંગ બાલાબરુન-બ્રાખ્ડ્જેડન           | ઘર્ઝ પાકીયેર (હિલ) ગ્રેર ઝર્ઝ                 |
| ઘર્મંડી મંટિબર (નાં એલિલિ) ગ્રેમંડી મંટિબર      | ઘરાણા/કબીલા (નાં પુ) ગ્રેર એન્ધ ર્યુલીયે      |
| ઘર્મંડી હેલા (અમિત કિ) ગ્રેમંડી હેલા            | ખાન્ડાન-ખાનોદાર-ડ્રોમાન                       |
| ગ્રેડર દાશન-મંટિબર દ્વ્યાદીનું બુદન-મંટિબર બુદન | ઘરે ટિકણ (અમિત કિ) ગ્રેર એ ટિકણ               |
| સ્રા-ખાને-દાર-બીટ-કાશાને (નાં પુ) ગ્રેર ર       | ન્યશ ન્માદન-એ-કામ્પ્ટ કરુન દરખાને-સ્ફરને કરુન |

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| خانگی۔ خانوادگی                              | (ہم) گھر بیو            | بھڑکی نوں چاہی دینی                         |
| بھرلے  | ماشیہ                   | ساعت کوک کردن                               |
| بھرلے جانور                                  | (ہم) گھر بیو جانور      | (امیڈ کی)                                   |
| بھرلے دسداریاں                               | (ہم) گھر بیو دست کاریاں | جراحت                                       |
| صنایعات                                      |                         | بھاری                                       |
| بھرلے مال اسباب                              | (ہم) گھر بیو مال اسباب  | التیام                                      |
| دانہ گانہ۔ کلاو میان دنیوی                   |                         | بھروج۔ زخم۔ سُکل۔ انگار                     |
| بھرول بآہر کٹھ دینا                          | گھر بیو بآہر کٹھ دینا   | (ہم) گھاٹیل                                 |
| (امیڈ کی)                                    |                         | بھاٹیل ہونا                                 |
| بھرول بآہر نیکنا                             | (امیڈ کی)               | بھاشن۔ غراشیدن                              |
| سر از سرا بدر کردن                           |                         | بھاٹ کرنا                                   |
| سفت ماش دادن                                 | (امیڈ کی) گھر دڑنا      | جراحت زدن                                   |
| بھریزنا                                      | (امیڈ کی) گھر دڑنا      | بھتگی                                       |
| بھریزنا                                      | (ہم) گھر دڑنا           | علف۔ گیاہ                                   |
| تھ دیگ۔ تھ دیگ۔ قره                          |                         | بھاہ  |
| بھلہوئیلا                                    | (امیڈ کی) گھلواؤ        | بھاہی                                       |
| روانہ کنائیدن۔ فرستادن کنائیدن               |                         | بھاٹ۔ کی۔ انڈکی۔ کیابی                      |
| بھٹارہمکی                                    | (ہم) گھلو گھارا         | بھاٹ  |
| بھڑنا  | (امیڈ کی) گھڑ           | بھاٹ  |
| تشکیل نمودن۔ قالب کردن۔ مجسمہ سازی کردن      |                         | بھاٹ داشن                                   |
| قلم مداری تراشیدن                            |                         | بھاٹا                                       |
| بھزم بھی پہنی                                | (امیڈ کی)               | در شکستگی۔ زیان۔ کاست۔ کی۔ کم بود۔ خسارہ۔   |
| (در نتیجہ ہراس یا وحشت بی اساس) رم کردن بھوم |                         | تفابن۔ خسارہ                                |
| خرس  | (ہم) گھڑا               | بھو شانہ۔ کمین                              |
| بھیڑا  |                         | بھاٹ  |
| ننگ  | (ہم) گھر بیال           | بھاٹ لادیلی                                 |
| ساعت   |                         | کمین کردن۔ پہان شدن بھصد کی یا چیزی         |
| بھڑی بھڑی                                    | (ہم) گھڑ                | بھاٹ کی                                     |
| بارہا۔ چندیں بار۔ مکر ر در مکر ر             |                         | در کمین نشتن۔ نشتن در جای پہان با نظار دشمن |
| بھڑی دا پرچھا                                | (ہم) گھڑی دا پرچھا      | یا شکار                                     |
| کمدت۔ زود گذر۔ بی ثبات۔ نیا یار              |                         | بھاٹی                                       |
|  |                         | بھنڈہ۔ قاتل                                 |
|  |                         | بھلہوئیلا                                   |
|  |                         | کریہ۔ زشت۔ ٹاگوار۔ نفرت انگیز۔ چ کین        |
|  |                         | بھرنا                                       |

|  |   |
|--|---|
| کراہت۔ نفرت۔ ناپسندی                                 | فاخته۔ قمری۔ صلصل                             |
| پیرونا کرنی (آمیڈ کی)                                | پُنڈر جانا (آمیڈ کی)                          |
| نفتر داشن  | مردن۔ تمام شدن۔ خاتمه یافتن۔ منشی شدن         |
| پیرونا چوگ (ہی) گھر نایوگ                            | پُنڈر جاؤنا (آمیڈ کی)                         |
| نفتر داشن  | تمام کردن۔ باختصار ساندن۔ خاتمه دادن۔ از میان |
| پیرونا رکھنا (آمیڈ کی)                               | بردن یا برداشتن                               |
| کراہت داشن۔ نفتر داشن۔ ناگوارائی داشن                | سفتی۔ شکنگی۔ فشار۔ مصیقہ                      |
| پیرونا گھر نی (ہی)                                   | جرعہ۔ چشم                                     |
| پُسپےٹن (ن، ایلیں)                                   | پُنڈٹن (ن) گھٹنا (آمیڈ کی)                    |
| دخول سرزدہ۔ درودنا خواندہ۔ تجاوز۔ لصرف آہستہ و       | سفت کردن۔ تنگ کردن۔ فشار دادن۔ فشار آوردن     |
| تدریجی   | بر۔ زور آوردن بر۔ در آغوش گرفتن۔ نزدیک راندن  |
| پُسپےٹنیا (ن) گھس بیٹھیا (پ)                         | پُنڈن (ن) گھٹن                                |
| سرزدہ آیندہ۔ محل۔ مزاجم                              | خفہ سازی۔ ناراحتی۔ تشویش۔ اضطراب              |
| پُسپاسما (ن) گھس سما (ہی)                            | پُنڈت بڑنا (آمیڈ کی)                          |
| تیرگ۔ تاریکی مغرب۔ تاریک۔ تیرہ                       | خرد خرد آشامیدن۔ جرعہ کشیدن                   |
| پُسمر۔ بُسمر (ن) گھر مسر                             | پُنڈ لاح دینا (آمیڈ کی)                       |
| سر گوشی۔ بجوا۔ نیچ گوشی۔ دیسمبر۔ تو طہ۔ شایعہ۔ افواہ | بی شرم بودن۔ بی حیا بودن                      |
| پُسیڈن (آمیڈ کی)                                     | پُنڈی (ن) گھنڈی                               |
| در سپو ختن۔ بزور فرود کردن۔ سپوزیدن                  | قلاب۔ پیچیدگی۔ چنگ۔ معما۔ عقدہ۔ مشکل۔ مارگی   |
| گرداں دن (آمیڈ کی)                                   | خمیدہ۔ قلاب دار۔ پر گرہ (ہی) گھنڈی دار        |
| طڑہ۔ حلقة۔ فر۔ پیچ خوردگی (پ) گھنک                   | پُنڈی سار (آمیڈ کی) گھنڈی پیمنی               |
| جلج (ن) گھنگرال                                      | گرہ کشوند۔ عقدہ دشوار حل کردن۔ پیچیدگی قضیہ   |
| پُنگارا لے (ہی) گھنکرالے                             | کشف کردن                                      |
| فردار۔ فر خورده۔ پیچیدہ۔ محمد                        | پُنڈی میلنی (آمیڈ کی)                         |
| جمد (پ) گھنکرالے وال                                 | سر طناب را گرہ زدن یا حلقة زدن                |
| پُنگارا لے (پ) گھنکرو                                | پُنڈر (ہی) گھنتر                              |
| خوش بخت شدن۔ خوش عاقبت شدن۔ نیک انجام                | عیب۔ لکہ۔ نقش۔ آہو۔ خطا                       |
| شدن۔ بالا گرفتن۔ رونق گرفتن۔ کامران شدن              | پُنڈر کڑھنی (آمیڈ کی)                         |

|   |  |
|---|--|
| عیب جستن یا گرفتن۔ نکتہ گرفتن بر۔ خردہ گرفتن بر۔      | رشوٹ۔ رشوت   |
| عیب جوئی کردن در۔ موش گانی کردن در                    | (ہم) گھوس خور پلکی۔ پول بگیر۔ مرتشی۔ رشوٹ خور۔ رشوٹ                        |
| پੰਤਰਬਾਜ਼ (ہم) گھستر باز                               | ستان۔ رشوٹ گیر نہ  |
| عیب جو۔ کسی کے نسبت بدیگراں بدینا است۔ وکیل مخالفت کن | پੰਤਰਬਾਜ਼ی (ہم) گھستر بازی ارتشاء۔ رشوٹ خوری۔ رشوٹ ستانی۔ پارہ ستانی        |
| عیب جوئی۔ بدینی۔ کلیت                                 | کس۔ فرن  |
| پੁپیٹ (ہم) گھدھت خوی بد                               | پੂسمخہر (ہم) گھوس خوری گھوسمخہر  |
| خدرت۔ قیر گون (ہم) گھپ میرا                           | فرودایہ۔ ناکس۔ پست۔ خمیں۔ جوکی۔ کمینہ                                      |
| پੁمکڑ تੋلا (ہم) گھمکڑ تੋلا                            | پੂکی (ہم) گھوکی  |
| گرد گردی۔ گردش (ہم) گھماد                             | خواب آکوڈگی۔ خوابناکی۔ حالت نیم خواب۔ کمالت خواب۔ سگینی خواب               |
| پੁماਊਣ (امیڈ کی)                                      | (امیڈ کی) گھوں گھوں کرنا پੂ پੂ کرنا  |
| گرداندن۔ چرخ دادن۔ چرخاندن۔ پردادن۔ تاب دادن          | وزوز کردن۔ پچ پچ کردن۔ بہ وز در آوردن۔ من کردن                             |
| پੁمر (ہم) گھمیر                                       | پੂرنا (امیڈ کی) گھورنا   |
| پੁرکلن (امیڈ کی)                                      | اخم کردن۔ چین درہم کشیدن۔ ترش روئی کردن۔ قپہ دار کردن۔ خیرہ خیرہ نگاہ کردن |
| خر خر کردن۔ غر غر کردن                                | پھیس/پھیسل و ٹنی ٹنلی تمارض کردن۔ خود را بہ خواب زدن                       |
| پੁرکڑ (ہم) گھر اڑے                                    | (امیڈ کی) گھیر لینا  |
| پੁرکڑ مارنا (امیڈ کی)                                 | دارہ زدن۔ دارہ کردن۔ حلقة بسن  |
| خر خر کردن۔ نفیر کشیدن۔ خرناں کشیدن                   | پیرا مون۔ محیط۔ حوزہ۔ حلقة۔ ہال۔ احاطہ                                     |
| انہام۔ تحملیل (امیڈ کی)                               | رقبہ   |
| پੁللن (امیڈ کی) گھلن شیل                              | پیرا/گال (ہم) گھیر ار گل   |
| حل شدن۔ گداختی۔ اخالاں پذیر۔ آب شدنی                  | پیرا عیی کرنا (امیڈ کی) گھیر او کرنا                                       |
| پੁل (امیڈ کی) گھل مل جانا                             | مسدود کردن۔ گرفتن  |
| حرم شدن۔ آشنا بودن۔ دوست ہمیگی گھتن۔ مخلوں شدن        | پیرا گھلاریا (امیڈ کی)   |
| پੁلٹاٹیا (ہم) گھلاریا                                 | کشتی گیر۔ پلواں۔ پچھے گیر  |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| فرازگر فتن۔ احاطہ نمودن۔ محاصرہ کردن      | ਘੋੜਾ (ਨਾਂ) گੁਹਗਾ (ਪੁ)                     | ਖ਼ਲਦਿਨ                           |
| ਘੋੜੇ (ਵਿ) ਬਵ (ਨਾਂ) ਕੱਖਿਰ                  | ਘੋੜੇ (ਵਿ) ਬਵ (ਨਾਂ) ਕੱਖਿਰ                  | ਅਤਿਆਚਾਰੀ (ਵਿ) ਗੁਹਰਾ ਤਿਆਚਾਰੀ      |
| ਘੋੜੇਦਾਰ (ਵਿ) ਕੱਖਿਰے ਦਾਰ                   | ਘੋੜੇਦਾਰ (ਵਿ) ਕੱਖਿਰے ਦਾਰ                   | ਹਾਡਿ (ਵਾਕਾਸ਼)                    |
| ਮਦور۔ مਟਦੀਰ۔ ਦਾਈਹ ਵਾਰ۔ ਖੁੱਖਿ۔ ਅਹਾਤੇ ਕਣਨਦੇ | ਮਦੂਰ۔ ਮਟਦੀਰ۔ ਦਾਈਹ ਵਾਰ۔ ਖੁੱਖਿ۔ ਅਹਾਤੇ ਕਣਨਦੇ | ਫਾਰਸ۔ ਸ਼ਵਾਰ ਬਾਬ (ਵਿ) ਗੁਹੜਾ ਸ਼ਵਾਰ |
| ਘੋਸ਼ਣਾ (ਵਿ) ਆਖਿਤ ਕਰਨਾ                     | ਘੋਸ਼ਣਾ (ਵਿ) ਆਖਿਤ ਕਰਨਾ                     | ਘੋੜਾ (ਨਾਂ) ਗੁਹੜਾ                 |
| ਅਖ਼ਾਰਨਾਮੇ۔ ਆਲਾਮੀਅ۔ ਆਲਾਨ۔ ਆਲਾਮ۔ ਬਿਧਾਨਨਾਮੇ  |   | ਅਸ਼ਵ۔ ਰਾਹਵਾਰ۔ ਰਹੂਰ۔ ਸੰਨਦ۔ ਫਰਸ    |
| ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ (ਵਿ) ਆਖਿਤ ਕਰਨਾ                | ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ (ਵਿ) ਆਖਿਤ ਕਰਨਾ                | ਘੋੜੇ (ਵਿ) ਬਵ (ਨਾਂ) ਗੁਹੜੇ         |
| ਆਲਾਨ ਕਰਨ                                  | ਆਲਾਨ ਕਰਨ                                  | ਘੋੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ                   |
| ਆਲਾਗੀਅ                                    | ਆਲਾਗੀਅ                                    | ਕੁਝਲ۔ ਸੁਰੀਨ ਅਸ਼ਵ                 |
| ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪਤੱਰ (ਵਿ) ਗੁਹਣਾ-ਚੌਪੰਡ              | ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪਤੱਰ (ਵਿ) ਗੁਹਣਾ-ਚੌਪੰਡ              |                                  |

ਚੱਮ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ) ਜੋ ਚੱਮ

ਤਿੜ੍ਹ ਹੁਥੀ - ਜਿਕੀ - ਜਾਵਾਤ - ਆਰਜ਼ੋ ਮਨਦੀ - ਅਥਿਅਤ  
ਮਥਾਤੀ - ਜਾਵੇ - ਸੀਲੇ

ਚੱਮਕਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੱਮਕਾ

ਮਾਲੀ - ਮੜ੍ਹ - ਜਾਨਚੇ - ਰਾਗੇ - ਆਮਾਂਗੀ - ਅਟੁਡਾਰ

ਚੱਮਕੇਦਾਰ (ਵਿਵਾਹ) ਚੱਮਕੇਦਾਰ

ਖੁਸ਼ ਮੜ੍ਹ - ਲਾਡੀ - ਅਥਿਅਤ ਅਨੀਗੀ

ਚੱਮੇ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੱਮੇ

ਚੱਮਹਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਜੋ ਚੱਮਹਾਉਣਾ

ਚੱਮਿਲ - ਪਹਿਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)

ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ - ਜ਼ਿਗਮ ਸ਼ਾਦ ਕਾਮ - ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ੀ

ਚੱਹੇਤਾ (ਵਿਵਾਹ) ਚੱਹੇਤਾ

ਬੁਗੀਡੀ - ਮੁਖੂ - ਮਹੂਬ - ਮਹੂਬੀ - ਮਹੂਬੀ

ਸੁਗਲੀ (ਵਿਵਾਹ) ਚੱਹੇਤੀ

ਚੱਕ ਕੁਝ ਕਰੀ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੱਕ

ਚੱਮਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੱਮਾ

ਫ੍ਰੀਬ - ਗੁਲ - ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ - ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ - ਨਿਰੰਗ

ਚੱਮਾਕ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਆਮਿਤ ਕਿਵਾਂ

ਚੱਮਾ ਖਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਮਕੇਦਾਰ

ਫ੍ਰੀਬ ਖੁਰਦਨ - ਮਫ਼ੂਨ ਸ਼ਦਨ

ਚੱਮਾ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਮਕੇਦਾਰ

ਫ੍ਰੀਬ ਵਾਦਨ - ਗੁਲ ਜ਼ਦਨ - ਦੁਨਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ - ਗੁਲ ਜ਼ਨੀ

ਕਰਨ - ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰ ਬਾਰ

ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ / ਵੱਡਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ / ਵੱਡਣਾ

ਵੰਦਾਨ ਜ਼ਦਨ - ਵੰਦਾਨ ਗੁਰੂ ਫ੍ਰੀਬ - ਗੁਰੰਗ

ਚੱਕਰ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੱਕਰ

ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

ਚੱਕ ਖੁਦੀ - ਚੱਕ ਖੁਰਦਨ - ਚੱਕ ਦੁਦਨ - ਚੱਕ ਦੁਦਨ

ਚੱਕਰ ਕਣਾ / ਕਲਦਣਾ / ਚੱਕ ਕਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਕਰ ਕਣਾ / ਕਲਦਣਾ

ਗੁਰੂ ਕਰਨ - ਸਿਰ ਕਰਨ

ਚੱਕਰ ਖਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਕਰ ਖਾਣਾ

ਚੱਕਰ ਕਾਰ (ਵਿਵਾਹ) ਚੱਕਰ ਕਾਰ

ਗੁਰੂ ਖਾਣੀ - ਚੁਪਾਅ

ਚੱਕਰ ਖੁਰਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਕਰ ਖੁਰਦਨ

ਚੱਕਰ ਦਾਰ - ਮਦਦਾਰ - ਚੁਪਾਅ (ਵਿਵਾਹ) ਚੱਕਰ ਦਾਰ

ਚੱਕਰ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੱਕਰ ਦੇਣਾ

ਚੁਪਾਅ ਦਾਨ - ਪ੍ਰਦਾਨ - ਪ੍ਰਤ ਕਰਨ - ਗੁਰੂ ਕਨਾਨਿਦਾਨ

ਮਹਿਰ ਕਰਨ - ਅੱਪਿਸ਼ ਰਫਤ ਬਾਂਦਾਨਿ

ਚੱਕਲਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੱਕਲਾ

ਚੁਨ੍ਹੇ ਖਾਨੇ - ਫਾਂਖੇ ਖਾਨੇ - ਜ਼ਬੇ ਖਾਨੇ

ਚੁਗੂਰ ਦਕਵਾਅ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੁਗੂਰ

ਚੁਗੂਰ ਪੈਰੀ (ਵਿਵਾਹ) ਚੁਗੂਰ ਪੈਰੀ

ਤੰਦ - ਜ਼ਦੂ - ਬ੍ਰੁਏਟ

ਚੁਪਾਅ - ਤ੍ਰਚ - ਦੁਰਵਾ

ਚੁਕਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਤੀ) ਚੁਕਾ

ਚੁਕਾ ਜ਼ਨਦਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੁਕਾ ਜ਼ਨਦਾਨ

ਚੁਪਾਅ ਕਰਨ - ਮਹਿਰ ਕਰਨ - ਮਹੂਬ ਸਾਖਣ - ਮਹਿਰ

ਕਰਨ

ਚੁਪਾਅ ਕਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੁਪਾਅ ਕਰਨ

ਚੁਪਾਅ ਕੁਝੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ) ਚੁਪਾਅ ਕੁਝੀ

ਚੁਪਾਅ ਕੁਝੀ ਜ਼ਿਹੜਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਚੁਪਾਅ ਕੁਝੀ ਜ਼ਿਹੜਾ

ਬੇ ਸੀਲਾਨੇ ਕਾਰ ਕਰਨ - ਜਾਨ ਕਨਨ

ਚੁਪਾਅ ਕੁਝੀ ਰਾਪੀ (ਵਾਕਾਸ਼) ਚੁਪਾਅ ਕੁਝੀ ਰਾਪੀ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ਚੱਕੀ ਦੀ ਹੱਥੀ ਭੜੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)        | سقط گھن۔ دشام دادن۔ ٹੁش دادن۔ ناسر گھن  |
| ਦਸਤ ਆਈ                              | چੁਪ ਮੁੱਕ                                |
| ਚੱਕੀ ਰਾਮ (ਨਾਂ ਪੁ)                   | ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ (ਪੁ) (ਨਾਂ) چੁਕਾਇਆ             |
| ਹੋਵੇਂ-ਮਰਗ ਸਿਲਮਾਨ                    | ਚੰਗਾ ਰੁਖ                                |
| ਚਕੋਣ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)                    | (ਵਾਕਾਂਸ਼)                               |
| ਚਕੋਣ (ਵਿ)                           | درخت خوب۔ شجر خوب                       |
| ਚਾਰਬਰ۔ ਚਾਰਪਲ੍ਲੇ۔ ਚਾਰਗੁਝੀ۔ ਚਾਰਗੁਝੀ   | ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ (ਚੁਕਾਇਆ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)           |
| ਚਕੋਤਗ/ਚਕੋਤਾ (ਨਾਂ ਪੁ)                | مطبوغ بودن۔ پسندیدہ بودن۔ خوش مشرب بودن |
| ਤੁਸਰੀ-ਜਤਾਵੀ                         | ਖਰ                                      |
| ਚਕੋਰ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)                    | ਚੰਗਿਆਈ (ਨਾਂ) چੁਕਾਈ                      |
| ਚਕੋਰ (ਵਿ)                           | ਚੰਗਿਆਈਆਂ (ਨਾਂ) ਇਲਿੰਗ                    |
| ਚਕੋਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      | ਚੰਗਿਆਈ                                  |
| ਚਿਨ੍ਹਦਿਨ-ਲੜਦਿਨ                      | ਚੰਗਿਆਈ                                  |
| ਚਖਾਉਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਚੰਗਿਆਈ                                  |
| ਚਖਾਉਣ-ਚਖਾਨਦਨ                        | ਅਗਰ                                     |
| ਚਗਲ (ਵਿ)                            | ਚੰਗਿਆਈ (ਪੁ) (ਨਾਂ) چੁਕਿਆਇਆ               |
| ਪਸਟ-ਫਰਮਾਇ-ਕਮਿਨੇ                     | ਵਾਤ ਆਤਸ਼-ਸ਼ਰਾਰ-ਸ਼ਰਾਰ-ਸ਼ਰਾਰ                 |
| ਚਗਲਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਚੰਗਿਆਈ (ਅਮਿਤ ਕਿ) چੁਕਿਆਈ ਲਾਉਣੀ           |
| ਜੋਧਦਿਨ-ਫਾਸਦ ਕਰਦਨ-ਖਾਣੁ ਕਰਦਨ          | ਅਤੇ ਜਦੂ-ਗਰਮ ਸਾਖਣ-ਸੁਖ ਕਰਦਨ               |
| ਚੰਗਾ (ਵਿ)                           | ਚੰਗਿਆਈ ਛੁੱਡਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 |
| ਨਿਕ-ਨਿਕੂ-ਖੂਬ-ਦਰਸਤ-ਮਨਾਬ-ਸ਼ਾਲਿਸ਼ਾ     | جਰਚ ਦਾਨ-ਬਰਚ ਜਦੂ                         |
| ਨਿਕ ਓਡ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                    | ਸਾਤੜ (ਵਾਕਾਂਸ਼) (ਅਮਿਤ ਕਿ) چੁਕਿਆਈ         |
| ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾ                       | ਬੁਦੀ                                    |
| ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ                               |
| ਦਸਤ ਖੋਡ ਬੀਦਨ                        | ਖੂਬ ਤੇ-ਬੀਤਰ-ਬਾਲਾਤ-ਉਲੀਪਾਧੀ-ਮਾਫ਼ੂਚ        |
| ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ (ਵਿ)                      | ਚੰਘਾਵਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) چੁਕਿਆਈ                |
| ਫਰਾਵ-ਫਰਾਰ-ਬਿਹਾਰ-ਕਾਫ਼ੀ-ਬਸ-ਬੰਦੇ       | ਚੁਲ੍ਹੇ                                  |
| ਚੰਗਾ ਫਲ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                   | ਚੁਲ੍ਹੇ                                  |
| ਮਿਹੂ ਖੂਬ                            | ਚੁੱਜ                                    |
| ਚੰਗਾ-ਭਲਾ (ਵਿ)                       | ਰਵਾਂ ਮਨਾਬ-ਤ੍ਰੇਸ ਮੂਜੂਵਾਂ-ਅਦਾਬ ਦਰਸਤ-ਖੁਸ਼  |
| ਦਲ ਜਨਦੇ ਵਾਖੀ ਬੀਨੇ-ਦਲ ਜਨਦੇ ਵਾਨੀ ਵਿਨੇ | ਸੀਲਿਕੀ                                  |
| ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)           | ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੁਹੂਹ (ਕਿਵਿਵਿ)                  |

|  |  |
|--|--|
| بطور شایستہ۔ بطور صحیح۔ موافق آداب             | سلی زدن۔ طپانچہ زدن۔ بادست زدن۔ پرت کردن       |
| صٹکلن (امیت کی) چکٹا                           | چنڈول (ع) (ن) چنڈول                            |
| خرد کردن۔ تکانیدن۔ شکعن۔ شگوفہ کردن۔ گل دادن   | چکاوک۔ چاک۔ چکوک۔ چکاوک                        |
| صٹنے کر جانا (امیت کی) چٹ کر جانا              | چٹاخ (ن) چٹا کھ                                |
| خوردن و تمام خوردن۔ تلف کردن۔ ضایع کردن        | تار عکبوت۔ پردہ کارتنه۔ چیز گندیدہ۔ چیز باریک  |
| چالاکی۔ جلدی۔ زرگی (ن) چنکی (ن) چنکی           | چلنے چباہنا (امیت کی)                          |
| صٹکیلا (ع) چکلیلا                              | مخالفت سخت نمودن۔ شکست فاش دادن                |
| چاپک۔ زرگ۔ جلد                                 | چتر (ع) چتر                                    |
| صٹکلن (امیت کی) چٹا                            | زیریک۔ فہیم۔ آگاہ۔ کارداں۔ نیرنگ باز۔ حیله گر  |
| صٹلنی (ن) چٹنی                                 | صتراتا (ن) چتر                                 |
| صٹکا (ن) ع                                     | زیریکی۔ فہم۔ فراست۔ دانش۔ نیرنگ بازی۔ حیله گری |
| نشان (زخم)۔ اثر (زخم)۔ داغ                     | صترنگ (ن) چترنگ                                |
| صٹان۔ تختہ سنگ (ن) چٹان                        | چھار گوش۔ چار دیواری کہ ساختہ انسائی           |
| صڑاں دیگیاں (ن) چٹانو گیاں                     | گرد اگر دآل باشد                               |
| سنگ شناسی                                      | بخردی  |
| صٹان دیگیاں (ن) چٹانو گیاں                     | صترائی (ن) چترائی                              |
| سنگ شناس                                       | سے پر پہنچ (کی) (ع)                            |
| صٹانی (ع) چٹانی                                | ہمیشہ۔ پوستہ۔ ہمہ وقت۔ دائم۔ اتصالا            |
| خارہ ای۔ صحرہ ای۔ خارہ دار۔ پر صحرہ۔ سلطان     | سراج ایل۔ قمر۔ ماہ۔ ماہتاب (ع) (ن) چند         |
| چتی (ن) چٹی                                    | سے چندر اک (ع) چندر اک                         |
| جزا۔ کیفر۔ جریحہ۔ توان۔ زیان۔ خسارہ۔ ضرر       | بعضی۔ برخی۔ چندی۔ چند تن۔ چند تا۔ کمی۔ کی از   |
| چتی بھرنی (امیت کی) چٹی بھرنی                  | سے چندر گریہن گلنا (امیت کی)                   |
| خسارہ دیدن۔ خسارہ کشیدن                        | انساف  |
| صٹونا (ع) چٹورا                                | سے چندر چڑھ جانا (امیت کی)                     |
| (آدم) پر خور۔ (آدم) شکم گندہ۔ (آدم) شکم خوارہ۔ | خرسند شدن۔ شادر شدن۔ مشوف شدن                  |
| (شخص) بسیار خوار                               | سے چندر چاندنی (ن) چندر چاندنی                 |
| سیلی۔ طپانچہ۔ ضربت بادست (امیت کی)             | متاب۔ نور قمر                                  |
| سے چندر مارنی (امیت کی)                        | سے چندر چاڑھنا (امیت کی)                       |

ਹਰਕਤ-ਨਾਥਾਈਟੇ ਕਰਦਨ- ਫੁਲ ਬੜ ਕਰਦਨ- ਕਾਰਨਾਰ ਵਾਕਰਦਨ  
 ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਵਾਰ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਚੰਡਰਾਪ੍ਰਵਾਰ  
 ਖੁਗਾਹ ਤੁਮਰ- ਖੁਗਾਹ ਮਰ- ਖੁਮਨ ਮਾਹ  
 ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ  
 ਚੰਦ ਚੰਦ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਦ ਮੁਖਜ਼ਾ  
 ਰਾਵੀ ਰਿਆ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਡ ਮੁਖਜ਼ਾ  
 ਚੰਦਰਪੁਣਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਡਰਪੁਣਾ  
 ਸ਼ਰਾਰਤ- ਬੰਦ ਖੋਵੀ- ਬੰਦ ਖੁਲੀ- ਬੰਦ ਕਾਰੀ- ਗਨਾਹ ਗਾਰੀ  
 ਚੰਦਰਮੁਖੀ (ਵਿ) ਚੰਡਰਮੁਖੀ  
 ਮਾਹਰੂ- ਮਾਹ ਚੜ੍ਹ- ਰਿਆ- ਖੁਸ਼ ਗੱਲ- ਖੁਬ ਚੁਭੇ  
 ਚੰਦਰ-ਲੋਕ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਡਰਲੋਕ  
 ਮਾਹ ਚੜ੍ਹ (ਵਿ) ਚੰਡਰਲੋਚੜ੍ਹ  
 ਉਫਰਕ- ਕਥਦਮੇ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਡਰਾ  
 ਚੰਦਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਡੇ  
 ਅਥਰਾਕ- ਓਝ ਅਥਰਾਕ- ਪੁਲ ਆਭੁਨਮਾਨ- ਕੁਕ ਬਰੋਜਨਾਮੇ  
 ਯਾ ਮੁਲੈ- ਹੇਡੀਏ- ਬੁਖ਼ਿਸ਼  
 ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੰਡੇ ਲੈਣਾ  
 ਦਾਰੇਹ ਸਾਖ਼ਨ- ਦਾਰੇਹ ਕਿਥਿਦਿਨ  
 ਚੰਦੋਆ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਡਰਾਓ  
 ਢਲ- ਢਲ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਡਰਾਰਕ ਦਾ ਰੁਖ  
 ਚੁਪਟਾ (ਵਿ) ਚੁਪਟਾ  
 ਸੁਖ੍- ਹਮਾਰੀ- ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਂ- ਕਿਸਾਨ- ਸਾਡੇ  
 ਚੁਪਟਾਪਣ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੁਪਟਾਪਣ  
 ਚੰਨੀ- ਪੰਨਾ- ਹਮਾਰੀ- ਇਕ ਨਾਖੀ  
 ਚੰਲਕੀ- ਦਰਗੀ- ਸੁਰਪੁ਷ਲੀ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚੰਹਿਨ  
 ਚੰਪਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੰਪਿਤ ਹੋਣਾ  
 ਰਵਾਨਾਨ ਨਦਾਦਨ- ਨਾਪੀਦੀਦਨ- ਗਾਬ ਸ਼ਦਨ- ਪੰਹਾਂ  
 ਸ਼ਦਨ- ਗੜ ਮੁਖੀ- ਫਰਾਇਦਨ ਕਰਦਨ- ਫਰਾਰ  
 ਚੱਪਲ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰਾਹੀਂ

ਚਪਲਤਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਚਪਲਤਾ ਚਪਲਤਾ  
 ਤਿਵੀ- ਜਲਦੀ- ਚਾਕੀ- ਤਨੀ  
 ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਦਾ- ਆਮ ਲਾਲਾ (ਵਿ) ਚੀਲ ਸਤ ਚੱਪਲ- ਮੱਤ  
 ਚਪੜ ਚਪੜ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੀਚੀ ਚਪੜ ਕਰਨੀ  
 ਸਨਦਵਾ ਸ਼ਰਦੇ ਖੜਨ ਗੁਣ  
 ਚਪੜਾਸ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਚਪੜਾਸ  
 ਪਾਦਵੀ- ਫਰਾਈ- ਕਾਚਦੀ- ਮੁਲੀ  
 ਚਪੜਾਸੀ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਚਪੜਾਸੀ  
 ਸਰਬਾਜਿਦਾਹ- ਪਾਦੋ- ਪਿਸ਼ ਖਦ ਸਤ- ਪੀਕ- ਕਾਚਦ  
 ਲਾਵਾਂ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚਪਾਤੀ  
 ਚਪਾਤੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਚਪਾਤੀ  
 ਪਾਰੋ ਚੱਪ੍ਹ  
 ਚੱਪ੍ਹ ਚਲਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਪੁ ਚਲਾਉਣਾ  
 ਪਾਰੋਜਦਨ- ਪਾਰੋਕਿਥਿਦਨ  
 ਚਬੱਲਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚਬੱਲਾ  
 ਲੀਪੀਦਨ- ਖਾਸੀਦਨ- ਚਾਵਿਦਨ- ਜਮੀਦਨ  
 ਆਸ ਖਾਰਥ ਦਾਰ ਪੋਸਟ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਚੱਬਲ ਲੀਪੀਦਨ  
 ਚੱਬਲਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੱਬਲਨਾ  
 ਪੀਸਟਨ- ਚੀਪੀਦਨ- ਤ੍ਰਹਿਦ ਦਾਰ ਬੁਦਨ- ਵਫਾਕ ਕਰਦਨ-  
 ਤਾਵਤ ਦਾਸ਼ਨ  
 ਚੰਮ- ਜਲਦ  
 ਚੰਮ ਉਪੰਧਿਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੰਮ ਉਪੰਧਿਨਾ  
 ਕਿਲਕ ਕਰਦਨ- ਚੁਪ੍ਪ ਜਨ- ਜਨ ਬੇ- ਕੁਕੀਦਨ  
 ਚਮਕ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਪ  
 ਲੁਹ- ਤਾਬਾਨੀ- ਤਾਬ- ਦਰਖਣਦਗੀ- ਦਰਖ- ਰਖਣਦਗੀ-  
 ਤਾਬਦਾਰੀ- ਤਾਬ- ਫਰੁਗ  
 ਦਰਖਣਦਨ  
 ਚਮਕਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚਮਕਾਉਣਾ  
 ਆਬ ਦਾਤਾਬ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਪ ਦਾਤਾਬ  
 ਚਮਕ ਦਾਤਾਬ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

فروغ دادن۔ درخشنیدن۔ در فشنیدن۔ تابان کردن  
صمویل (پ) چکیلہ  
در خشندہ۔ تابان۔ تابدار۔ تابناک۔ برائق۔ روشن  
صمریں دز (پ) چکدڑ  
خفاش۔ شب پر۔ شب پرہ۔ پرہ  
صمسا (پ) چچھے  
خرق عادت۔ اعیاز (پ) چھٹ کار  
صماتکاری (پ) چھٹ کاری  
شلگفت آور۔ شلگفت انگیز۔ حیرت انگیز۔ حیرت آفرین  
دبارغ۔ پیراہ (پ) چپر گمگ  
سم لاحولنا (امیڈ کی)  
پوست کندن۔ پشم چینی کردن۔ کوبیدن۔ باچوب  
زدن۔ زدو کوب کردن  
ادیم۔ چڑہ۔ چرم۔ جلد (پ) چڑرا  
صماتکارنگن و اکارخانہ  
(پ) چڑا غانہ  
پوستی۔ جلدی (پ) چڑی سندھی  
مرض خارجی (پ) چڑی روگ  
صماتکے نہیں رنگانا (امیڈ کی)  
دبارغ۔ پیراست پوست را  
یاسمن۔ یاسمن (پ) چمیلی  
شیرک خانہ (پ) چرس خانہ  
شیرہ کش۔ دافوری (پ) چرسی  
صماتکی (پ) چرخی  
صرسا (امیڈ کی) چرچا کرنی  
بحث کردن در۔ گفتگو کردن در۔ مناظرہ کردن۔  
مباحثہ کردن۔ تامل کردن در  
صرن پایی۔ قدم۔ گام (پ) چرن

(پ) (ن) چرن سیوک  
خادم سر پرده۔ خدمت گار مخلص۔ مرید عقیدت مند  
صرن سیوا (پ) (ن) چرن سیوا  
ند اکاری۔ صمیمیت۔ سر پردگی۔ ارادت مندی  
صرن چھٹ (پ) (ن) چرن چھٹ  
نقش قدم۔ نشان پا۔ اشپا۔ جای پا۔ جلاپا  
خاک پا  
صرن پوڑ (پ) (ن) چرن دھو  
چرازان (پ) (ن) چرن والا پشو پسٹ  
صرنا/صرنا علنا (پ) (امیڈ کی)  
چریدن رعا۔ چراند  
طرق۔ پیہ۔ ٹھم  
صربی (پ) (ن) چربی  
صرماخ چرخے دی  
فلکہ۔ قرص کو چک سوراخ داری کہ در دوک چرخہ  
کشند  
صرنا علنا (پ) (امیڈ کی) چروئنا  
صرنا علنا (پ) (ن) چرواہ/چرواک  
چراند۔ چرانیدہ۔ چوپان  
رعاف۔ راعی (پ) بہا (پ) (ن) چروال  
چرند۔ چرند (پ) (ن) چرآک/پشو پسٹ  
صراند (پ) (ن) چراند  
چراغا۔ چرازار۔ علف زار۔ مرغ زار۔ رمنہ  
صریح رہنمائی (پ) چرتہیں  
بد اخلاق۔ شوت ران۔ ناکار۔ ہرزہ  
صریح رہنمائی (پ) چرتہیں  
بد کرداری۔ ہرزگی۔ بد اخلاقی۔ فتن۔ فجور۔  
ناسازگاری با اخلاق خوب  
صریح رہنمائی (پ) چتروان  
دارای خصائص پسندیدہ۔ دارای محنتات۔ با تقویٰ۔

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| شاطر                                      | چلاک (ه) (ه)            | عفیف۔ پہیزگار  |
| روپاہ بازی                                | چلاکی (ن) (ن) (ه) (ه)   | قصب الزریہ   |
| بشکولیدن (آمیت کی) چلاکی کرنی             | چلاکی (ن) (ن) (ه) (ه)   | چل-سینڈی (ن) (ن) (ن) (ن) جایداد منقولہ                     |
| چلاکی دار کھاؤ کرنا                       | چلاکی (ن) (ن) (ن) (ن)   | چل-سینڈی (ن) (ن) (ن) (ن) چل چتر                            |
| فعالیت۔ بخراج دادن                        | آمیت کی                 | تصویر ہائی متحرک۔ شکل ہائی سینما                           |
| روارو                                     | چلا-چلی (ن) (ن) (ه) (ه) | چل لمسار (ه) (ه) چلن سا                                    |
| رحلت کردن۔ انتقال کردن۔ سر آمدن           | آمیت کی                 | دیرپا۔ پابر جا۔ با دوام۔ ماندنی                            |
| - تمام شدن۔ مردن                          | آمیت کی                 | چل لہار (ه) (ه) چلن ہر                                     |
| نیر گک۔ لم۔ فن۔ حیله۔ تزویر               | آمیت کی                 | تاپیدار۔ بی ثبات۔ زود گذر۔ قانی                            |
| چل لنجوگ (ه) (ه)                          | آمیت کی                 | جنبش پذیر۔ حرکت دادنی۔ گردش دار۔ قابل استعمال۔ مورداستفادہ |
| چل لٹر (ن) (ن) (ن) (ن)                    | آمیت کی                 | چل لٹر (ه) (ه) چلن ا (آمیت کی) چلن ا                       |
| عشوہ گر۔ طناز۔ دربا۔ لاس زن۔ لاسی         | آمیت کی                 | چلیدن۔ قدم بر گرفتن۔ قدم زدن                               |
| چل لٹر ہتھا (ه) (ه)                       | آمیت کی                 | راتن۔ متداول۔ گذراج۔ معمول۔ مردوج                          |
| فریب دادن۔ گول زدن۔ حیله زدن۔ شوخی کردن   | آمیت کی                 | کار آمد۔ قابل استفادہ۔ مفید (ه) (ه) چلدا                   |
| بیست و چهار                               | آمیت کی                 | چلدا کرنا (آمیت کی) چلدا کرنا                              |
| بیست و چہارم                              | آمیت کی                 | زود انجام دادن۔ شتاب کردن۔ روافہ کردن۔ جبران               |
| عرجن                                      | آمیت کی                 | کردن۔ دوبارہ تائین کردن                                    |
| آغاز شب                                   | آمیت کی                 | چلدا پر زہ پر کرنا (ه) (ه) چلدا پر زہ                      |
| رکوب                                      | آمیت کی                 | کار دان۔ با تدبیر۔ با استعداد۔ ماہر۔ حیله باز۔ حیله گر     |
| عرجن۔ صعود۔ ترقی۔ تاخت و تاز۔ حملہ۔ تاجم۔ | آمیت کی                 | رویہ (ن) (ن) چلن   |
| دست اندازی۔ استیلا                        | آمیت کی                 | چل پیٹا پلنا (آمیت کی) چل پیٹا پلنا                        |
| چلڑائی کر جانا (آمیت کی) چلڑائی کر جانا   | آمیت کی                 | آغاز سفر کردن۔ حرکت کردن۔ رہ سپار شدن۔ آغاز کردن           |
| چل-چھائی (آمیت کی) چل-چھائی               | آمیت کی                 | مقدار متغیر (ن) (ن) (ن) (ن) چل راشی                        |
| چل اولن (آمیت کی) چل اولن                 | آمیت کی                 | چلانیدن۔ راندن (آمیت کی) چلانیدن                           |

|   |  |
|---|--|
| مردن                                      | کچھ  |
| چڑھائی کرنی (امیت کی)                     | (ن). چاندی دا ڈھلا (ن). چاندی دی تختی (ہاکاں)      |
| حملہ کردن بر۔ تاخت آوردن                  | لوح سیمیں  |
| نذر (ن). چڑھاوا                           | فر   |
| چسکو چسکو                                 | چانن چانن (ن).                                     |
| چاہ (ن). ایلیں                            | چانن گریمن کرنا                                    |
| میل۔ خواہش۔ آرزو۔ رغبت۔ آرمان۔ خواست گاری | اقتباس کردن  |
| چاہتا ڈکا ڈکا (امیت کی)                   | چانن دینا (امیت کی)                                |
| کٹک زدن۔ زدو کوب کردن۔ شلاق زدن           | اشراق۔ نور پا شیدن۔ نور دادن                       |
| مشتائی۔ الفت (ن). چاہت                    | چانن۔ ملنا را (ن).                                 |
| چاہی خوردن (امیت کی)                      | فانوس دریائی۔ چراغ خانہ۔ برج نور                   |
| چاہ بلنی (امیت کی)                        | شب ماہ (ہاکاں) چاننی رات                           |
| چاہی دم کردن                              | صدای پا۔ آواز قدم۔ توں (ن). چاپ                    |
| چاہوں (ہی) چاہوں                          | کارے لیس (ہی) چاپلوس                               |
| خواہش مند۔ آرزو مند۔ خواست گار۔ خواستار   | مالش۔ مشت دادن (ن). چاپی                           |
| خواستن۔ آرزو کردن (امیت کی)               | مشت دادن۔ مالش دادن۔ ورزش دادن                     |
| چاہننا (ن). چک                            | شلاق (ہی) چاپک                                     |
| چاہسو چاہسو                               | شلاق خوردن (امیت کی) چاپک کھانا                    |
| چاہا (ن). چاچا                            | شلاق مارنا (امیت کی) چاپک مارنا                    |
| چاٹسال (ن). چاٹسال                        | تازیانہ زدن۔ شلاق زدن                              |
| کتب۔ مدرس۔ درس گارہ                       | چامچیں کر (ن). چاچک                                |
| چاپلوس (ہی) چاپوکار/خوشامدی               | شب پر۔ موشک کور                                    |
| چاٹکارا/بھروسماں دی (ن). چاپوکارتا/خوشامد | چار۔ اربعہ   |
| چاپلوسی                                   | چار سال دی عمر                                     |
| چادر سیر تے لئی                           | چار سالگی  |
| چادر بر کشیدن (امیت کی)                   | چار چند لاونے (امیت کی)                            |
| چادر راں (ن). ایلیں: ہوا                  | بالا بردن پایہ یا شان۔ افزودن جمالی۔ زیاد کردن شرت |
| چاندی (ن). چاندی                          | چار چھیرا (ن). چار چھوٹے                           |

|  |                |   |                       |
|--|----------------|---|-----------------------|
| چارچ سٹ  | فر درم         | چالی (ہ)                                    | اربعین۔ چهل           |
| چار ٹن   | چارت           | چالیہاں (ہ)                                 | چھلم                  |
| چار جوہر۔ چار غضر                                |                | چالیوال (ہ)                                 | آیت۔ نشان۔ علامت      |
| چار دشماں (ہ)                                    |                | چھمن (ہ)                                    | حلیہ                  |
| چار جست۔ چهار دانگ                               |                | چھرہ (ہ)                                    | چھرہ اتنا (ہ) آمیڈ کی |
| چارپائی (ہ)                                      | تعادہ          | غم گین شدن۔ دل تنگ شدن۔ محروم شدن           |                       |
| چارپائی (ہ)                                      | حلقہ احباب     | چھرہ میرہ (ہ)                               |                       |
| چار عددان (ہ)                                    | چار روئیاں (ہ) | سیما۔ خدو خال۔ "قسمت نمایاں از صورت که شل   |                       |
| علف (ہ)  | چارا           | عموی و سیمای شخص را مین کند۔ "طرح صورت      |                       |
| رفار   | چال            | چخ  | چک (ہ) آمیڈ کی        |
| چالک (ہ)   |                | دفع کردن۔ دور کردن                          | چکنا (ہ) آمیڈ کی      |
| راندہ۔ کار فرما۔ ادارہ کننده۔ تشکیل دہنده        |                | چکنا (ہ) (ہ)                                | چرب                   |
| چال چلنی (ہ) آمیڈ کی                             |                | چکناہٹ (ہ) آمیڈ کی                          |                       |
| فریب دادن۔ دغ بازی کردن۔ حیله بکار               |                | حال رو غنی۔ مانندگی برو غن۔ لیزی۔ نرمی      |                       |
| بردن۔ تغلب کردن۔ گول زنی کردن                    |                | چکڑ (ہ) آمیڈ کی                             |                       |
| چال۔ چال   |                | لای۔ خاکبآب آمینہ۔ خاب                      |                       |
| سلوک۔ اخلاق۔ صفت اختصاصی۔ وضع۔ حرکت۔             |                | سینکڑ سٹلانا (ہ) آمیڈ کی                    |                       |
| رفار   |                | بد نام کردن۔ رسوا کردن۔ افتر ازدن           |                       |
| چال باز (ہ)                                      |                | چکڑوچ پھس جانا جا لانا                      |                       |
| زرنگ۔ نیرنگ باز۔ حیله گر۔ خائن۔ غافل گیر۔ بی سرو |                | (ہ) آمیڈ کی                                 | در گل فرود ماندن      |
| صدرا   |                | چکھا (ہ) آمیڈ کی                            |                       |
| روان۔ جاری (ہ)                                   |                | تو دہ ہیزم کہ مردہ راروی آں می سوزانند      |                       |
| چالو سکھ (ہ)                                     |                | سیصلہ اسیلا (ہ) آمیڈ کی                     |                       |
| نقر روان۔ پول راتج                               |                | جیغ کشیدن یا زدن۔ فریاد زدن۔ زار زار گریستن |                       |
| چالو ہوئا (ہ) آمیڈ کی                            |                | سینکڑ جنمہ نا (ہ) آمیڈ کی                   |                       |
| ریزان شدن۔ جاری شدن                              |                | زمت دادن۔ بسوہ آوردن۔ دامن گیر شدن۔ مز من   |                       |
| چالوورہا (ہ)                                     |                | بودن  |                       |
| سال حال۔ سال روان۔ امسال                         |                |   |                       |

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| کردن  | قراءة۔ قمل  | صیغہ |
| تھگر۔ اندیشہ۔ سخش۔ خورسی۔ تامل              | چتن (ب) (ن) | صیغہ |
| سیم۔ نجاشی۔ سفید پوش                        | چتن (ب) (ن) | صیغہ |
| ردیم (ب) (امیت کی) (چھٹی چڑھائی) کرنا       | چمن کرنا    | صیغہ |
| اندیشہ کردن۔ تھگر کردن۔ وقت کردن۔ توجہ کردن | امیت کی     | صیغہ |
| سیٹلی ایڈن                                  | تمثال       | صیغہ |
| سیٹلی ایڈن                                  | سیٹر کاری   | صیغہ |
| سیوری۔ نقاشی۔ تصویر گری                     | صیغہ        | صیغہ |
| سیٹر کاری کرنا                              | امیت کی     | صیغہ |
| نقاشی کردن                                  | صیغہ        | صیغہ |
| صور   | صیغہ        | صیغہ |
| کرباس۔ پارچہ بادبانی۔ پارچہ علی             | صیغہ        | صیغہ |
| صیغہ  | صیغہ        | صیغہ |
| حروف شکلی۔ خط تصویری                        | صیغہ        | صیغہ |
| صیغہ  | صیغہ        | صیغہ |
| مطالعہ نقاشی۔ مطالعہ بیکرنگاری              | صیغہ        | صیغہ |
| مرقع  | صیغہ        | صیغہ |
| خال مخالف۔ نقطہ نقطہ۔ لک زدہ                | صیغہ        | صیغہ |
| پرک۔ ذرک۔ سرین                              | صیغہ        | صیغہ |
| زدودہ کوب کردن۔ خلاق زدن۔ تازیانہ زدن       | صیغہ        | صیغہ |
| اخطراب۔ بی قراری۔ پریشانی۔ تشویش            | صیغہ        | صیغہ |
| ہوشیار کردن۔ آگاہانیدن۔ ودار باحتیاط کردن۔  | صیغہ        | صیغہ |
| یاد آوری کردن۔ بیال (کسی) آوردن             | صیغہ        | صیغہ |

|   |                        |                                       |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| ਚਿਤਾਉਣੀ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                   | ਨੈਂਬੀਹ                 | ਮ੍ਰਾਂਗ                                |
| ਚਿਤੇਰਾ (ਵਿ)                             | ਤਮਥਾਲ ਗਰ               | ਚਿੜਚਿੜਾ (ਵਿ)                          |
| ਚਿਖਣਾ—ਚਾਦਿਦਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਚਿਖਣਾ—ਚਾਦਿਦਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਜੁਫ਼—ਤੇਨਾ ਜੁਫ਼—ਜੁਫ਼                   |
| ਚਿੱਠੀ (ਨਾਂ: ਪੁ)                         | ਸ਼ਾਰ                    | ਜੇਹਾਨ ਪੜ੍ਹੀ                           |
| ਚਿਪਕਣਾ (ਚੱਕ੍ਕਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)               | ਚੱਖਿਦਾ                 | ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |
| ਚਿਪਕਾਣਾ (ਚੱਕ੍ਕਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਚੱਪਾਨਿਦਾ               | ਬ੍ਰਦਮਾਂ ਖੁਰਦਨ                         |
| ਚਿਪਕਾਈ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                    | ਚੱਪਿਦਾ ਗੀ              | ਚਿੜੀਆ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼; ਬਵਾ)              |
| ਚਿਪਕਾਹਟ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                   | ਲੜਾਤ                   | ਚਿੜੀਆ ਘਰ                              |
| ਚਿਪਕਾਹਟ ਹੋਣਾ (ਵਿ)                       | ਚੱਪਾਂ—ਚੱਪਿਦਾ           | ਚੀਕ—ਫਿਲੀ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                |
| ਚਿਮਟਾ (ਨਾਂ: ਪੁ)                         |                        | ਚੀਕ—ਸੋਗਾਰੀ—ਨਾਲ ਵਡਿਓਨ—ਫਿਲੀ ਵਿਖਾਨ       |
| ਆਤਨ ਗਰ—ਆਤਨ ਕਾਡ—ਦਸਤ ਪਨਾਹ                 |                        | ਚੀਕ—ਚਾਰਾਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |
| ਚਿਮਟੀ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                     | ਕਿਰੇ                   | ਫਿਲੀ ਵਿਖਾਨ ਕਰਨ—ਨਾਲ ਵਡਿਓਨ              |
| ਚਿਰ ਛੁ (ਨਾਂ: ਪੁ)                        |                        | ਚੀਕ—ਚਾਰਾਲਪੂਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)               |
| ਮਦਤ ਯਾਦ—ਮਦਤ ਮਦਿਦ—ਉਰਚੇ ਦਰਾਜ—ਜਮਾਂ ਟ੍ਰੋਲੀ  |                        | ਨਾਲ ਵਡਿਓਨ ਕਰਨ                         |
| ਮਾਨਦਗਾਰ (ਵਿ)                            | ਚਿਰਸਥਾਈ                | ਜੁਗਾਦਿਨ—ਜੁਖਿਕਿਦਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਜੀਕਿਨਾ     |
| ਚਿਰਸਥਾਈ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       | ਦਾਰਾਦਾਰ ਕਰਨ            | ਚੀਕਣ—ਵਾਕਾਂਸ਼                          |
| ਚਿਰ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      |                        | ਚੀਕਣੀ ਮਿਟੀ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)              |
| ਤਾਖਿਰ ਕਰਨ—ਦੀਕਰਨ—ਦਰੰਗ ਕਰਨ—ਭਾਖਿਰ          |                        | ਚੀਚਰ ਜੀਕ                              |
| ਅਨਾਖਣ                                   |                        | ਚੀਗੀ ਪੀ ਪੀ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)              |
| ਚਿੰਜੀਵਤਾ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                  |                        | ਚੀਲਾ (ਨਾਂ: ਪੁ)                        |
| ਦਰਾਜੀ ਅਮਰ—ਅਮਰ ਦਰਾਜ                      |                        | ਚੀਤਾ (ਨਾਂ: ਪੁ)                        |
| ਚਿਰੋਕਾ (ਵਿ)                             | ਦੀਰੀਨੇ                 | ਚੀਬੜਾ (ਨਾਂ: ਪੁ)                       |
| ਚਿਲਮ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                      | ਸਰਗਿਆਨ                 | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਸ (ਨਾਂ: ਪੁ)                   |
| ਚਿਲਮਚੀ (ਚੱਖ੍ਹੀ) (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)           | ਦਸਤ ਥਾਵੀ               | ਚੀਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       |
| ਚਿੱਲਾ (ਨਾਂ: ਪੁ)                         | ਵਤਰ                    | ਕਾਫ਼ਨ—ਦਰਿਦਨ—ਥਕਾਫ਼ਨ—ਕਾਫਿਦਨ—ਾਜ਼ਹਮ ਜਾਕਰਨ |
| ਚਿੜ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                       |                        | ਚੀਰਾ (ਨਾਂ: ਪੁ)                        |
| ਬੀਜਾਰੀ—ਤੱਫ਼ਰ—ਮਗਾਰਿਤ—ਜੂਦ ਰਖੀ—ਤੁਲ ਰਹੀ—ਤੁਲ |                        | ਚੀਲ ਵਾਰਕ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                    |
|   |                        | ਚੀਲ ਦਾ ਰੁਖ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                  |
|   |                        | ਚੀਲ ਦਾ ਰੁਖ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                  |

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| صُراں (ن: پ)                          | شاب           | سر افحمدہ (پ) چپ / تابعدار                         |
| صُمڈ (پ)                              | چاک-چاک       | صُپ (آمیڈ کی) چپ ہو جانا                           |
| صُک وے لے جانا (آمیڈ کی)              | چک کے لے جانا | دم بخود بون- دم بخود شدن- دم بستن- خاموش           |
| در ربودن                              |               | شدن- ساکت شدن- خوشیدن                              |
| صُک-صُکا (پ)                          | چک چکا        | صُپ کراونا (آمیڈ کی)                               |
| انگیزش- تحریک- وادار سازی- اشتغال     |               | خاموشانیدن- ساکت کر دن- قفل برداہن زدن-            |
| برداشنا (آمیڈ کی)                     | چکنا          | خاموش گردانیدن                                     |
| خبردار- آگاہ- ہوشیار- مواظب (پ)       | چکنا          | صُپ کراویا (آمیڈ کی)                               |
| صُکھے پریس (کیا پی)                   | چکویں پریس    | ماست بدہان زدن                                     |
| بہ مرعت- بہ جلدی- زود                 |               | چاپلو (پ) چیکھی                                    |
| صُغلان- واچیدن- چیدن (کی) آمیڈ        | چکنا          | صُپ- گڑپ (پ) چپ کڑپ                                |
| درانج (پ)                             | چغل           | خاموش- کم سخن- ساکت- محتاط در سخن گول              |
| صُغلاں- مسے گئی (ن: ایلی)             | چغل خوری      | صُپ- چان (ن: ایلی)                                 |
| چغل- در اندازی- سخن چینی- نہایی- غیبت |               | خاموشی- سکوت- سکوت کامل                            |
| صُغلاں (ن: ایلی)                      | چغلی          | صُپ- چاپ (کیا پی) چپ چاپ                           |
| صُغلاں اباں کرنا (آمیڈ کی)            | چغلیاں کرنا   | آہستہ- بی صدا- با خوشی- بی سرو صدا- نہایی- در خفیہ |
| اسباب چینی کر دن                      |               | صُپ رہنا (آمیڈ کی) چپ رہنا                         |
| صُغلاں کرنا (آمیڈ کی)                 | چغلی کرنی     | خاموش ماندن- قفل کر دن- متحمل شدن- برداری          |
| لیچار گھن- حرف در تفازدن- سعایت       |               | کر دن در برابر                                     |
| صُبھ (ن: ایلی)                        | منقار         | صُپ وٹ لئیں (آمیڈ کی) چپ وٹ لئیں                   |
| بدل- لطیفہ (پ)                        | چکلا          | تن زدن   |
| زنجہ (آمیڈ کی)                        | چکلی و جاونی  | صُپاسیں / صُپاسے (کیا پی) چپاسیں / چپاسے           |
| در آوردن- چنیدن (آمیڈ کی)             | چننا          | درہنہ اطراف- بر سو                                 |
| چڑالی (پ)                             | چھالی         | صُبک و گیان (پ) چنک و گیان                         |
| چڑالیاں (پ)                           | چھالیاں       | علم مقناطیس- دانش خواص مقناطیسی                    |
| صُھاٹی (ن: ایلی)                      | رعن           | مقناطیسی (پ) چنکی                                  |
| خیرہ شدن (آمیڈ کی)                    | چند صیاد      | صُبکی (پ) چنکی کھیتیر                              |
| صُکوت- خاموشی- بی زبانی (ن: ایلی)     | چپ            | میدان مقناطیسی                                     |

|   |                                   |                                   |                                   |             |            |              |        |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|--------|
| بُوس و کنار (پ) (ن)                       | چینیں آنگن                        | بوس و کنار (پ) (ن)                | چینیں آنگن                        | آمیڈ کی     | چوکنا      | آمیڈ کی      | چوکنا  |
| چوتھے                                     | چوتھے                             | چوتھے                             | چوتھے                             | اشتہاہ کردن | لغزش خوردن | غلط کردن     | فراموش |
| صُبڑا                                     | صُبڑا                             | صُبڑا                             | صُبڑا                             | کردن        | غفلت کردن  | فرودزار کردن |        |
| خلیدن                                     | خلیدن                             | خلیدن                             | خلیدن                             | چھٹا        | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| غوطہ                                      | غوطہ                              | غوطہ                              | غوطہ                              | چھپی        | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| غواص                                      | غواص                              | غواص                              | غواص                              | چھپی مار    | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| چُبُریماڑ                                 | چُبُریماڑ                         | چُبُریماڑ                         | چُبُریماڑ                         | چھپی مارنی  | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| چُبُری                                    | چُبُری                            | چُبُری                            | چُبُری                            | آمیڈ کی     | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| فرور فتن                                  | فرور فتن                          | غوطہ درشدان                       | غوطہ خوردن                        | مجذوب       | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| چُمُٹن                                    | چُمُٹن                            | چُمُٹن                            | چُمُٹن                            |             | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| بوسہ۔ ماق                                 | بوسہ۔ ماق                         | بوسہ۔ ماق                         | بوسہ۔ ماق                         | چُمُٹن      | چوڑہ       | چوڑہ         | چوڑہ   |
| چُمُٹن اتے آنگن                           | چُمُٹن اتے آنگن                   | چُمُٹن اتے آنگن                   | چُمُٹن اتے آنگن                   | (ہاکاں)     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| بوس و کنار                                | بوس و کنار                        | بوس و کنار                        | بوس و کنار                        |             | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| ماچ کردن                                  | ماچ کردن                          | ماچ کردن                          | ماچ کردن                          | چُمُٹن دینا | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| بوسہ زدن۔ بوسیدن                          | بوسہ زدن۔ بوسیدن                  | بوسہ زدن۔ بوسیدن                  | بوسہ زدن۔ بوسیدن                  | آمیڈ کی     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چُمُٹی لئٹنی                              | چُمُٹی لئٹنی                      | چُمُٹی لئٹنی                      | چُمُٹی لئٹنی                      | آمیڈ کی     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| بوسیدن۔ بوسہ زدن۔ بوسہ گرفتن از۔ ماچ کردن |             | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چُرخنا                                    | چُرخنا                            | چُرخنا                            | چُرخنا                            | (آمیڈ کی)   | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چوچالہ کردن                               | چوچالہ کردن                       | چوچالہ کردن                       | چوچالہ کردن                       | چوچالہ کردن | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| دار کردن                                  | دار کردن                          | دار کردن                          | دار کردن                          |             | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| دز دیدن                                   | دز دیدن                           | دز دیدن                           | دز دیدن                           | آمیڈ کی     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چُراغی                                    | چُراغی                            | چُراغی                            | چُراغی                            | چُراغی      | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چُراغی دا گوڈا/- پھر                      | چُراغی دا گوڈا/- پھر              | چُراغی دا گوڈا/- پھر              | چُراغی دا گوڈا/- پھر              | آمیڈ کی     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| تاخ۔ گردش زادو مرگ                        | تاخ۔ گردش زادو مرگ                | تاخ۔ گردش زادو مرگ                | تاخ۔ گردش زادو مرگ                |             | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چار راہ۔ چار سو۔ چار سو                   | چار راہ۔ چار سو۔ چار سو           | چار راہ۔ چار سو۔ چار سو           | چار راہ۔ چار سو۔ چار سو           | (پ) (ن)     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| موقد۔ اجاق                                | موقد۔ اجاق                        | موقد۔ اجاق                        | موقد۔ اجاق                        | (پ) (ن)     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| پہنا۔ عرض۔ وسعت                           | پہنا۔ عرض۔ وسعت                   | پہنا۔ عرض۔ وسعت                   | پہنا۔ عرض۔ وسعت                   | (آمیڈ کی)   | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چُرائی                                    | چُرائی                            | چُرائی                            | چُرائی                            | (آمیڈ کی)   | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چُسلا                                     | چُسلا                             | چُسلا                             | چُسلا                             | (آمیڈ کی)   | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چو شیدن۔ مزیدن۔ جوشدن                     | چو شیدن۔ مزیدن۔ جوشدن             | چو شیدن۔ مزیدن۔ جوشدن             | چو شیدن۔ مزیدن۔ جوشدن             |             | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| چُھے                                      | چُھے                              | چُھے                              | چُھے                              | (پ) (ن)     | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |
| فار                                       | فار                               | فار                               | فار                               |             | چوڑیاں     | چوڑیاں       | چوڑیاں |

|  |                      |                          |
|--|----------------------|--------------------------|
| چٹاں (نام، ایلکٹریکی، بہت)             | اضراب                | چلنا ڈھنڈنا (آمیڈ کی)    |
| چٹی (نام، ایلکٹریکی)                   | راس-سر               | مردن۔ قالب عضری تھی کردن |
| چلن (نام، ایلکٹریکی)                   | انتخاب               | چسرا کھینڈنا (آمیڈ کی)   |
| انتخاب کردن (آمیڈ کی)                  | چون کرنا             | زربازی کردن              |
| گزیدن (آمیڈ کی)                        | چون کرنی             | شب پاس۔ خبر گیر          |
| چلن (ہی)                               | چیدہ                 | چارپا                    |
| چلنیاں بھرنا (ہاکاں)                   | صفوہ اخبار           | چارپایاں                 |
| چوبکی (پ)                              | چوبدار               | چار چند                  |
| دست کج۔ دزد۔ سارق (ہی)                 | چور                  | چار تاکردن (آمیڈ کی)     |
| دزدگفت (آمیڈ کی)                       | چور پھرنا            | سی و چمار                |
| چر-بازاری (نام، ایلکٹریکی)             | دزد بازار۔ نہ بازاری | سی و چارم                |
| دزدی۔ سرقة (نام، ایلکٹریکی)            | چوری                 | چارم۔ رائے               |
| چری ہے جائی (آمیڈ کی)                  | کش رفت               | چارو ہم                  |
| چری کرنی (آمیڈ کی)                     |                      | چارو ہم                  |
| دزدیدن۔ دزدی کردن۔ سرقت کردن۔ بردن مال |                      | برنج۔ ارز                |
| کسی رامکرد فریب                        |                      | پن                       |
| دزادنیدن (آمیڈ کی)                     | چوری کروں            | اشدق                     |
| چری ہے کم کرنا (آمیڈ کی)               |                      | صفحہ                     |
| تاقاچ شدن                              |                      | از پہنا۔ از عرض          |

|  |  |   |
|--|--|---|
| ہکڑا (ن: پ)  | ازاب (آمیڈ کی)                           | چپ دادن (رہانیدن۔ رہاندن) (آمیڈ کی) جھٹکڑا (آمیڈ کی) جھٹکٹا (آمیڈ کی) |
| ہکٹے ہٹا عیلان (آمیڈ کی)                           | خستہ کردن۔ ازپار آوردن۔ خگستہ دادن۔ ہزیت | ہٹا عیلان (آمیڈ کی) جھٹکٹا (آمیڈ کی)                                  |
| دارن۔ مغلوب ساختن                                  |  | جلنگ جلنگ کردن۔ جریجیدن   |
| ہکوئے ہیں (ن: ایسٹن)                               | مسد                                      | ہٹکار (ن: ایسٹن)  |
| سایہان۔ آفتاب گیر۔ زوال                            | ہٹسا جما                                 | بام۔ سقف  |
| ہٹکھندر (ن: ایسٹن)                                 | خلد                                      | ہٹلنا (آمیڈ کی)   |
| ہٹلنا (آمیڈ کی)                                    |  | مقف کردن۔ سقف دار کردن  |
| بادانشان کردن۔ پاک کردن۔ باد دادن۔ بد گوئی         |  | ہٹ دا ہٹ لانا (آمیڈ کی)   |
| کردن۔ رسوا کردن۔ افترا۔ زدن بہ                     |  | چھ کردن   |
| ہٹ-ہٹا / ہٹھا / ہٹھائی                             |  | تسقیف   |
| مفارقت۔ دوری۔ طلاق                                 | (ن: ایسٹن) ن: پ                          | ہٹری۔ ظلم   |
| ہٹ جانا (آمیڈ کی)                                  |  | چتر زدن (آمیڈ کی) چتری لاؤنی  |
| جد اشدن۔ ترک وظیفہ کردن۔ باقی گذاردن۔ بارث         |  | ہٹوا عیلان (آمیڈ کی)  |
| گذاشتن۔ بیردن آمدن از                              |  | مقف کناییدن۔ سقف دار کناییدن  |
| گذاشتنی  | ہٹلے ہو یوگ (ہ)                          | زنبرخانہ۔ لانہ  |
| ہٹلے ہو (آمیڈ کی)                                  |  | ہٹا   |
| نجات دادن۔ رہا کردن۔ ترک کردن۔ گذاشتن۔             |  | چھل و شش  |
| دست برداشتن۔ بیک کنار نہادن                        |  | ہٹالی (ہ)   |
| بیردن کردن۔ دفع کردن۔ از روح پلید رہا کردن یا خالی |  | چھل و ششم   |
| کردن۔ تکان دادن۔ تکاندن۔ جنباندن                   |  | ہٹی (ہ)   |
| ہٹ دینا (آمیڈ کی)                                  | چھڑ دینا دہلنا                           | سی او شش  |
| و اگذاشتن۔ و اگذار کردن۔ آزاد کردن۔ از بند رہا     |  | ہٹیہاں (ہ)  |
| کردن۔ عنان باز کشیدن                               |  | سی او ششم   |
| ہٹ دینا کیسے کہنوں ہے                              |  | ہٹے (ن: پ) ہٹے  |
|  |  | موی ٹولیدہ۔ زلف پریشان  |
|  |  | علم عروض (ن: پ) ہٹنڈ شاستر  |
|  |  | ہٹنڈ ساز۔ شاعر (پ) ہٹنڈ کار   |
|  |  | چاپ شدن۔ طبع شدن (آمیڈ کی) چھپنا                                      |
|  |  | ہٹپلن (ن: ایسٹن) چھپری  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ہپاٹلنا (آمیڈ کی)   | چھپاؤنا (آمیڈ کی)                              | پوست کنندہ کنانیدن                          |
| چاپ کنانیدن۔ طبع کنانیدن۔ چاپ و نشر کردن                    | ہڈاں مارنیاں (ہاکاپس)                          | چھپراں مارنیاں (ہاکاپس)                     |
| ڈریاچہ۔ مرداب (بی بی نا) چھپیر                              | ایستادگی کردن۔ حریف شدن۔ تاب آوردن۔            | ایستادگی کردن۔ حریف شدن۔ تاب آوردن۔         |
| ہپاٹی (نام) چھپائی  | مخالفت کردن با۔ ضدیت کردن با۔ ضد قراردادن۔     | مخالفت کردن با۔ ضدیت کردن با۔ ضد قراردادن۔  |
| ہب (نام) چھب  | مقابل قراردادن                                 | مقابل قراردادن                              |
| زیبائی۔ جمال۔ خوبی۔ خوش اندامی۔ خصلت پسندیدہ۔ خوش گلی۔ تابش | ظل   | ظل  |
| ہببی (بی بی) چھبی   | پست و شش                                       | خیمه گاہ۔ لشکر گاہ۔ اردو (نام) چھارنی       |
| ہببیلا (بی بی) چھبیلا                                       | طرح دار  | ہڈاٹی مارنی ہے جالا                         |
| ہببیون (بی بی) چھبیوال                                      | پست و ششم                                      | چھائیں مارنیں ہو جانا                       |
| ہر (بی بی نا) چھرا  | سام سمجھ                                       | (آمیڈ کی)                                   |
| ہل (بی بی نا) چھل   | دعا۔ فریب۔ عشوہ۔ مکر۔ تزویر۔ ریا و نیر گنگ     | نپدید شدن۔ غائب شدن۔ محو شدن۔ پیدا نہ ہون۔  |
| ہلہری (بی بی) چھلہری  | بی تزویر۔ بی حیله۔ بی غل و غش۔ سادہ۔ این۔ راست | نایاب شدن                                   |
| کردار۔ دیانت آئیز   | دعا۔ فریب۔ عشوہ۔ مکر۔ تزویر۔ ریا و نیر گنگ     | دوغ   |
| ہلکلنا (آمیڈ کی)  | لبریز شدن۔ طغیان کردن                          | ہڈاہ (نام) چھاہ                             |
| ہلکلنا (آمیڈ کی)  | دعا نہ ہون۔ فریب دار                           | ہڈاہ ویلا (بی بی نا) چھاہو ہیلا             |
| فریب دھی (بی بی نا) چھل و وہار                              | ہلہری۔ نا شتاںی۔ صحانہ۔ وقت ناہار۔ ہنگام سحر   | نہار۔ ناشتاںی۔ صحانہ۔ وقت ناہار۔ ہنگام سحر  |
| غول بیابانی (بی بی نا) چھلواڑا                              | آئیز کرنی (آمیڈ کی)                            | آئیز کرنی (آمیڈ کی)                         |
| کیا در۔ مکار۔ حیله گر (بی بی) چھلی                          | سایہ الحمدان۔ سایہ زدن۔ پناہ دادن۔ غمہ داری    | سایہ الحمدان۔ سایہ زدن۔ پناہ دادن۔ غمہ داری |
| ہلکیا (بی بی) چھلکنا  | کردن۔ لطف داشتن در حق                          | کردن۔ لطف داشتن در حق                       |
| دعا باز۔ فریبندہ۔ فریب دہنڈہ۔ مغبوں کنندہ۔ جعل              | ڈانٹنا (آمیڈ کی)                               | ڈانٹنا (آمیڈ کی)                            |
| ساز۔ عیار   | فریب دار                                       | ڈانٹنا (آمیڈ کی)                            |
| ہڈکوا (بی بی نا) چھڑکا                                      | ریزش   | بر گزیدن۔ انتخاب کردن۔ سوا کردن۔ الگ کردن۔  |
| ہڈکوا (بی بی نا) چھڑکا                                      |  | کم کردن۔ تقلیل دادن۔ کاہش دادن              |
|   |  | سازگار                                      |

|  |  |                        |   |
|--|--|------------------------|---|
| ڈالن   | سبوس۔ سخالہ                              | دھنکا (نام ب)          | پوز بند                                       |
| ڈالنا  | غزال کر دن                               | دھنکون                 | شش گوش۔ شش گوش۔ شش پبلو                       |
| ڈالن۔ بیٹن کرنی کرنا   | (آمیڈ کی) حچاننا                         | (آمیڈ کی) حچاننا       | رش  |
| غور ری کر دن۔ واری کر دن   | (آمیڈ کی) حچان بورا                      | (آمیڈ کی) حچان دینا    | دھنٹا (ب) زدن۔ ترخ کر دن۔ (باترخ) آکوہ کر دن۔ |
| ڈالن۔ بیٹا   | سخالہ                                    | دھنٹے پائیلا           | پاشیدن  |
| ڈالنا  | چتر باز                                  | (آمیڈ کی) حچنے پوئا    | لحظہ۔ دم۔ آن                                  |
| ڈالنی  | آردیز۔ غزال                              | (آمیڈ کی) حچانی        | ساعتی۔ عارضی۔ نایادر                          |
| ڈالن۔ بیٹا   | ڈاپ                                      | (آمیڈ کی) حچا پ        | بی ثبات                                       |
| ڈاپ کر دن۔ طبع کر دن   | (آمیڈ کی) حچا پا                         | (آمیڈ کی) چحن بھنگر    | دھنٹ۔ ڈنگر                                    |
| ڈاپخانہ۔ مطبع  | (آمیڈ کی) حچا پخانہ                      | (آمیڈ کی) چھتر کھانے   | ڈھنٹر کھانے                                   |
| ڈاپ مارنا  | (آمیڈ کی) حچا پمارنا                     | ڈھنٹر کھانے            | پست شدن۔ خوارشدن۔ جریہ دارشدن۔ رساشدن         |
| حملہ کر دن بر۔ مور دحملہ قرار دادن۔ تاخت کر دن۔ تاخت و تاز کر دن | حملہ کر دن بر۔ مور دحملہ قرار دادن۔ تاخت | ڈھنوب شدن              | مغضوب شدن                                     |
| ڈاپخانہ  | مطابع                                    | ڈھنڑے ڈھنڑی            | ڈھنڑے ڈھنڑی                                   |
| ڈاپ (تزاو)   | کھہ                                      | چھترو چھتری ہوئی       | چھترو چھتری ہوئی                              |
| ڈاپ مارنی  | چھاں مارنی                               | ہوئی ہوئی              | کش مکش کر دن۔ زناع کر دن۔ باکفیش زد و خورد    |
| جستن۔ خیز کر دن۔ جفت کر دن۔ جرأۃ مباررت کر دن بہ (کاری)          | جستن۔ خیز کر دن۔ جفت کر دن۔ جرأۃ مباررت  | کر دن بہ (کاری)        | کر دن بہ (کاری)                               |
| ڈالا   | آبلہ                                     | آبلہ                   | آزر دہ شدن۔ رنجیدن۔ عبوس شدن                  |
| ڈالا   | قفرات                                    | ڈالا                   | ڈالا  |
| آبلہ زدن   | آبلہ زدن                                 | آبلہ زدن               | سوراخ۔ گوداں۔ چاک۔ دریدگی۔ درز۔ سوراخ۔        |
| ڈالا   | ظلال                                     | ظلال                   | رخنه۔ عیب۔ نقش                                |
| ڈش برابر۔ شش لا  | ڈیا ہو را                                | ڈیا ہو را              | ڈیسا ہوئیا                                    |
| ڈھنک   | علس۔ علسر۔ عطاس۔ اشنوس                   | علس۔ علسر۔ عطاس۔ اشنوس | سوراخ کنائیدن۔ معجنہ کنائیدن                  |
| ڈھنکا  | علسر کر دن                               | علسر کر دن             | ڈھندا   |
| ڈھنک مارنی   | (آمیڈ کی) چھنکنا                         | (آمیڈ کی) چھنکنا       | ڈھندا   |



|   |   |  |
|---|---|--|
| ਛਪਣਾ ਚੰਦ ਜਾਂ ਸੂਜਨ ਦਾ                    | ਚੱਪਿਆਂਚੰਡ ਜਾਂ ਸੂਜਨ ਦਾ ਸੁਰਜ ਵਾਂ            | آخر۔ خاتمه۔ پایان۔ انتہا۔ انجام            |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               | غروب                                      | ਛੇਤੀ (ਕਿਵਿ) چਹਿਤੀ                          |
| ਛਾਉ/ਛਾ                                  | ਭੂ (ਨਾ) چੱਪਾ/ਚੱਪਾ                         | ਫੋਰ۔ بਿਦਰੱਗ۔ ਬੇ ਸਰੂੰਤ۔ ب੍ਰਾਵਾਈ۔ سਰੀਖਾ      |
| ਅਖ਼ਤ۔ اਖ਼ਤਾ                             | ਪ੍ਰਿਸ਼ਿਡਾਂਗੀ۔ نਸਾਨ ਗਾਹ۔ مੁੰਕਨ۔ ਮੁੰਲ ਅਖ਼ਤਾ | (ਅਮਿਤ ਕਿ) چਹਿਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ                  |
| ਛਾਉਣਾ                                   | ਚੱਪਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | شਟਾਬ ਕਰਨ। شਟਾਬਿਦਨ۔ ਔਲੇ ਕਰਨ। ਤਰਲੁ ਕਰਨ।      |
| ਫਰੋਪ੍ਰਿਸ਼ਿਡਾਂ                           | ਪ੍ਰਿਸ਼ਿਡਾਂ ਕਰਨ। ਮੁੰਨੀ ਸਾਖ਼ਤਾ              | ਤੌਦਰ ਫੱਤਨ۔ ਤੌਦਰਾਂਦਨ                        |
| ਛਾ                                      | ਸਾਥੁਰ                                     | ਛੇਤੀ ਜਾਣ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) چਹਿਤੀ ਜਾਣਾ             |
| ਛਾ ਮਾਰਕੇ ਗ਼ਹਾਲ ਕਰਨ।                     | ਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਇਲ ਕਰਨ।                       | فرਾਖ ਰਫ਼ਤਨ۔ بੱਸ਼ਾਬ ਵੱਤਗਿਲ ਰਫ਼ਤਨ            |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               | ਨੁਮੂੰਦਾਨ                                  | ਛੇਤੀ ਨਾਲ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) چਹਿਤੀ ਨਾਲ              |
| ਛਾਗੀ ਵਾਣਾ                               | ਕਾਰਦੋਚਾਗਾਲ (ਵਾਕਾਂਝ)                       | جਦ ਬੁਗ੍ਦ۔ ਬੇ ਸਰੂੰਤ۔ ਫੋਰਾ                   |
| ਛਾਵਣਾ                                   | ਚੁਪ੍ਰਕਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) چਹਿਤੀ پਹੁੰਚ ਜਾਣਾ |
| ਅਵਦਾਨ                                   | ਅਵਦਾਨ। ਰਹਾਕਰਨ। ਅਨਾਖ਼ਨ। ਸੱਤੇ ਕਰਨ।          | پੀ ਰਿਦਨ                                    |
| ਵਲ ਸ਼ਦਨ                                  | ਪਾਈਨ ਅਵਦਾਨ                                | ਥਮ   |
| ਛੂਣਾ                                    | (ਵਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਾ                              | ਛੇਦ ਹੋਣ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਹੋਣਾ           |
| ਤਹੀ۔ ਖਾਲੀ                               | ਮਗਰੂਦੇ۔ ਪਾਂਠਦੇ۔ ਸੁਮੂਲੀ۔ ਬੀ ਆਹੀਤ۔ ਬੀ       | ਦੁਰਾਖ ਕਨਾਂਦਿਨ                              |
| ਮਗਰੂ                                    | ਮਗਰੂ। ਤੁਰਫ਼ਤ                              | ਛੇਦ ਕਰਾਉਣ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਕਰਾਉਣਾ       |
| ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ                              | ਚੁਪ੍ਰਤਾਵਰੋਗ (ਵਾਕਾਂਝ)                      | خط قاطੁੰਖ۔ خط قطੁੰਖ ਕਨਦੇ                   |
| ਧਿਯਾਵਾਂ                                 | ਧਿਯਾਵਾਂ।                                  | ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ         |
| ਧਿਹੁ                                    | ਧਿਹੁ।                                     | ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ         |
| ਧਿਹੁ ਰੋਗ                                | ਧਿਹੁ ਰੋਗ।                                 | ਰਖਨੇ ਕਰਨ। ਦੁਰਾਖ ਕਰਨ। ਆਵਦਨ। ਮੁੰਖਨੇ ਕਰਨ।     |
| ਧਿਹੁ ਰੋਗ ਲਗ ਜਾਣਾ                        | ਧਿਹੁ ਰੋਗ ਲਗ ਜਾਣਾ                          | ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ         |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               | ਵਾਗਿਰੇਹ ਕਰਨ                               | ਜਹਾਤ ਸਾਡਾ                                  |
| ਛੇ                                      | ਛੇ  | ਛੇਵਾਂ। (ਵਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ                  |
| ਛੇਕਣਾ                                   | ਛੇਕਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) چਹਿਕਨਾ                   | ਸਦਸ  |
| ਅਤੇ ਅਤੀਅ ਮਹੁਰਮਾਂ ਕਰਨ।                   | ਅਤੇ ਅਤੀਅ ਮਹੁਰਮਾਂ ਕਰਨ।                     | ਛੇਵਾਂ। (ਵਾਕਾਂਝ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ              |
| ਕਰਨ। ਤਕਫ਼ਿਰ ਕਰਨ। ਤ੍ਰਦਕਰਨ। ਅਤੇ ਖੁਦਨਾਂਤਨ। | ਕਰਨ। ਤਕਫ਼ਿਰ ਕਰਨ। ਤ੍ਰਦਕਰਨ। ਅਤੇ ਖੁਦਨਾਂਤਨ।   | ਛੇਵਾਂ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ             |
| ਛੇਕਲ                                    | ਛੇਕਲ। (ਵਿ) ਚੁਪ੍ਰਕਲ                        | ਨਾਹਕ (ਜਨੀ)۔ سਤੋਹ ਆਓਵੀ۔ ਆਵਦਗੀ۔ ਆਵਾਰ۔ ਆਵਿਤ۔  |
| ਦਰਦਸਰ                                   | ਦਰਦਸਰ।                                    | ਛੇਵਾਂ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ             |
| ਲਾਸ                                     | ਲਾਸ।                                      | ਛੇਵਾਂ। (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਚੁਪ੍ਰਹਿਦ ਰੇਖਾ             |

|  |  |
|--|--|
| دست زدن۔ لمس کر دن۔ تماس کر دن۔ بساویدن۔       | (ہ) چھوٹا ہੋਣا (ہ) چھوٹا                       |
| متاثر کر دن۔ کاربے ہودہ کر دن۔ بے ہودہ گذراندن | کوچک۔ خرد۔ کوتاہ۔ مختصر۔ زیر دست۔ حقیر۔ بی     |
| وقت۔ تعریض                                     | مقدار  |
| ਛੇਤ੍ਰ ਪਾਇੰਡੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | خردوکلان (ਵਾਕਾਂਸ਼) چھੋਟਾਂ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       |
| آغاز کر دن حرکت نامن غوب                       | کوتاہ شدن۔ کم شدن                              |
| ਛੇਤ੍ਰ ਪੈਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           | ਛੇਤ੍ਰ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) چھੋਟਾਂ ਕਰਨਾ               |
| طرح شدن حرکت اضطراب انگیزیار بخش آمیز          | کوتاہ (ਤਰ) کر دن۔ مختصر کر دن۔ خلاصہ کر دن۔ کم |
| ਛੇਤ੍ਰ دار (پ) (ن): چھੀਰਦੂ                      | کر دن  |
| ਛੈਣ (ن): چੜਿਆ                                  | سغارਤ۔ صفر۔ خردی۔ کوچک                         |
| ਛੈਣی (ن): ਇਲਿੱਡਿ                               | محزبیہ   |
| ਛੈਣے (ن): پੁ: ਬਵਾ                              | ਛੇਟਾ ਪਿੱਡ (ਵਾਕਾਂਸ਼) چਹੂਟਾਂਪੰਡ                  |
| ਖੜ੍ਹ زدن (ਅਮਿਤ ਕਿ) چੱਖਿੰਦੇ ਵਜਾਉਣਾ              | ਛੇਟਾ ਮਕਾਨ (ਵਾਕਾਂਸ਼) چਹੂਟਾਮਕਾਨ                  |
| ਛੇਲ (ہ) چੁਲ                                    | ਛੇਟਾ-ਮੇਟਾ (ہ) چਹੂਟਾਂਮੌਲਾ                       |
| خوش اندام۔ زیباد۔ خوشگل۔ مرد روز۔ فیسو۔ شخص    | ਮعمولی۔ عمومی۔ متفرقہ۔ چੰਨਦਰੋ                  |
| خود نما۔ آدم جلف و خود ساز                     | ਛੇਟਾ-ਵੱਡਾ (ہ) ਪੁ: ਪੁ:                          |
| ਛੋਹਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                | خرد و کਲਾਨ۔ خرد و بੰਗ                          |
| آغاز کر دن۔ آغاز نہادن۔ شروع کر دن۔ دخالت      | ਛੇਟੀਆਂ (ਨ): ਇਲਿੱਡਿ: ਬਵਾ                        |
| کر دن۔ اਨਾਬ شدن                                | جزذیات۔ جزئیات                                 |
| ਛੋਹਰ (پ) (ن): چੁਹੂਰ                            | ਛੋਹੀਆਂ ਛੋਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ             |
| ਛੋਹਰ پੱਧ۔ دختر (ਨ): ਇਲਿੱਡਿ                     | خردہ   |
| ਛੋਹਰی (ਨ): چੁਹੂਰੀ                              | ਛੇਟੀਆਂ ਛੋਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਗਾਉਣੀਆਂ                 |
| ਛੋਹਲا (ਵਿ) چੁਹੂਲਾ                              | ਛੋਹੀਆਂ ਛੋਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਗਾਉਣੀਆਂ                 |
| ਛੋਹਲਪਣ (ਨ): ਪੁ: ਪੁ:                            | (ਅਮਿਤ ਕਿ) چੁਹੀਆਂ ਚੁਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ   |
| چਾਕ دستی۔ سਕ دستی۔ جلاadt                      | دلہ دزدی کر دن                                 |
| امر (پ) (ن): چੁਕੁਰਾ                            | ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ                 |
| ਛੋਹਰ (ਨ): ਇਲਿੱਡਿ                               | رسائل  |
| تخفیف (بابت پر داخت پولی پیش از سر رسید)۔ نرخ  | ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ (ਨ): ਇਲਿੱਡਿ                          |
| تخفیف۔ کاہش۔ معافیت                            | دفترچہ   |
| ਜ (ਇਲਾਵਾ: ਸੰਬਾ) چੁਹੁٹ / بیال                   | ਛੋਟੀ ਗਠੀ گਹਰੀ (ਨ): ਇਲਿੱਡਿ                      |

|                                 |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| ڈیٹی ڈالی (چھوٹی ڈالی) (ہاکانہ) | سر شاخہ | آہستہ۔ بی صد ا۔ گھنیانہ۔ بے سکی                     |
| ڈیٹی پُسٹک (ہاکانہ) چھوٹی پُسٹک | رسالہ   | خود   |
| ڈیٹے بندی (ہاکانہ) چھوٹے موتی   | شذرات   | ڈیٹا (ن) چھوڑا (پ)                                  |
| ڈیپلے (کوہاڑا)                  |         | ریزہ۔ خردہ۔ جیکہ۔ تیکہ باریکی از چوب و سنگ دماند آں |

|  |  |  |
|--|--|--|
| جس (ن، پ)                                  | شرت۔ ناموری                                  | بیدار کردن۔ ایقاظ (جگھٹنا) (امیت کی)       |
| زہریل (ن، پ)                               | رخت عروس                                     | زینگال دور کرنا (جنگل دور کرنا) (امیت کی)  |
| زگ (ن، پ)                                  | دمحانہ                                       | صیقلی کردن                                 |
| زگ/زگات/سمسار (ن، پ)                       | جگ/جگت/سنار                                  | جویا                                       |
| زگات (ن، پ)                                | دنیا۔ جہان۔ عالم                             | نبرد ناد                                   |
| زگات-کشا۔ جہانستان (ن، پ)                  | جنگیت  | غزیہ                                       |
| زگات-چڑھا (ن، پ)                           | جگت کرو                                      | جنگی ترانہ پڑھنا (امیت کی)                 |
| زگات-لانام (ن، پ)                          | جگپتی/جگدیش                                  | رجز خواندن                                 |
| زگات-چڑھا (ن، پ)                           | جان کخداد۔ جہان پادشاہ۔ جہان خسر و جہان دادر | غرامات                                     |
| زگات-پرنسپ (ن، پ)                          | شره آفاق۔ مشور عالم                          | نادگان                                     |
| زگات-چیڑ (ن، پ)                            | جگت ریت                                      | دادگستر۔ قاضی۔ حاکم عدالت                  |
| زگات-دریج دنیا (ن، پ)                      | رسم درواج دنیا                               | زمار                                       |
| زگات-باشہ (ن، پ)                           | جگ راج                                       | اجذاب                                      |
| زگات-کرا (ن، پ)                            | جگراتا کرنا (امیت کی)                        | جذب کردن (امیت کی)                         |
| زگ-زندہ داشن                               | شب زندہ داشن                                 | جذب کرنا (جنگل کرنا) (امیت کی)             |
| زگ لئی سینا توں (ن، پ)                     | سپاہ کردن                                    | زائدان۔ بچ آوردن۔ تولید کردن۔ زادن         |
| زگل (ن، پ)                                 | محوط   | زدن (ن، پ) جتن                             |
| زگلے دشت۔ نیستان۔ غاب۔ پیلان۔ ہامون (ن، پ) | محاط   | کوشش۔ سعی۔ جدو جمد۔ اشتعال و محنت          |
| زگلا (ن، پ)                                | زگلا   | زدن کرنا (امیت کی)                         |
| زگلا لائوں (ن، پ)                          | زده ساختن۔ زده کشیدن                         | سعی کردن۔ کوشیدن۔ جدو جمد کردن۔ محنت کشیدن |
| زگلی (ن، پ)                                | دشتی   | زدن کرنا (امیت کی)                         |
| زگلی آدمی (ن، پ)                           | دشت بان                                      | کارانیدن۔ کوشش کنانیدن                     |
| زگلی گونگلو (ن، پ)                         | شقائق  | سال نامہ                                   |

|                          |                          |                                     |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| جادو جنبل کردن           | ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    | غنجੇ شدن                            |
| ਜਤਾਊਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | ਆਕਾਬੀਨ                   | ذخیرہ کردن                          |
| ਜਤੋਂ ਉਖੇੜਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    | ਜਤੋਂ ਆਖੀਰਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਸਾਇਦਨ                               |
| ਜਥੁਂ                     | ਜਥੁਂ                     | ਮਾਰੇਵਾਰ                             |
| ਜੰਦਗ ਮਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਗੁਰਮਾਰਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)        | ਜਮਾਂਦਰੂ (ਵਿ)                        |
| ਜੰਦਰੇ                    | ਜੰਦਰے (ਨਾਂ ਪੁ: ਬਵ)       | ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨ੍ਹਾਂ (ਨਾਂ ਪੁ)            |
| ਜੰਦਰੇ                    | اਨਕਾਲ                    | کੁਰਮਕੀ - ਕਮ                         |
| ਜਦੋਂ (ਕਿਵਿਵਿ)            | چੁਨ                      | ਤਾਰੀਧ - ਮਾਹੋਵਾਨੇ (ਪੁ)               |
| ਜਨ ਸਮੂਹ - ਜ਼ਹੂਰ (ਨਾਂ ਪੁ) | ਜਨ ਸਮੂਹ - ਜ਼ਹੂਰ (ਨਾਂ ਪੁ) | ਜਮਾਲ - ਗੋਟਾ (ਨਾਂ ਪੁ)                |
| ਜਨ - ਗਾਣਨਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ)  | ਜਨ ਗਨਨਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ)     | ਜਮਰ (ਵਿ)                            |
| ਸਰਥਾਰੀ - ਸਰਥਮਾਰੀ         |                          | ਫਰਸਦੇ - ਏਹਮ ਰਿੱਖੇ - ਏਫਰਡੇ ਸ਼ਦੇ       |
| ਜਨਮ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ)         | ولاد                     | ਸ਼ਿਲੀਖ                              |
| ਜਨਮ - ਪਤੱਗੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ) | ਜਾਂਧ                     | ਮਾਂ - ਆਪ                            |
| ਜਨਮ ਭੂਮੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ)    | ਜਨਮ ਭੂਮੀ                 | ਫੁਝ - ਖੁਹੀ                          |
| ਮੁਲਦ - ਮੁਤੱਨ - ਜਾਗਾਹ     |                          | ਖੜਾਬ                                |
| ਜਨ੍ਹਨੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    |                          | ਪਚਾਂ - ਸੂਣਕੀ - ਵਾਸੋਣਕੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ) |
| ਜਖ਼ਬੋਦਨ - ਜਖ਼ਕੁਣ         |                          | ਜਲ ਮਨ                               |
| ਜਨੇਊ (ਨਾਂ ਪੁ)            | ਜਾਰ                      | ਗਰਕ                                 |
| ਜਨੇਊਆਂ (ਨਾਂ ਪੁ: ਬਵ)      | ਜਾਨਿਰ                    | ਜਲ - ਮਾਨਸ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                 |
| ਜਨੇਊ - ਧਾਰੀ (ਨਾਂ ਪੁ)     | ਜਾਰਬੰਦ                   | ਜਲ - ਵਾਯੂ (ਨਾਂ ਪੁ)                  |
| ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਜਾਰਮਣ                    | ਜਲਬੀ - ਜਲਬਾ - ਜਲਬਿਆ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ)    |
| ਜਥਾਤ - ਆਰਾਹ (ਨਾਂ ਪੁ)     | ਜਥਾਤ                     | ਅਨੁਤਾ                               |
| ਜਥਾਤ ਭੱਨ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)  | ਜਥਾਤ                     | ਜਲੋਦਰ (ਵਿ)                          |
| ਚਾਕ ਦੇਣ ਰਾਜਦਾਨ           |                          | ਜਲੋਦਰੀ                              |
| ਜੰਮ ਦੇ ਬੈਠਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਪਿਨ ਨਿਵਾਰ                | ਦਾਮਾਂ - ਖੜਨ                         |
|                          |                          | ਮਾਂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)            |
| ਜੰਮ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਜਹੂਦ - ਨਮਾਦ              | ਜਵਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)              |
| ਜੰਮਲ ਟੂਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਤੁਲ                      | ਨਿੱਖਨੇ - ਨਾਨ ਜੋ - ਨਾਨ ਜੋਹਿਨ         |
| ਜਮਦੂਤ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਹਾਦਮ ਲਾਦਾਤ               | ਰਿੰਦਕੀ - ਸ਼ਾਬ                        |
| ਜਮਪਰ (ਨਾਂ ਪੁ)            | ਥਲਿਤ                     | ਜਵਾਨੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਕਿ) ਜਵਾਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)  |

|                 |               |                 |                               |  |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|
| ਜਵਾਰ            | (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼) | ਜਰਤ۔ زرود       | ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼) ਜਾਗਰੂਕ | یقظ۔ بیداری                                |
| ਜਵਾਰ-ਭਾਟਾ       | (ਵਿ)          | ਜ਼ਰੂਰ-ਮੁਹੂਰ     | (ਨਾਂ: ਪ੍ਰ) ਜਾਗਰੂਕਤਾ           | ਜ਼ਰਾਈ-ਵਾਹੀ                                 |
| ਜਵਾਲਾਮੂਖੀ       | (ਵਿ)          | ਜਵਾਲਾਮੂਖੀ       | (ਨਾਂ: ਪ੍ਰ) ਜਾਗਰੂਕ             | ਜ਼ਰੂਰ-ਵਾਹੀ                                 |
| ਜਵੈਣ            | (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼) | ਜਵੈਣ            | (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                 | ਜ਼ਰੂਰ-ਵਾਹੀ                                 |
| ਜੜ              | (ਵਿ)          | ਜਾਸ਼            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਜ਼ਰੂਰ-ਵਾਹੀ                                 |
| ਹੜ              | (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼) | ਦਾਬ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਜ਼ਰੂਰ-ਵਾਹੀ                                 |
| ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ       | ਜੜ ਮੁੰਨੀ      | ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਜ਼ਰੂਰ-ਵਾਹੀ                                 |
| استیصال         | - ਜੁਕਨਦਾ      | استیصال         | - ਜੁਕਨਦਾ                      | واقف۔ آਕਾਹ۔ خੁਦਾਰ۔ ਖੁਬਿਆ۔ ਸਨਾਸਾ            |
| ਜੜ੍ਹਤ           | ਹੋਣ           | ਜੜ੍ਹਤ           | ਹੋਣ                           | ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                      |
| جفت             | شਡਨ           | جفت             | شਡਨ                           | ਸਨਾਸਾ। - ਆਕਾਹੀ। - ਆਖਾਨੀ। - ਖੁਦਾਰੀ। - ਵਾਫਿਤ |
| ਜੜ੍ਹੋਣ          | ਪੁੱਟਣਾ        | ਜੜ੍ਹੋਣ          | ਪੁੱਟਣਾ                        | ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਚਤ ਹੋਣ                       |
| استیصال         | - ਜੁਖ ਕਨਦਾ    | استیصال         | - ਜੁਖ ਕਨਦਾ                    | ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ                        |
| ਜਾਲੀ            | ਲੱਕੀ          | ਜਾਲੀ            | ਲੱਕੀ                          | ਵੱਚਤ ਹੋਣ                                   |
| ਜਾਇਜ਼           | (ਵਿ)          | ਮਿਆ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵੱਚਤ ਹੋਣ                                   |
| ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ    | (ਵਾਕਾਸ਼)      | ਮਿਆਹਾਤ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵੱਚਤ ਹੋਣ                                   |
| ਜਾਇਛਲ           | (ਪ੍ਰ)         | ਜਾਕਲ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵੱਚਤ ਹੋਣ                                   |
| ਜਾਸੂਸ           | (ਪ੍ਰ)         | ਜ਼ਬੂਯਾ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵੱਚਤ ਹੋਣ                                   |
| ਜਾਕਟ            | (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼) | ਮਿਹਰ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵੱਚਤ ਹੋਣ                                   |
| ਜਾਗਣਾ           | (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਉਤਸੀ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵੱਚਤ ਹੋਣ                                   |
| در آمدن از خواب | - بیدار شدن   | در آمدن از خواب | - بیدار شدن                   | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| خواب            |               | خواب            |                               | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| ਜਾਗਦੇ           | ਗੱਹਿਣਾ        | ਜਾਗਦੇ           | ਗੱਹਿਣਾ                        | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| ستارہ شر        | ਦਾਨ           | ستارہ شر        | ਦਾਨ                           | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| ਜਾਗ ਪੈਣ         | (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | بیدار شدن       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| ਜਾਗਰਤ           | (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼) | ਜਾਗਰਤ           | (ਨਾਂ: ਇਲਿੱਫ਼)                 | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| بیداری          | - ਹਾਲ         | بیداری          | - ਹਾਲ                         | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| بیਤਾਨ           | - بیدار       | بیਤਾਨ           | - بਿਤਾਨ                       | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |
| ਜਾਗਰੂਕ          | (ਵਿ)          | ਜਾਗਰੂਕ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਵਾਨਸਾ। - ਵੱਚਤ ਹੋਣ                          |



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| دست یافتن۔ ظفر یافتن۔ مستولی گردیدن    | جان بخش                        |
| سیاں (نہ: ایلیں: بھ) جماں              | تمارباز۔ مقار                  |
| فتوحات۔ فتح ہا۔ فیروزی ہا۔ اظفار       | کنج کادی                       |
| سیندھ (نہ: ایلیں) جند                  | کنج کادی کردن                  |
| جان                                    | گرم خون                        |
| سیندھ را (پ) (نہ: بھ) جند را           | جنگ آوری                       |
| غال۔ قفل                               | پاپوش۔ کفس۔ پافراز             |
| سیندھ لالہ کو (امیٹ کی)                | پاپوش۔ کفس۔ پافراز             |
| کلید کردن۔ اقبال                       | کفس پاکردن                     |
| سیندرے (پ: بھ) جند رے                  | سدا ہونا                       |
| اقبال                                  | جر اشدن۔ متارکہ                |
| محاف                                   | سدا سدا کر دلانا               |
| سیل دسماں (پ) (نہ: بھ) جلد ساز         | جر اکردن                       |
| سیل داں بندھیاں (امیٹ کی)              | جرأت توں کر لینا               |
| صحافی کردن                             | مردانگی کردن                   |
| سیلہ ایلان (جو توں) (امیٹ کی)          | جریہ۔ توان                     |
| سیلہ کی (بیہی) جو سی کی                | جاہدہ۔ بافنہ                   |
| چنانچہ                                 | مسسل خوردن (کی) (امیٹ کی)      |
| زبان۔ زفان (نہ: ایلیں)                 | سلاسلہ لے لانا                 |
| ਜی بڑ جانا (امیٹ کی)                   | شپش                            |
| دل پر شدن                              | قباڑی کردن                     |
| ਜی میڈل لالہ ایلان (بی۔ مسلا کو)       | دار القمار                     |
| غثیان کردن۔ تقاضا طبیعت بر قی کردن     | خصل (ایلیں) (نہ: بھ) جوئے خانہ |
| شکر گدن (امیٹ کی)                      | سے دی مسک                      |
| زندگی۔ حیات۔ زیست (پ) (نہ: بھ) جیون    | سے دی وحی                      |
| تازع للبقا (پ) (نہ: بھ) جیون سکھر ش    | با نقش                         |
| ਜیہن گزرا نا (امیٹ کی)                 | جوئے وجہ کرنا                  |
| زیست کردن                              | قاب دزدیدن                     |
| جیون توں اراس ہونا                     | جیون داس                       |
| (امیٹ کی)                              | جواریا (پ) (نہ: ایلیں)         |
| از جان سر آمدن                         | جتھو کرنی (امیٹ کی)            |
| جیون توں نرا شہ جانا                   | کاوش کردن                      |
| (امیٹ کی)                              | کنج کادی کردن                  |
| طبع از جان بریدن۔ نامید شدن از زندگانی | کنج کادی                       |

|                                      |                                  |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| ਜੂਦੇ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਤ ਲੈਣ<br>(ਅਮਿਤ ਕਿ) | جو یوچ بازی جت لینا (ਨਾਂ پੁ: ਬਵ) | شبان                      |
| برਦਨ                                 | ਜੋਰੁ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ)                  | زوج۔ حلیلہ                |
| ਜੂਠਾ ਭੇਜਨ (ਵਾਕਾਂ)                    | ਜੋੜ                              | ਓਸ਼ੀਲੇ۔ ਪ੍ਰੋਨਡ            |
| ਜੂਲਾ ਫੁਲ (ਨਾਂ ਪੁ)                    | ਜੋੜ-ਤੋੜ                          | ਚੱਕ ਵੱਚਾਨੇ                |
| ਜੂਦੀਨ (ਨਾਂ ਪੁ)                       | ਜੋੜ (ਨਾਂ ਪੁ: ਇਲਿੰ)               | ਜੋੜ (ਨਾਂ ਪੁ)              |
| ਜੂਝਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਾ ਵਾਲਾਸ ਵਾ (ਨਾਂ ਪੁ) | ਜੋੜ (ਨਾਂ ਪੁ)                     | ਜੋੜ-ਜੋੜ                   |
| ਜੋੜ (ਵਿ)                             | ਜੋੜ ਚਕਵਾ-ਚਕਵੀ (ਨਾਂ ਪੁ)           | ਜੋੜ ਚਕਵਾ-ਚਕਵੀ             |
| فتح-مند-فਾਟ-فتحیاب-ظفر-مند-ظفریاب-   |                                  | جھੱਕ                      |
| غالب-پਿਰਦੜ                           | ਜੋੜ ਜੋੜ (ਕਿਵਿ)                   | جفت-ਜفت-زوج-زوج           |
| ਜੋੜ ਹੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਜੋੜੇ (ਨਾਂ ਪੁ: ਬਵ)                | ازواج                     |
| شਾਦੀਨ-ਮੌਫ਼ਰ-ਮਨੁਚੂਰ-ਗੁਣ               | ਜੋੜੇ (ਨਾਂ ਪੁ)                    | جو-ਖੁਰੇ-ਸ਼ਿਰ               |
| ਜੋਬ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ)                       | ਜੋੜੇ (ਨਾਂ ਪੁ)                    | ਫਰਦੀ-جسم-ਮਾਦੇ             |
| جب (ਨਾਂ ਪੁ)                          | ਜੋੜੇ (ਨਾਂ ਪੁ)                    | ਜੋੜੇ (ਨਾਂ ਪੁ)             |
| حاجب زندان (ਨਾਂ ਪੁ)                  | جیلر                             | ਗੁਹਰ-ਫਰਦੀ-ਗੁਹਰੀ-ਲਾਲੀ      |
| ਜੋਬ ਕਰਨਾ/ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | جوش کਰਨਾ/ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | جو-ਸੱਕ                    |
| زہیدਨ                                | ਜੋ ਭਰ (ਕਿਵਿ)                     | ਜੋ ਭਰ ਜਾ ਛੱਟ ਨੂੰ ਚੀਗ ਦੇਣਾ |
| ਜੋਕ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ)                       | ਜੋ ਭਰ (ਕਿਵਿ)                     | ਜੁ                        |
| زور-زلو-زلوک-زالو-د੍ਰਿਯੋਂ            | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਜੋਕ ਲਾਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| زالو ਏਂਧਾਤਨ                          | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| علم بخوم (ਨਾਂ ਇਲਿੰ)                  | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਜੋਤਸ਼-ਵਿਦਿਆ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ)               | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| راصد-نੁਖ (ਨਾਂ ਪੁ)                    | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਜੋਤਸੀਲਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਜੋਤਹੀਣ ਅਖ (ਨਾਂ ਇਲਿੰ)                 | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਜੋਬਨ (ਨਾਂ ਪੁ)                        | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| جوਾਨੀ-ਬਾਬ-حدਾਥ-ਮੁਗ                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਜੋਬਨ-ਆਰੰਭ (ਨਾਂ ਪੁ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਰਿਆਨ ਬਾਬ-ਆਗਾਜ਼ ਜੋਵੀ                  | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਜੋਬਨ-ਮੱਤਾ (ਵਿ)                       | ਜੁਖਮ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | در مشت کردن               |
| سکਰਬਾਬ                               |                                  |                           |



شہلنا (امیت کی)

کم ترشدن۔ کم ترشدن کو چک ترشدن  
شہی لے کے پہنچ لے کے پہنچ (امیت کی)  
دیواندار حملہ کردن۔ حملہ کردن باخشم زیاد

شہلنا (امیت کی) جھنسنا

ساییدن۔ مالیدن۔ پرداخت کردن۔ بدن کسی را  
رو غنی کردن

شہلنا (امیت کی) جھس پینا پہنچ

خوگرفتن۔ عادت کردن۔ خود را متعاد کردن۔ معاد  
شدن۔ مشغول شدن

شہلنا (امیت کی) جھسناؤنا

بدن یا سریا عضو را رو غنی کنندان

شہلنا (امیت کی) جھکنا

درنگ کردن۔ دو دل بودن۔ مرد بودن

شہلے شہلے جھکلے جھکلے

دل دل کنال۔ باد دلی۔ از روی تامل۔ درنگ کنال۔

باکر وی

شہلنا (امیت کی) جھکاؤنا

آزاد کردن۔ نا امید کردن۔ اغفال کردن۔ عاجز کردن

شہلنا (امیت کی) جھکانی رئی دہلی

ایں سو آں سو رفتان۔ در رفتان طفرہ زدن۔ از جای

خود بیک سو رفتان

شہلی (ہی) جھکی

دو دل۔ مرد دل۔ درنگ کنندہ۔ بی میل۔ بی اعتقاد بخود

شہل (نہ: ایلی) جھکھ

کارپست۔ لاف۔ جھگانہ سخن گھن۔ تشبث بوسائل پست

شہلنا (امیت کی) جھکھ مارنی

حرکت نازیا کردن۔ رفتار ناخوار کردن۔ کارپست  
کردن

شہل (پ: نہ) جھکلکھڑ

عاصف۔ صرص۔ باد سخت آواز۔ باد تندر

رغو۔ کف۔ زبد

شہن (ہیلی) جھک دار

شہن (امیت کی) جھکڑا

شہن (پ: نہ) جھکڑا

باجت۔ زمان۔ سیزہ۔ مناتشہ۔ شوشہ

شہن (امیت کی) جھکڑا کرنا

سر بالا جواب دادن۔ چانہ زدن

شہن (امیت کی) جھکڑا مکاؤنا

شہن (ہیلی) جھکڑا لو

جدلی۔ فسادی۔ سیزہ خو۔ ٹکارہ۔ فتنہ جو۔ سر کش

مجارلات

شہن (پ: پ) بہ

شہن (پ: نہ) جھکلا

جیض و بیض

شہن (امیت کی) جھکھجھٹ

زلزال

شہن (پ: پ) بہ

دم۔ آن۔ لخطہ۔ فورا۔ عاجلا

شہن (امیت کی) جھکلنا

شہن (امیت کی) جھکڑا

سر بریدن بیک ضرب خجرا آلہ تیز

بیرق۔ علم۔ لوا

شہن (پ: نہ) جھنڈا

خواب نوشی

چپکی

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| شپٹلنا (آمیڈ کی)   | چھپننا (آمیڈ کی)   | طرح (چیزی را) نشان دادن۔ اندک نمایاں کردن                                  |
| نگمان فرود آمدن یا حملہ کردن۔ نگمان جستن۔ شیرچہ رفتن۔ پورش کردن۔ زور آوردن۔ تند روایش دن |                    | شل کھلانا (آمیڈ کی) حمل کھلانا   |
| شپیڑنا (آمیڈ کی) چھپرنا (آمیڈ کی)  |                    | احمقانہ رفتار کردن۔ ابلیانہ سلوک کردن۔ جاہلانہ حرکت کردن۔ بجادانی کار کردن |
| فشردن۔ فشار دادن۔ بزور باز کردن۔ تحمل کردن۔  | بردباری کردن       | شل لٹانا (آمیڈ کی) جھلتا   |
| زود۔ به سرعت   |                    | بردباری کردن۔ متحمل شدن۔ تندر کردن۔ روا                                    |
| شسبھنا (آمیڈ کی)   |                    | دانستن۔ جایز شمردن۔ رنج بردن   |
| زدن (پنبہ یا پشم)۔ شلاق زدن۔ تازیانہ زدن   | شل مارنی (آمیڈ کی) | شل مارنی مارنی   |
| چوبکش۔ چوبگین (نہ لیلی) جھصینی   |                    | باد زدن۔ باد افشاں کردن۔ باد بزن در جنسیش آوردن                            |
| شماکا (پ) (نہ) جھماکا  |                    | دیوانہ وار   |
| نگاہ مختصر۔ نظر اجمالی۔ نگاہ آئی۔ نگاہ اتفاقی۔ چشمک                                      |                    | شل۔ شل وس  |
| شمسلا (پ) (نہ) جھسیلا  |                    | خطی۔ شوریدہ سر   |
| پچیدگی۔ ناراحتی۔ بے قراری۔ آشتنگی۔ تو شیش۔   | تو وہ درہم برہم    | شل آنگ جھانگ   |
| شلن (نہ لیلی)  |                    | بامداد۔ سحر۔ صحیح زدن  |
| خراش۔ خطنا منظم۔ خط بد   |                    | شل (پ) (نہ لیلی) جھڑ   |
| شگیٹلنا (آمیڈ کی)  |                    | موسم ابری۔ موسم ابردار۔ موسم ابرناک  |
| خراسیدن۔ بد نوشتن۔ باشتبا نوشتن  |                    | شکنا (آمیڈ کی)   |
| شروع بھرنا۔ مارنا۔ مارنا   | آبشار              | اقادران۔ پاتن آمدن۔ بار آوردن  |
| (آمیڈ کی)  |                    | شکنا (آمیڈ کی)   |
| چنگ زدن۔ ربودن۔ گرفتن  |                    | نزاع۔ سیزہ۔ اختلاف۔ مجادله۔ مباحثہ۔ زدو خورد۔                              |
| شروع انداز   | جھروکہ             | تصادف  |
| شل   | خط                 | حملہ کردن  |
| شلکوں  | چھل                | شکپلانا (آمیڈ کی)  |
| چشمک زدن۔ بطورنا مختلم شعلہ دادن۔ بارو شانی  |                    | بارندگی مسلسل  |
| ضعیف تابیدن  |                    | شکنی (آمیڈ کی) جھڑی  |
| شلک و کھاؤنی (آمیڈ کی)   |                    | شکنی (آمیڈ کی) جھائی   |
|  |                    | مادر۔ ماما (منظظ کو دکانہ برائی مادر)                                      |
|  |                    | شامساً دلانا (آمیڈ کی) جھانسا دیانا  |
|  |                    | فریب زدن۔ گول زدن۔ بخلط انداختن۔ دغا بازی                                  |
|  |                    | کردن۔ گوش (کسی را) بریدن۔ لاف زدن  |
|  |                    | شامیہ باز  |
|  |                    | دغا باز۔ گول زن۔ حلیلہ گر۔ فریبندہ۔ خدمہ آمیز۔                             |

|  |   |
|--|---|
| تقلب آمیز  | (آمیز) کی   |
| شک (نام: ایلیک) جهاک   | زرا ندو د کردن - طلا پوش کردن - مذهب کردن - جلا دادن - صیقلی کردن - زدودن |
| امید - چشم داشت - اختال - انتظار   | شال یعنی جمال جهانی (آمیز) کی   |
| شکان (آمیز) کی   | بار بدو ش گرفتن - مسولیت قبول کردن  |
| نگر یعنی - نگاه کردن - نظر احمدن - ویدن - مشاهده کردن - خیره نگاه کردن - با چشم نیم بازنگاه کردن | سجای - گشکش (نام: ایلیک) جهار   |
| شکانی - نگاه خیره - نظر (نام: ایلیک) جهانی   | شال ر (پا) جهاوال   |
| شکان (آمیز) کی   | سنگ پا  |
| انتظار داشتن - چشم داشتن - گمان کردن - موقع داشتن از امید داشتن - امیدوار بودن                   | شک (پا) جهار  |
| شکا (پا) جهاک  | حاصل - دسترنج - محصول - بار - فرآورده                                     |
| تامل - درنگ - دودلی - کروی - احتیاط - احتیاط کاری  | شک (نام: ایلیک) جهار  |
| شکا آونا (آمیز) کی   | سرزنش - توئنخ - نکوهش - ایرادگیری - بدحرنی                                |
| احتیاط بودن - دودل بودن - مردوبودن - بی میل بودن   | جهار حصب کردن   |
| شکا کھانا بخواهنا (آمیز) کی  | سرزنش یافتن   |
| دل گرم بودن - جسارت کردن - مانوس بودن - آشنا بودن  | شکنا (آمیز) کی  |
| شکی (نام: ایلیک) جهاک  | شکندن - تکانیدن - گلانیدن - فشاندن - تکان دادن                            |
| منظمه - مجلس - جای و قوع   | شکنا (آمیز) کی  |
| شگان (آمیز) کی   | شکنا (آمیز) کی  |
| تخل کردن - کشیدن - ستمل شدن - تاب (چیزی) آوردن   | فضلمه - براز - نجاست - قضای حاجت  |
| زنگل - زنگول (نام: ایلیک) جهانجر   | جاروب - رفتہ روب (پا) جهارو   |
| طوفان - طغیان باد و باران (پا) جهانجا  | شکن (آمیز) کی   |
| موی ژولیده - موی شانه نکرده (پا) جهائا   | رفتن - رو بیدن - خاک زدن  |
| شکتار بی معنی - سخن ممکن   | شک (نام: ایلیک) جمک جمک   |
| نگاه مختصر اند اختن  | میگو  |
| جمال چپ صاروی / - پھیرنی   | شک (نام: ایلیک) جنگ   |
| شال سزا ایلیک / - ده رنی   | شک (نام: ایلیک) جبک   |
|  | احتسیاط کاری - دودلی - دل دل کنی - درنگ - کروی                            |
|  | شیک (آمیز) کی   |
|  | دو دل بودن - دل دل کردن - مرد بدبن - بی میل بودن - کرو بودن               |

|          |                                 |   |
|----------|---------------------------------|---|
| شِنْتَيِ | جِنْ - مِرْ - شِنْ (نَ) جِصْنِي | شُكَّا (نَ) جِهَكَا   |
| شِنْتَيِ | اجْفَانِ (نَ) حِسْبَانِ         | رِجْفَانِ - عَاطِفَهِ - سِرْ - اَزِيرِيِ - مِيلَانِ - خِمْ سَازِيِ - جَانِبِ                          |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | دَارِيِ - غَرْضِ رَانِيِ  |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّا عِلْمَانِ (أَمِيتِيِّ كِيِّ)   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | خِمْ كَرْ دَنِ - دُولَكَرْ دَنِ - مَطْعَكَرْ دَنِ - مَقْوُرْ سَاخْتَنِ                                |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّا عِلْمَانِ (نَ) جِهَكَا   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | خَانِ - سِرْ - مِنْزَلِ - خَانِ وَادِهِ - سَازَمَانِ خَانِهِ - دُودَمَانِ - نَسْبِ                    |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّا عِلْمَانِ (هَاكَانِ) جِهَكَا چُورِ ہُونَا ہَلَنِ چَهَرَنِ                                      |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | دِيرَانِ شَدَنِ - خَرَابِ شَدَنِ - خَانِهِ خَرَابِ شَدَنِ - زِيَانِ                                   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | دِيدَنِ - دَجَارِ شَدَنِ بِهِ نَقْصَانِ سَكَنِيِّ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّا عِلْمَانِ (هَاكَانِ) جِهَكَا چُورِ كَرَنَا کَرَنَا   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | بِرْ بَادِ كَرْ دَنِ اَمْوَالِ - تَنْفِ كَرْ دَنِ اَمْلَاكِ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّا عِلْمَانِ (أَمِيتِيِّ كِيِّ)   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | دَزْ دِيدَنِ - دَزْ دِيَ كَرْ دَنِ - سَرْ قَتِ كَرْ دَنِ - بِهِ سَرْ قَتِ                             |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | بِرْ دَنِ - رَبُودَنِ - وَرَدَوْ كَرْ دَنِ بَخَانَهِ كَسِيِّ بِرَاهِيِّ اَرْ تَكَابِ                  |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | دَزْ دِيَ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّيِّيِّ (نَ) جِهَكِيِّ  |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | كَرْ بَيْچِهِ - كَلْبَهِ - كَاشَانَهِ - خَانِهِ كَوْچَكِ كَهِ اَزْ كَاهِ وَبَرْگِ                     |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | سَازَنِدِ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّلَاهِلَهِ (أَمِيتِيِّ كِيِّ) حَمَحَلَاهِلَهِ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | آزْرَدَهِ شَدَنِ - رَنْجِيدَنِ - حَمَشِمَگِينِ شَدَنِ - جَوْشِ زَدَنِ - تَاْشِكِيمَبَائِيِّ كَرْ دَنِ |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّلَاهِلَهِ (نَ) حَمَحَلَاهِلَهِ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | زَوْدَرْ نَجِيِّ - تَرْشِ روَيِّ - تَنْدَمَزَاجِيِّ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | شُكَّلَاهِلَهِ (أَمِيتِيِّ كِيِّ) حَمَحَلَاهِلَهِ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | تَابِ دَادَنِ - جَنَانِدَنِ   |
| شِنْتَيِ | شِنْتَيِ                        | حَمَيِّيِّ مَارَنِيِّ / - لَاؤَنِيِّ  |

(امیت کی)

تمای زور خود بکار آنداختن۔ بے تمای زور خود کار کردن

سُٹا ایلہ (امیت کی) جھٹا کونا

دروغ گھن۔ فریب دادن

سُٹیا ایلہ (امیت کی) جھٹیا کونا

مکنذیب کردن۔ باطل کردن۔ باطل ساختن۔ دروغ

(چیزی) راتابت کردن۔ نادرست کردن

سُٹ لی (نہ) جھٹ

گرہ۔ ازدحام۔ دستہ۔ جمیعت۔ گلہ۔ رمه

سُٹ لی (نہ) جھٹو

احمق۔ ابلہ۔ بے وقوف۔ بے عقل۔ خیک مفرز۔

نادان۔ زن مرید۔ پیر وزن خود

سُٹ لی (نہ) جھنچھنی

لرز۔ لرزش۔ ارتعاش۔ اهتزار

سُٹ لی (امیت کی) جھپنا

چخنگ آوردن۔ گرفتن۔ درہو اگر فتن

سُٹ کا (نہ) جھمکا

آویزہ۔ گوش دارہ

سُٹ رنا (امیت کی) جھڑنا

اندوہنا ک شدن۔ محظون شدن۔ غم خوردن۔ غصہ

خوردن۔ افسوس خوردن۔ تاسف داشتن۔ شکایت

کردن۔ سوگ داری کردن

سُٹ مٹ (نہ) جھرمٹ

گرده۔ تو دہ۔ انبوہ مردم۔ هجوم۔ ازدحام

سُٹ مٹ ایلہ (امیت کی) جھرمٹ پکڑنا

ازدحام کردن۔ گرد آمدن۔ جمیعت کردن۔ انبوہ شدن

سُٹ رننا (امیت کی) جھڑنا

پژمرده شدن۔ چوروک شدن۔ چین خوردن

سُٹ ریاں (نہ) ایلہ

آشنگ۔ شنکن۔ چین۔ چوروک

سُٹ ریاں پے جانیاں پے جانیاں

چیزوک خوردن۔ چروکیدن

جلال۔ جل۔ جل (نہ) جمل

سو زیدن

سُٹ لال (امیت کی) جھلت

وزیدن۔ دمیدن۔ طوفانی شدن۔ طغیانی کردن

سُٹ لی (نہ) جھوٹ

موی زہاری۔ موی شرم گاہی

سُٹ لی (امیت کی) جھوٹنا

آویزان بودن۔ آویزان کردن۔ دور زدن۔ نویدن۔

نوسان کردن

سُٹ لی (نہ) جھوٹا

تاب۔ نوان۔ مسی۔ کیف۔ اہتزاز

سُٹ لی (نہ) جھوٹھ

سُٹ سُٹ (نہ) جھوٹھ سچ

جعل۔ دروغ۔ چیز ساخت۔ قصہ جعل

سُٹ یڑنا (امیت کی) جھوٹھ گھڑنا

فرابا ختن دروغ۔ دروغ ساختن

سُٹ بولنا (امیت کی) جھوٹھ بولنا

دروغ کردن۔ دروغ گھن۔ تقلب نمودن

سُٹ زدن (امیت کی) جھوٹھ مارنا

سُٹ مُڑ (کیلہ) جھوٹھ موٹھ

دروغی۔ کاذبانہ۔ خائنہ

سُٹ (کیلہ) جھوٹھا

دروغ گو۔ چاپ زن۔ نادرست ناخن۔ دروغی۔

جعلی۔ مصنوعی۔ ناسره

سُٹا ساہنہ کرنا (امیت کی) جھوٹھا تابت کرنا

|   |  |
|---|--|
| رد کردن۔ دروغ نشان دادن۔ اثبات کذب (چیزی را) کردن   | کروئی۔ بھنا کی<br>فہرست کی (نہیں)                                    |
| بُثا کرنا (امیت کی) جھوٹ کرنے کذب (جھوٹ کرنے کی) جھوٹ کیا                                     | شانہ خالی کردن۔ از میدان در رفقن۔ (خود را) عقب کشیدن                 |
| بُثیاں گلائے (جھوٹ کیا گلائے) جھوٹ کیا گلائے  | بُثا کرنا (نہیں) جھوڑا   |
| بُثی مبشر اور لے لئے (امیت کی) جھوٹ کرنے کی مسخرہ۔ مسخرہ۔ منازعہ۔ زاع۔ کش مکش                 | ستیزہ۔ چون و چرا۔ مشاجرہ۔ قریبہ خرد                                  |
| بُثی جعل کردن   | بُثا کرنا (نہیں) جھوک  |
| بُثی گواہی (ہاکاں) جھوٹ کی گواہی  | بُثا کرنا (نہیں) جھولا   |
| شادت دروغ   | بُثا کرنا (نہیں) جھولی چک  |
| بُثے کیسے (نہیں) بُثے کیسے  | بُثا کرنا (نہیں) طفیلی۔ آدم چاپلوس۔ متملق۔ تملق گو۔ مفت حور۔ کار لیس |
| بُثے گواچ۔ گواچ۔ گوارہ۔ سایود۔ سرید   | فاح۔ فتح۔ لرزان (نہیں) جھوکے ماریا                                   |
| بُثے کھید   | بُثے ملے ماریا (نہیں) جھونپڑپی                                       |
| بُذلہ۔ مزاح۔ خوش مزگ۔ ریش خند۔ طنز۔ استہزا۔ طعنہ۔ سخن نیش دار                                 | بُذلہ کثیف۔ محلہ کثیف  |
| بُذلہ کرنے کی (امیت کی) جھید کرنے کی  | بُذلہ خاش۔ خاشت  |
| کنایہ زدن۔ طعنہ زدن۔ خوش طبعی کردن۔ خوش مزگی کردن۔ مسخرہ کردن۔ باطعنہ استہزا کردن۔ شماتت کردن | بُذلہ جھور لاحنی (نہیں) جھور لاحنی                                   |
|   | کتک زدن۔ زد کوب کردن۔ سیاست کردن۔ ضربت سخت وارد آوردن                |

|  |  |
|--|--|
| مسائی لا حاصل کردن                             | ضماد   |
| ٹکوڑہ کرنے کی وجہ سے مسند ہونا (نامہ، ایڈیشن)  | ٹکوڑہ کرنے کی وجہ سے مسند ہونا (نامہ، ایڈیشن)  |
| ٹکار کرنے کی وجہ سے مسند ہونا (نامہ، ایڈیشن)   | ٹکار کرنے کی وجہ سے مسند ہونا (نامہ، ایڈیشن)   |
| ٹکلڈ لٹ  | ٹکلڈ لٹ  |
| ٹکنگ اور اونی (آجھے) (نامہ، ایڈیشن)            | ٹکنگ اور اونی (آجھے) (نامہ، ایڈیشن)            |
| دھالت کردن۔ پامیان گزاردن۔ مانع شدن۔ معارض شدن | دھالت کردن۔ پامیان گزاردن۔ مانع شدن۔ معارض شدن |
| ٹکنگ یہ ٹھوٹ کھٹھوٹ کرنا (نامہ، ایڈیشن)        | ٹکنگ یہ ٹھوٹ کھٹھوٹ کرنا (نامہ، ایڈیشن)        |
| پست کردن۔ تحریر کردن۔ اہانت کردن۔ خوار کردن    | پست کردن۔ تحریر کردن۔ اہانت کردن۔ خوار کردن    |
| تعلیق  | تعلیق  |
| حباب۔ کرم شب تاب (پی) (نامہ، ایڈیشن)           | حباب۔ کرم شب تاب (پی) (نامہ، ایڈیشن)           |
| قلیل البقاعت                                   | قلیل البقاعت                                   |
| ٹکلپتی آما                                     | ٹکلپتی آما                                     |
| ٹکٹا (نامہ، ایڈیشن)                            | ٹکٹا (نامہ، ایڈیشن)                            |
| کارنا گوار۔ کارنا خوش آئند۔ معارضہ             | کارنا گوار۔ کارنا خوش آئند۔ معارضہ             |
| ٹکتی (نامہ، ایڈیشن)                            | ٹکتی (نامہ، ایڈیشن)                            |
| دارالحدوث۔ بیتالخلا۔ مستراح                    | دارالحدوث۔ بیتالخلا۔ مستراح                    |
| مرغ باراں                                      | مرغ باراں                                      |
| ٹکیہ رگی (نامہ، ایڈیشن)                        | ٹکیہ رگی (نامہ، ایڈیشن)                        |
| یابو   | یابو   |
| بصد در آوردن فلز (آجھے کوئی) (نامہ، ایڈیشن)    | بصد در آوردن فلز (آجھے کوئی) (نامہ، ایڈیشن)    |
| ٹکبا لانا (نامہ، ایڈیشن)                       | ٹکبا لانا (نامہ، ایڈیشن)                       |
| شیدن۔ تراویدن۔ چھیدن۔ تریخ کردن                | شیدن۔ تراویدن۔ چھیدن۔ تریخ کردن                |
| ترادش۔ تریخ۔ چھیدگی (پی) (نامہ، ایڈیشن)        | ترادش۔ تریخ۔ چھیدگی (پی) (نامہ، ایڈیشن)        |
| چکانیدن۔ تقطیر                                 | چکانیدن۔ تقطیر                                 |
| ٹکبا اولنا (نامہ، ایڈیشن)                      | ٹکبا اولنا (نامہ، ایڈیشن)                      |
| چوباد برخاستن (آپنائی کرنا) (نامہ، ایڈیشن)     | چوباد برخاستن (آپنائی کرنا) (نامہ، ایڈیشن)     |
| خانہ بدوسش                                     | خانہ بدوسش                                     |
| ٹکپری واس (پی) (نامہ، ایڈیشن)                  | ٹکپری واس (پی) (نامہ، ایڈیشن)                  |
| ٹکبڑ   | ٹکبڑ   |

خان وادن۔ خاندان۔ زن و بچہ۔ اہل خانہ۔  
 اصل و نسب۔ تبار  
 ٹੱبर کرنا (امیت کی) مُبرکرہ  
 ازدواج کردن۔ عقد کردن  
 معیل۔ عیال دار (ہی) مُبردار  
 تماقیلنا (امیت کی)  
 چشمک زدن۔ تکان تکان خوردن۔ فور بیر و دادن  
 گوچ فرنگی  
 آماڑ ر (پ) مُمکر  
 ترکم (پ) مُمک  
 ترکلنا (امیت کی)  
 نادیده رفتن۔ جیم شدن  
 ترکیلنا (امیت کی)  
 طفرہ زدن از۔ گریز زدن از۔ رعایت نکردن۔ کنار  
 کشیدن از۔ حذر کردن از  
 سرچرخ (پ) مُرائی سکل  
 ٹل (پ) مُل  
 صلصلة  
 ٹلی (پ) مُلی  
 زنگ  
 زنگ زدن (امیت کی) مُلی وجہونی  
 تلنا (امیت کی) مُل  
 پرہیز کردن۔ خودداری کردن۔ اجتناب کردن۔  
 دوری کردن  
 کاغذ طمارت (پ) مُلکت پیپر  
 ٹائیٹل (پ) مُل  
 سر درق  
 ماشین کردن (امیت کی) مُلکے کرنا  
 ماشین تحریر (پ) مُل پر اسٹر  
 صورت اوقات (پ) مُل  
 تائکا لایلنا (امیت کی)  
 بخیہ زدن۔ بخیہ کردن۔ متصل کردن۔ بہم پوستن۔

جوش دادن۔ درزگر فتن  
 وصلہ  
 ٹاکی لایلنا (امیت کی) مُلکی لاؤنی  
 غرده  
 تانگا (پ) مُلکا (ن) مُلکا (ن) مُلکا (ن)  
 تانگا (پ) مُلکا (ن) مُلکا (ن)  
 سخن ناشر دہ۔ یادہ۔ فضولی  
 تا۔ تا کرنی (امیت کی)  
 در در کردن۔ شر شر کردن۔ ناشر دہ سخن گھن۔ یادہ  
 گھن۔ ہرزہ درائی کردن  
 آب خوست۔ آدرک۔ جزیرہ (پ) مُل پو (پ)  
 جزار (پ) پا (پ)  
 کیت و ذیت (امیت کی) مُل مُول  
 تاں مُل مُول کرنی (امیت کی)  
 لیت و لعل کردن۔ امر و ز و فردا کردن۔ پس گوش  
 الحمد  
 کنارہ گیری۔ احتراز۔ طفرہ۔ دوری  
 چیدہ چیدہ (پ) مُل مُول مُل مُول  
 حق التعلیم (امیت کی) مُل شون فسیس  
 ططور (امیت کی)  
 اطراف کردن (امیت کی) کمک جانا  
 طالع (امیت کی)  
 درقة الصیب (پ) مُلکت لاڑی  
 ٹیکٹیکی لایلنا (امیت کی)  
 حملن۔ حملان  
 ٹکٹکی لایکے وکھنا  
 خیرہ نگر سعن۔ چشم در ختن۔ بر و بر نگاہ کردن

|   |  |
|---|--|
| ٹیکلنا (آمیڈ کی)                              | جو طی حلی                                |
| جای گرفتن۔ منزل کردن۔ شب بسر بردن۔ ماندن۔     | زرق برق                                  |
| توقف کردن۔ دوام کردن                          | ٹیکلنا (آمیڈ کی)                         |
| ٹیکھاں۔ پابر جا۔ استوار (ہی) مکواں            | جویدن۔ خاییدن۔ دندان کاری کردن           |
| ٹیکھیں (ہی) مکھیں (آمیڈ کی)                   | ٹکڑے بچھے (ہی) ٹکڑے بچھے                 |
| تثیث کردن۔ بیک پایہ نگاہ داشتن۔ پابر جا کردن۔ | انگل۔ مفت خور۔ دبال رو                   |
| سکن کردن۔ مرتب کردن                           | ٹکڑا (ہی) ٹکڑا                           |
| ٹیکلاں (ہی) ٹکڑے (نام بھی)                    | قطعہ۔ پارہ۔ حصہ۔ بہرہ۔ خردہ              |
| ٹیکی (نام بھی) رغیف۔ ارغیف۔ قرص               | اجرا                                     |
| ٹینڈ (نام بھی) مٹر                            | ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے                           |
| ٹینڈا (نام بھی) چرخ ریک                       | لخت لخت                                  |
| ٹینڈی (نام بھی) ملخ                           | ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کرنا                      |
| ٹینڈی دل (نام بھی) جراد                       | صد شاخ کردن۔ درگسانیدن۔ گستن             |
| ٹیپلنی کرنی (آمیڈ کی)                         | ٹکر                                      |
| حاشیہ نوشتن۔ تقریظ کردن                       | ٹٹ جانا (آمیڈ کی)                        |
| ٹیبا (نام بھی) پشتہ                           | کستن                                     |
| ٹیبا (نام بھی) بھول                           | لولہ                                     |
| ڈیبا جانا (آمیڈ کی)                           | فسانیدن۔ افسوس کردن۔ سحر کردن۔ جادو کردن |
| دزدانہ رفتن۔ پسال رفت                         | ٹونے ہار (ہی) ٹونے ہار                   |
| ٹیماٹیماڈیں (آمیڈ کی)                         | دستان زن۔ جادو گر۔ افسوگر۔ ساحر          |
| سو سوزدن                                      | ساحرہ                                    |
| ٹیل لالہیں (آمیڈ کی)                          | ٹونے ہاری (ہی) ٹونے ہاری                 |
| سمی بلخ نمودن۔ کوشش کردن۔ جدد جمد کردن        | زیور                                     |
| درد سخت                                       | ٹونب                                     |
| ٹیس (نام بھی) میس                             | ٹونب انسان (نام بھی) ٹونب انسان          |
| ٹیسی ذروہ                                     | زیورہا                                   |
| ٹیسی پھاڑی دی (ہا کاں) شیکھاڑی                | اتکا                                     |
| ٹیکا لالہیں (آمیڈ کی)                         | اروب۔ اریب۔ ناراست                       |
| مایہ کوبی۔ مایہ کوبیدن                        | ٹےہا (ہی) ٹئیہا                          |
| آمان۔ ہدف۔ مقصد                               | ٹےہا کرنا (آمیڈ کی)                      |
| ٹیسا (نام بھی) ٹیچہ                           | خیدن                                     |

|  |  |
|--|--|
| نہ اندان۔ خم دار                       | زندہ۔ طعنہ آمیز                                |
| تےہا چلنا (امیت کی) میڈھاچلنا          | ٹوکواں (ہ) ٹوکواں                              |
| ارب رفت (امیت کی) میڈھاچلنا            | ٹوٹا (ن) ٹوٹا                                  |
| تےہاپن (ن) میڈھاپن                     | قطع۔ حصہ۔ بہرہ۔ پارہ۔ " تقسیم مواجب و قرض و    |
| لمون۔ کجی (ن)                          | مالیات محسہ ہای مساوی و ہر یک ازال حصہ ہایک قط |
| دیوار کج (ہاکاں) میڈھی کندھ            | باشد"  |
| تےہی چال ترنا (امیت کی) میڈھی چال ترنا | اجزاء  |
| زبغ                                    | ٹوٹے ٹوٹے                                      |
| مالیات بتن (امیت کی) لیکس لاوٹا        | لہ کردن  |
| تےہا (ن) ٹوآ                           | ٹوٹے کرنا (امیت کی) ٹوٹے کرنا                  |
| شعب۔ شگاف۔ رخنه۔ گودال۔ مغاک           | ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے                            |
| پڑوہش۔ تفتیش (ن) ٹیکی                  | (امیت کی) ٹوٹے ٹوٹے ہوئے                       |
| جس (امیت کی) ٹوہننا                    | پاریدن۔ لہشدن                                  |
| سراغ گرفتن (امیت کی) ٹوہلاکوئی         | کلاہ   |
| لودہ۔ کوارہ (ن) ٹوکرا                  | ٹوپی (ن) ٹوپی                                  |
| تےکری (ن) ٹوکری                        | ٹولہ (ن) ٹولہ                                  |
| سبد۔ چلائی۔ قرطل۔ سلے                  | طاائف۔ حزب۔ جماعت از مردم                      |
|  | فریق (ن) ٹولی                                  |

|  |   |
|--|---|
| ठीرنا-اوراق (امیت کی) ٹھرنا                    | ڈھنڈا کرنا (امیت کی)                      |
| ठੀਰا عیناً (امیت کی) ٹھر اونا                  | تبرید کردن-خنک ساختن                      |
| جلوگیری کردن-بازداشنا-از کاراند افتن-سدود کردن | خنک (پ) ڈھنڈا پن                          |
| ٹھرنا عیناً (امیت کی)                          | بادخنک (ہوا کا سب)                        |
| تف تف کردن-صد اکردن-با کوبیدن در صد اکردن      | ٹھنگ کردن-جلنگ جلنگ کردن                  |
| در مال (پ) (ن) ٹھک                             | ٹپنا (امیت کی) ٹھپنا                      |
| در مالیدن (امیت کی) ٹھکنا                      | خاتمه دادن-تعطیل کردن-نور دیدن-سرودہ      |
| ٹھرنا عیناً (امیت کی)                          | کردن-مخل کردن                             |
| فریب خوردن-گول خوردن-معیون شدن                 | چاپ (پ) (ن) ٹھپا                          |
| ٹھنگی-ٹھنگی (ن) (پ) ٹھکنی                      | ٹرک (پ) (ن) ٹھرک                          |
| حیله بازی-دعا بازی-فریب کاری                   | شور-سوق فضول-بی پیگی-اقیاد                |
| ٹھنڈرنا (امیت کی) ٹھٹھندرنا                    | خنک شدن (امیت کی) ٹھرنا                   |
| چور دک شدن-عقب کشیدن-لرزیدن-مشعر شدن           | ٹرک خانہ ساز (پ) (ن) ٹھرا                 |
| ٹھنڈرا (پ) (ن) ٹھٹھیرا                         | ٹھری ٹھری کرنا (امیت کی) ٹھرول ٹھرول کرنا |
| روئیں ساز-مسک-نماس-صفار                        | از سرما لرزیدن                            |
| ٹھرگی (پ) (ن) ٹھٹھول                           | ٹھل ٹھل (ن) (پ) ٹھل                       |
| ٹھل کرنا (امیت کی)                             | بازداشت-جلوگیری-منع-توقف-مکث              |
| خندہ ریس کردن                                  | ٹھل پاؤں (امیت کی) ٹھل پاؤں پا عینی       |
| ٹھنڈ لگ جانی (امیت کی) ٹھنڈ لگ جانی            | بام داشن-منع کردن-مکث کردن-سدود کردن-     |
| چائیدن-سرما خوردگی-زکام                        | ضبط کردن                                  |
| باردہ (پ) (ن) ٹھنڈا                            | ٹاکر رہوارا (پ) (ن) ٹھاکر رہوارا          |
| ٹھنڈا ہے جانا/ٹھنڈا سی دلنا                    | ضم کدہ-ضم خانہ-بت کدہ-بت خانہ             |
| ٹھنڈا ہو جانا/ٹھنڈا تھیوں                      | ٹھل (پ) (ن) ٹھاٹھ                         |
| سرد گئن-فت شدن-فت کردن-مردن                    | ٹاٹا (پ) (ن) ٹھاٹھا                       |

|                                   |   |                          |                                 |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| ٹاٹا مارنا (آمیڈ کی)              | تلاطم۔ تموح                                 | ٹیکرہ (ن، پ) ٹھکرنا      | تیلہ                            |
| ٹاٹا لے لئے (آمیڈ کی)             | عزم کردن۔ قسمیں گرفتن۔ در عزم خود ثابت بودن | ٹیکری ٹھکرائنا (آمیڈ کی) | خزف                             |
| ٹاٹا آدمی (ہوا کام) ٹھکنائی آدمی  | عزادہ۔ مرد کو تباہ بالا                     | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | پشت پازدن                       |
| ٹاٹا کو تولے (ہوا کام) ٹھکنائی    | قد کو تولے                                  | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | تیپ زدن                         |
| ٹاٹا شرم سار۔ جخل (ہ) ٹھٹھ        | شر مندہ۔ شرم سار۔ جخل                       | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | تلگر زدن                        |
| ٹاٹا ہوئے ہوئے (آمیڈ کی)          | شر مندہ شدن۔ جخل شدن۔ خجالت کشیدن           | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | چنگ زدن                         |
| ٹاٹا کرنے کرنے (آمیڈ کی)          | دل ٹھک کردن۔ پست کردن۔ آزر دن۔ توہین دار د  | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | چنگ زدن۔ کاسر گلی۔ جام سفال     |
| ٹاٹا بر (ہ) ٹھک                   | اور دن بر                                   | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | مقاطعہ دادن                     |
| ٹاٹا طیب۔ روا                     | درست۔ راست۔ صحیح۔ بی طیب۔ روا               | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | مقاطعہ کار۔ متاجر               |
| ٹاٹا ہوئے ہوئے (آمیڈ کی)          | صحیح شدن۔ راست و درست شدن۔ سالم شدن         | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | سر پازدن                        |
| ٹاٹا کہم (ہوا کام) ٹھک کر کہم     | کار صحیح۔ کار درست و بی عیب                 | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | متلاعک                          |
| ٹاٹا کرنے کرنے (آمیڈ کی)          | ٹاٹا کرنے کرنے (آمیڈ کی)                    | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | سپوختن                          |
| ٹاٹا خود کردن                     | صحیح کردن۔ اصلاح کردن۔ دزست کردن            | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | فردو فتن                        |
| ٹاٹا ٹاک ٹھاک ہوئے ہوئے (آمیڈ کی) | ٹاٹا ٹاک ٹھاک ہوئے ہوئے (آمیڈ کی)           | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | ٹوکرے                           |
| ڈاٹا بودن                         | رامغ چاق بودن                               | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | سکندری۔ سرپی۔ لغزش۔ اشتباه۔ سو  |
| ڈاٹا سوچنی (آمیڈ کی)              | ٹاٹا تدبیر سوچنی (آمیڈ کی)                  | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)              |
| ڈاٹا اختن                         | حساب برانداختن                              | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)              |
| ڈاٹا جانا                         | ٹھکیک تھال تے پھنج جانا                     | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | ضربت مد                         |
| ڈاٹا آمدن (آمیڈ کی)               | بجا آمدن                                    | ٹوکرائیں (آمیڈ کی)       | لکدر زدن۔ مخالفت کردن۔ رد کردن۔ |
|                                   |   |                          | وازدن۔ انکار کردن۔ ترک کردن     |
|                                   |   |                          | ذقن۔ زندگان۔ چانہ (ہ) ٹھوڑی     |
|                                   |   |                          | ڈیکھیاں (آمیڈ کی)               |
|                                   |   |                          | اذقان (آمیڈ کی)                 |

|                                    |                                  |   |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| ڈکار                               | آردوغ                            | ڈر دے بارے پیٹا پالی ہوئی               |
| ڈکار مارنا (آمیٹ کی)               | ڈر دے مارے تپاپنی ہونا (آمیٹ کی) | زہرہ آب شدن                             |
| آروغیدن۔ آروغ زدن                  |                                  |   |
| ڈکیڑی (نام: ایلین) رباہیدگی        | ڈرنا (نام: امیٹ کی)              | ترسیدن                                  |
| ڈنگ مارنا (آمیٹ کی)                | نیش زدن                          | ڈر نال سنبھالنے (آمیٹ کی)               |
| ڈنگھا عیلان (آمیٹ کی)              | تزال۔ تو تکو خوردن               | فراشیدن۔ لرزیدن از ترس                  |
| ڈٹ جانا (آمیٹ کی)                  |                                  | بددل۔ بدزہرہ۔ خاف (ہی) ڈرپوک            |
| گردن کلفتی کردن۔ دراستاردن         |                                  | جمن (ہی) ڈرپوکتا (ہی) ڈرپولنا (ہی) ڈرکو |
| ڈٹلا (آمیٹ کی)                     |                                  | ہولناک۔ خوفناک۔ نیم ناک۔ میب            |
| درایستان۔ پافشاری کردن۔ ادامہ دادن |                                  | راندہ ڈرائیور                           |
| ڈنڈیں دیوار (نام: پی) زمین         | ڈرائیوری (نام: ایلین) ڈرائیوری   | راندگی                                  |
| ڈنڈا (نام: پی) سمجھے               |                                  | رعیب۔ جبان۔ خاشی۔ بزدل (ہی) ڈرائل       |
| ڈنڈیں دزدی (آمیٹ کی) ڈنڈی مارنی    |                                  | ہولی۔ ترسو۔ ترسندہ                      |
| ڈنڈو (نام: پی) جغر۔ چر             | ڈف                               | ڈاک ڈاک (نام: ایلین)                    |
| ڈنڈلی (نام: ایلین) ڈفلی            |                                  | ڈاکخانہ (آمیٹ کی)                       |
| ڈنڈلیاں (نام: ایلین: بہا)          | دوف                              | چاپارخانہ۔ پست خانہ                     |
| ڈنڈلی جاؤںی (آمیٹ کی)              |                                  | تمبر پست                                |
| دوف زدن                            |                                  | ڈاک ٹیکٹ (ہاکاں) ڈاک مکٹ                |
| درج                                |                                  | ڈاکا مارنا (آمیٹ کی)                    |
| ڈنڈی ماصم دی (نام: ایلین)          |                                  | پست پی۔ مامور البرید (پی) ڈاکیہ         |
| توٹی کبریت                         |                                  | ڈاکیا                                   |
| ڈسٹلنا/گارک کرنا (آمیٹ کی)         |                                  | راہب الدرب۔ راهزن (ہی) ڈاکو/ٹسیرا       |
| درآب انداختن                       |                                  | نیاق (ہی) ڈاچیاں                        |
| ڈر اس۔ خوف۔ نیم۔ ترس               |                                  | زجر۔ سرزنش (ہی) ڈانٹ-ڈپٹ                |
|                                    |                                  | ڈانٹ-ڈپٹ کرنی (آمیٹ کی)                 |
|                                    |                                  | زجر کردن۔ سرزنش کردن                    |

|                                      |                          |                      |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| تغیر کردن۔ چشم نمائی (آمیڈ کی) ڈائٹا | ڈانٹنا (نامہ) ڈنگھائی    | تقر۔ عق۔ تک          |
| ڈالی/ڈال (نامہ) ڈال/ڈال              | ڈس جانا (آمیڈ کی)        |                      |
| ڈالیاں (نامہ) ڈالیاں                 |                          | غرتاب شدن۔ مغروق شدن |
| افان۔ اغصان۔ فروع۔ شاخما             |                          | عمن                  |
| شاخ و برگ (ہاکاں) ڈالی تے پتے        | ڈنپا (نامہ) ڈونگھ        | ثرف۔ عیق۔ عامض       |
| خسن ڈالی رکھ دی (نامہ) ڈالی رکھ دی   | ڈنپا (نامہ) ڈونگھا       | اعماق                |
| ڈالے۔ ڈال (کیا) ڈالو ڈال             | ڈنپا (نامہ) ڈونگھا کرنا  | گود کردن             |
| ڈیچڑی ڈیچڑی (نامہ) ڈیچڑی             | ڈنپا (نامہ) ڈونگھا کرنا  | دقائل۔ دفاف          |
| سدہ۔ پیش گاہ                         | ڈنپ (نامہ) ڈوم           | بالازدن              |
| ڈیگا ڈیگا (آمیڈ کی) از پا در آمدن    | ڈیگا ڈیگا (آمیڈ کی)      | از پادر آوردن        |
| ڈیگوا ڈیگوا (آمیڈ کی)                | ڈیگ دینا (آمیڈ کی)       | تمشک                 |
| فاتیدن۔ ساقط کنایدن۔ افتادن فرمودن   | ڈیگ (نامہ) ڈیلے          | واحد و نصف           |
| ڈیگیا ہے ڈیا (ہاکاں) ڈیگیا ہے ڈیا    | ڈیگ (نامہ) ڈیلی گیش      | وفد                  |
| افتادہ۔ افکمہ۔ خستہ و ماندہ          | ڈیلی گیش (نامہ) ڈیلی گیش | مندوب                |
| ڈینا (ہی) ڈیں                        | ڈیلی گیٹ (نامہ) ڈیلی گیٹ | قارب۔ کشتی خرد       |
| ڈیگ (نامہ) ڈیگ لاف                   | ڈیلی گیٹ (نامہ) ڈیلی گیٹ | چدار                 |
| ڈیگ مارنی (آمیڈ کی)                  | ڈیلی گیٹ (نامہ) ڈیلی گیٹ | دلو                  |
| لاف زدن۔ لابیدن                      | ڈیل (نامہ) ڈول           |                      |
| ڈیل ڈیل (نامہ) ڈیل ڈول               |                          |                      |

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| دھلائی  | (آمیڈ کی) (نہادا)             | زنجیر کنانیدن۔ دسجد کنانیدن۔ گبر کنانیدن۔ مقید کنانیدن |
| گاور  | ڈھکا (پ) (نہادا)              | دھرنا  |
| گاور  | ڈھنکا (پ) (نہادا)             | دھنکا  |
| گبر۔ بخو۔ اشکال۔ زنجیر۔ قید۔ اسارت            | ڈھنکا (پ) (نہادا)             | دھنکا  |
| آوردن۔ باز داشن                               | پاٹلائی (آمیڈ کی) (نہادا)     | پاٹلائی  |
| ماہر۔ استاد۔ باہمارت۔ کارداں۔ چارہ کندہ۔ نیرگ | ڈھنگی (پ) (نہادا)             | ڈھنگی  |
| باز۔ حیله گر                                  | ڈھنٹا (پ) (نہادا)             | ڈھنٹا  |
| زراو خنی                                      | ڈھنڈورجی (پ) (نہادا)          | ڈھنڈورجی   |
| جاربی   | ڈھنڈورائپنا (آمیڈ کی) (نہادا) | ڈھنڈورائپنا  |
| جارکشیدن                                      | پینٹلائی (آمیڈ کی) (نہادا)    | پینٹلائی   |
| نج  | ڈھب (پ) (نہادا)               | ڈھب  |
| نج  | ڈھنٹا (آمیڈ کی) (نہادا)       | ڈھنٹا  |
| روبہ زوال گزاردن۔ زم شدن                      | ڈھلوان (آمیڈ کی) (نہادا)      | ڈھلوان   |
| سر اشیب۔ سر ازیر۔ شیب دار (پ) (نہادا)         | ڈھلوان                        | سر اشیب  |
| ڈھلوا   | ڈھلوا (آمیڈ کی) (نہادا)       | ڈھلوا  |
| ڈھلوا   | ڈھلوا (آمیڈ کی) (نہادا)       | ڈھلوا  |
| ڈھلوا   | ڈھلوا (آمیڈ کی) (نہادا)       | ڈھلوا  |
| دو د دونصف                                    | ڈھائی (پ) (نہادا)             | ڈھائی  |
| ڈھاہ کھانی                                    | ڈھاہ کھانی (آمیڈ کی) (نہادا)  | ڈھاہ کھانی   |
| ناماں   | ڈھلائی                        | ڈھلائی   |
| در مسابقه کشتی مغلوب شدن۔ شکست خوردن۔ ناکام   | ڈھلائی                        | ڈھلائی   |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| شدن  | دھل (نام: ایلین) | دیر۔ تاخیر                                    |
| دھا مارنی (آمیڈ کی)                              | دھلکنا (آمیڈ کی) | سریدان۔ سر خوردن۔ بندوق رفتن۔ لیز خوردن۔      |
| باصدای بلندال د زاری کردن                        |                  | ازدست (کسی) گر مٹن                            |
| دھا لاعلانی (آمیڈ کی)                            |                  | دھل کرنی/دریکرنی                              |
| بندوق ریان کردن                                  |                  | درنگ کردن۔ توقف کردن۔ تاخیر (آمیڈ کی)         |
| دھا لئلا (آمیڈ کی)                               |                  | کردن۔ تعویق انداختن                           |
| در مسابقه کشتی حریف را مغلوب کردن                |                  | دھل دئی (آمیڈ کی)                             |
| دھا ہلان (آمیڈ کی)                               |                  | شل کردن۔ ول کردن۔ تخفیف دادن                  |
| دیران کردن۔ لکھی خراب کردن۔ برہم زدن۔ محوك       |                  | دھل مٹھ کرنی (آمیڈ کی)                        |
| کردن۔ از میان بردن۔ بد نما کردن۔ الغا کردن۔ بد م |                  | درنگ کردن۔ تاخیر کردن۔ دیر (راہ) رفتن۔ فس     |
| ہادم   |                  | فس کردن۔ بے ہودہ وقت گذرانیدن                 |
| دھا ہل (ہل)                                      |                  | کاہل۔ شل                                      |
| قلب۔ پیکر۔ ہیکل۔ خاک (نام: ایلین)                |                  | دھل کرنا (آمیڈ کی)                            |
| دستے۔ گردہ۔ زمرة                                 |                  | لیت کرند۔ ٹل کردن                             |
| دھانی (نام: ایلین)                               |                  | تمہیل (آمیڈ کی)                               |
| دھا سب   |                  | کم کوش (ہل)                                   |
| دھارس دئی (آمیڈ کی)                              |                  | دھلی گندھ مارنی (آمیڈ کی)                     |
| تلی دادن۔ آرام کردن۔ ساکن کردن                   |                  | شل بستن                                       |
| دھا ل (آمیڈ کی)                                  |                  | دھلے پے جانا (آمیڈ کی)                        |
| پر چکار۔ جن                                      |                  | شل شدن  |
| ذوباب کردن                                       |                  | ڈھیٹ (ہل)                                     |
| دھیگا دھا ہلی (آمیڈ کی)                          |                  | کند۔ کوون۔ کر۔ بی حس۔ بی عاطفہ۔ شوخ چشم۔      |
| دل سر دشدن۔ مایوس شدن۔ از میان رفتن حس           |                  | بی حیا۔ بی احتیاط۔                            |
| شامت   |                  | ڈھینڈا (آمیڈ کی)                              |
| شکم  |                  | شوخ چشمی۔ بی حیائی۔ بی احتیاطی۔ بی حسی۔ کندی۔ |
| دھنڈ (نام: بھ)                                   |                  | کوون۔ کری                                     |
| باردار شدن۔ حاملہ شدن۔ آہتن                      |                  | کلوخ  |
| دھنڈ کرنا (آمیڈ کی)                              |                  |   |
| آہتن کردن۔ حاملہ کردن۔ باردار کردن۔ بارور        |                  |   |
| کردن   |                  |   |
| دھنڈ پیڑ (نام: ایلین)                            | درد شکم          |   |
|  |                  |   |

ਛੁਕਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰੂਹਕਨਾ  
 ਰਿਦਨ—ਵਾਰਦਨ—ਅਮਨ  
 ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ (ਭੁਨੀ) ਰੂਹਕਵਾਸ ਜਵਾਬ  
 ਛੁੱਚਰ (ਇਸ਼ਿਲੀ) ਰੂਹ੍ਗਰ  
 ਜਿਲੇ ਬਾਈ ਗਰੀਬ—ਤ੍ਰਫ਼ ਵਜੀ—ਗਰੀਜੀ—ਏਕਾਲ ਤਾਥੀ—  
 ਜ਼ਲੋਗਿਰੀ—ਮਮਾਨੁਤ  
 ਛੁੱਚਰ ਡਾਹੁਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰੂਹ੍ਗਰ ਰਾਹੀਂ  
 ਖਿਰਦੇ ਗਿਰੀ ਕਰਨ—ਇਬ ਜੀਵੀ ਕਰਨ—ਖਰਦੇ ਗਰ੍ਫ਼ਨ  
 ਜੁਨਿਦੇ (ਵਿਵ) ਰੂਹਨਦਾਵ  
 ਛੁੱਡਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰੂਹੁਨਦਾ  
 ਅਫ਼ਤਾਸ਼—ਜ਼ਿਗੁ ਕਰਨ—ਵਾਜੁਨ—ਜੁਨੀਦਨ  
 ਛੁੰਡ—ਭਾਲ (ਇਸ਼ਿਲੀ) ਰੂਹੁਨਦ ਬਹਾਲ

ਛੇਰ (ਭੁਨੀ) ਰੂਹੀ ਰਾਹੀਂ  
 ਛੇਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਹੀਰ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ  
 ਛੇਰ ਲਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰੂਹੀਰ ਰਾਹੀਂ  
 ਅਨਾਰਦਨ—ਅਨਾਸ਼ਨ—ਅਨਾਸ਼ਨ—ਕੁਪ ਕਰਨ—ਤੱਲ ਕਰਨ  
 ਛੋਗੀ (ਵਿਵ) ਰੂਹੁਨਗੀ  
 ਰਿਆਕਾਰ—ਕੀ ਕੇ ਦਰਕਾਰ ਹਾਮਕੁਵਨਦਰੋਨਾਕੀ ਕਨਦ  
 ਰਹੀਲ—ਕੁਸ—ਤ੍ਰਿਲ—ਨਕਾਰਾ (ਭੁਨੀ) ਰੂਹੁਲ  
 ਤੱਲਕ—ਤੱਲਕ (ਇਸ਼ਿਲੀ) ਰੂਹੁਲਕੀ  
 ਦੱਮਲ—ਦੱਮਲ ਜ਼ਿਲੀ (ਵਿਵ) ਰੂਹੁਲਕੀ  
 ਦੱਲ ਬਾਝ—ਦੱਮਲ ਜ਼ਿਲੀ (ਵਿਵ) ਰੂਹੁਲਕੀ  
 ਲੱਕੰਗ (ਵਾਕਾਸ਼) ਰੂਹੁਲਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਵਰ  
 ਛੇਲ ਵਸਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰੂਹੁਲ ਵਾਹਾਨਾ  
 ਨਕਾਰਾ ਜ਼ਿਲੀ—ਨਕਾਰਾ ਕੁਬਿਦਨ  
 ਤ੍ਰਿਲ ਜ਼ਿਲੀ—ਤ੍ਰਿਲ—ਨਕਾਰਪੀ (ਭੁਨੀ) ਰੂਹੁਲੀ

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
| آئلک   | نسبت   | آپڈی (ن، ایلکس)              | لوح                                      |
| آسکری کرنی (آمیڈ کی)                         | آسکری کرنی (آمیڈ کی)                         | آسکریاں (ن، ایلکل، بہ)       | الواح                                    |
| آچاک کردن                                    | آچاک کردن                                    | آسٹرینا (ن، ایلکل، بہ)       | درانداز                                  |
| آسما (ن، ایل)                                | آسما (ن، ایل)                                | آسٹرینا لائٹ (آمیڈ کی)       | آسٹرینا کردن                             |
| آسٹریڈ لیاٹ (آمیڈ کی)                        | آسٹریڈ لیاٹ (آمیڈ کی)                        | آسٹریڈ لائٹ (آمیڈ کی)        | آسٹریڈ کردن                              |
| آدم نمودن۔ قبول زحمت کردن در آمدن و روان شدن | آدم نمودن۔ قبول زحمت کردن در آمدن و روان شدن | آدمہ آمن (آمیڈ کی)           | ستوہ آمدن                                |
| آہی (ن، ایلکس)                               | آہی (ن، ایلکس)                               | آہک کرنا کے نوں نے (آمیڈ کی) | آجاف                                     |
| آہی کرنا (آمیڈ کی)                           | آہی کرنا (آمیڈ کی)                           | آہکھے دا (آمیڈ کی)           | زیربند (آیل)                             |
| آرٹشکن۔ دوتاشدن                              | آرٹشکن۔ دوتاشدن                              | آہکارا کرنا (آمیڈ کی)        | آہکار کردن                               |
| آہیخانہ (ن، ایل)                             | آہیخانہ (ن، ایل)                             | آہکھن (آمیڈ کی)              | فروہیدن۔ تھاڑا کردن۔ تحریک کردن۔ برائیشن |
| آکسیور (آمیڈ کی)                             | آکسیور (آمیڈ کی)                             | آہکھے حاصل کرنا (آمیڈ کی)    | آہکھے حاصل کردن                          |
| آکرر کرنا (آمیڈ کی)                          | آکرر کرنا (آمیڈ کی)                          | آہکھی (آمیڈ کی)              | آہکھت جانی                               |
| آکردن  | آکردن  | آہکھی (آمیڈ کی)              | آہکھی (آمیڈ کی)                          |
| آکریور کرنی (آمیڈ کی)                        | آکریور کرنی (آمیڈ کی)                        | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آنکھ کردن۔ سخن راندن                         | آنکھ کردن۔ سخن راندن                         | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آکسلیڈ (آیلکس)                               | آکسلیڈ (آیلکس)                               | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آنکوبت۔ عذاب۔ سزا ای اعمال بد                | آنکوبت۔ عذاب۔ سزا ای اعمال بد                | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آکسلیڈ دینی (آمیڈ کی)                        | آکسلیڈ دینی (آمیڈ کی)                        | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آردسر داردن                                  | آردسر داردن                                  | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آنکلا (آیل)                                  | آنکلا (آیل)                                  | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آنکل۔ معزال۔ فک                              | آنکل۔ معزال۔ فک                              | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آنکل۔ پکتان                                  | آنکل۔ پکتان                                  | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آنکڑی (آمیڈ کی)                              | آنکڑی (آمیڈ کی)                              | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| آنکڑی ورج تو نا (آمیڈ کی)                    | آنکڑی ورج تو نا (آمیڈ کی)                    | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |
| برابر کشیدن                                  | برابر کشیدن                                  | آہکھے کار جو نا (آمیڈ کی)    | آہکھے کار جو نا                          |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| تउپر ہوں (امیڈ کی)  | اقامت خیام (امیڈ کی) تنبولارے نے      |
| مستعد بودن۔ عازم شدن۔ حاضر شدن برائی<br>ہر کاری۔ دامن بالا زدن۔ | تمبکو حاصل کرنا (امیڈ کی) تنبولارے نے |
| تउپردا (نام: ایلین) تبت پرستا<br>مستعدی                         | تبکو (نام: پا) تماکو                  |
| تउپر جواب بچپنی (ہی) تبت پر بدھی<br>حاضر جواب                   | تبکو کشیدن (امیڈ کی) تماکو پینا       |
| تمدیر کرنی/ رائے دینی/ دلیل دینی<br>(امیڈ کی)                   | قابل رحم (ہی) ترس یوگ                 |
| تدریجی رائے زدن   | علم مناظرہ (پا) ترک شاستر             |
| تندور ر دل (نام: پا) تندور                                      | ترک کرننا (امیڈ کی) ترک کرنا          |
| فرن   | استدلال                               |
| تجور (ہاکاں) تندور دیا بکن                                      | ترکمائی گل (نام: ایلین) ترکمیسی گل    |
| تندور و روج روئی لاؤنی<br>(امیڈ کی)                             | حرف حسابی                             |
| ہان بستن  | از جابر داشتن (امیڈ کی) ترقی دینا     |
| ہان تفتان (ہاکاں) تندوری پروٹھا<br>تندوری پرنسٹن                | درودگر (پا) ترکان                     |
| راتبہ خور (ہی) تختواہدار<br>تختواہ لائی (امیڈ کی)               | موج۔ خیز آب۔ آب خیز (نام: ایلین) ترنگ |
| تختواہ گرفتن  | امواج (نام: ایلین، سب) ترنگاں         |
| تندوری کرننا (نام: ایلین)                                       | تکتما کرننا (امیڈ کی) ترجمہ کرنا      |
| جمد۔ سی   | کسوٹ گری کردن                         |
| گرم جوشی (نام: پا) تپاک   | چل و سہ (ہی) ترتعلی                   |
| تھریک کرننا (امیڈ کی)   | چل و سوم (ہی) ترتیبوں                 |
| منہا کردن   | نق (نام: ایلین) ترتب                  |
| تباہ کر دے لنا (امیڈ کی)  | نق دارن (امیڈ کی) ترتیب دینی          |
| خاک بر آوردن  | ترنا (امیڈ کی) تر                     |
| تباہ کرنا (امیڈ کی)   | دست انداختن۔ شناوری کردن              |
| ہدر دادن۔ ہدر کردن  | شناوری کردن۔ شناوری کردن              |
| تباہی مصاہیلی (امیڈ کی)   | تابوغ۔ دابوغ۔ ہندوانہ۔ دلاع           |
| فاسد کردن   | رقت (نام: ایلین) ترتا/ کوتا/ کولتا    |
| خیمه (نام: پا) تنبولارے   | واردی (نام: ایلین) تراوی              |
| تمبک لایا (امیڈ کی)   | تولاس (نام: پا) تراس                  |
| سر پر دہ زدن۔ چادر زدن۔ خیمه زدن                                | تولاسیا جانا (امیڈ کی) تراشیا جانا    |

|                               |                      |                            |   |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| ਤਾਸ ਖੁਰਦਨ                     | ਤਾਜ਼ਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ) | ਤਾਜ਼ਗੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ) ਹਾਜ਼ੀ | ਲਾਫਾਫਤ - ਨੱਚਾਰਤ                           |
| ਤਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)             | ਤਰਾਵਤ                | ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਗੂਰ (ਵਾਕਾਸ਼)       | ਫੀਲੀ                                      |
| ਤਰੇਲ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)            | ਤ੍ਰਲ - ਥਿਨਮ          | ਤਾਜ਼ਾਪਣ (ਨਾਂ, ਪੁ)          | ਤਾਜ਼ੀ                                     |
| ਤਰੈਤ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)            | ਥਿਲਿਥ                | ਤਾਣਾ-ਪੋਟਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਤਾਰੋਪੂ - ਪ੍ਰਦਾਤਾ                          |
| ਤਲਛਟ - ਦਰਦ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)      | ਥਿਲਿਥ                | ਤਾਣਾ-ਬਾਣ (ਨਾਂ, ਪੁ)         | ਲੁਝ                                       |
| ਤਲਵਾਰ ਕਵਲੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਧਾਤੁ                 | ਤਾਪ (ਨਾਂ, ਪੁ)              | ਤਿਥ                                       |
| ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰ (ਵਾਕਾਸ਼)    | ਤਲਵਾਰੀ ਸਿੰਘ          | ਤਾਬ (ਨਾਂ, ਪੁ)              | ਤਿਥ                                       |
| ਲੰਬਿਸ਼ੀਰ - ਕਨਾਰ ਤੀਜ਼ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ   | ਤਲਵਾਰੀ ਸਿੰਘ          | ਤਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)             | ਨਿਆਸ ਅਚੂਰ                                 |
| ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰ (ਵਾਕਾਸ਼)         | ਤਲਵਾਰੀ ਸਿੰਘ          | ਤਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)             | ਤਾਬਾ ਦਾਰ ਹੋਣਾ / ਨਾਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ               |
| ਦਮ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ                     | ਅਬ ਗੀਰ               | ਤਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)             | ਖਾਕ ਬੁਦਨ                                  |
| ਤਲਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)                 | ਤੁਲਾ                 | ਤਾਬਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)             | ਤਾਬਾ ਦਾਰੀ                                 |
| ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਤੁਲਾਸ਼               | ਤਾਬਰ                       | ਅਤਾਊਂ - ਮੁਖੀ - ਫਰਮਾਂ ਪੜੀ                  |
| ਤਲਾਫੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਤੁਲਾਫੀ               | ਤਾਬਰ                       | ਖਾਸ - ਮਸ                                  |
| ਤੱਲੀਨਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)         | ਤੁਲੀਨਤਾ              | ਤਾਮੀਲ                      | ਮਹੀਨੀ ਦਾਢਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      |
| ਤਵਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)                 | ਤਾਬ                  | ਤਾਰ                        | ਤੁਲੀਨਤਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |
| ਤਵਾਨ ਲੈਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)           | ਤਾਬ                  | ਤਾਰ                        | ਤੁਲੀਨਤਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |
| ਤਵੱਜੇ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਤਾਬ                  | ਤਾਰਾਂ                      | ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰ ਕਰਨਾ                     |
| اعਤਾਕਰਦਨ - ਲਗਤ ਨਮੂਦਨ          | ਤਾਬ                  | ਤਾਰਾਂ                      | ਤਾਰਸਾਰਾਸਤ ਕਰਨ - ਹਮ ਆਹੰਕ ਕਰਦਨ ਤਾਰਾਵਾਈ ਸਾਰਾ |
| ਤਵੀਤ (ਨਾਂ, ਪੁ)                | ਤਾਊਂ                 | ਤਾਰਾਂ                      | ਤਾਰਾਵਾਈ ਸਾਰਾ                              |
| ਤੜ੍ਹਫਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਤੁਲਿਨ                | ਤਾਰੂ                       | ਤਾਵਾਰ - ਤਾਵਾਰ                             |
| ਤਾਸ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)             | ਕਾਂਗੜੀ               | ਤਾਰੇ                       | ਕਾਕੜ - ਖੁਮੜ                               |
| ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਤਾਸ਼                 | ਤਾਰੇ                       | ਤਾਰੇ ਦਾ ਠਿਮਾਟਮਾਉਣਾ                        |
| ਤਾਵਾਨ                         | ਤਰਕ ਬਾਜੀ             | ਤਾਰੇ                       | ਤਾਰੇ                                      |
| ਤਾਹਨਾ (ਨਾਂ, ਪੁ)               | ਤਾਗ ਪਾ               | ਤਾਲ                        | ਤਾਲ ਦੇਣਾ                                  |
| ਤਾਹਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਤੁਹਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ | ਤਾਲ                        | ਤਾਲ                                       |
| ਗੁ਷਼ਦਾਨ                       | ਗੁ਷਼ਦਾਨ              | ਤਾਲ                        | ਤਾਲ                                       |
| ਮੁਰਮ                          | ਮੁਰਮ                 | ਤਾਵਾਨ                      | ਤਾਵਾਨ                                     |
| ਦੱਕਿਸਮ                        | ਦੱਕਿਸਮ               | ਤਾਵਾਨ                      | ਤਾਵਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨਾ                            |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| غرامت دادن۔ غرامت کشیدن                     | پر آنندن                      |
| उङ्ग जाणा (آمیڈ کی)                         | —                             |
| فراست۔ زیر کی۔ تیز بھنی۔ اور اک۔ کیاست      | —                             |
| उङ्गीਆں مارنا (آمیڈ کی)                     | آبرو بردن۔ آب کسی رخن         |
| خماک زدن                                    | قشقہ                          |
| उङ्गी مارنا (آمیڈ کی)                       | —                             |
| کف زدن۔ کف دست ہا را بہم زدن تابانگ بر آئید | لخیدن۔ لغزیدن۔ لیزیدن۔ چوخیدن |
| ٹیڈی جی چڑھنا (آمیڈ کی)                     | ٹیلکا عینا (آمیڈ کی)          |
| ابرو ترش کردن۔ ابرو چینیں گرفتن             | لیز اندن۔ لغزاندن             |
| ٹیڈی جی پاٹی لی (آمیڈ کی)                   | ٹھال                          |
| چین انحمدن                                  | سمسم۔ کنجد                    |
| ٹیआگ (نہ) ٹیگ (نہ) پر                       | خال                           |
| ٹیआگی (ہی) نہ پر                            | ٹیہون۔ سی                     |
| ٹیआر۔ آمادہ                                 | سی ام                         |
| ٹیआر ہولنا (آمیڈ کی)                        | تیز فضم                       |
| میان بعن۔ بجھز شدن                          | سیم۔ سوم                      |
| ٹیاگا کرنا (آمیڈ کی)                        | جاد                           |
| حاضر کردن۔ ساز کردن۔ آمادن۔ چاق کردن        | شدت (نہ) ٹیکڑا/ٹیکڑتی         |
| پاپ کاپ (ہی) تیار بر تیار                   | ٹیکڑتا/پر سंڈتا               |
| ٹیਆگی (نہ) ٹیاری                            | حدت                           |
| ٹیاگی۔ ٹیجا بھاگ ۱/۳                        | ہاک۔ خدگ                      |
| (ہی)  | تیر رنگن                      |
| ٹیث   | تیر چالا عینا                 |
| ٹیکون (نہ) ٹیکسٹ                            | مسماة                         |
| ٹیکون                                       | تیویں                         |
| ٹیکھا                                       | مستورات                       |
| ٹیز   | ہدیہ                          |
| ٹیخا کرنا (آمیڈ کی)                         | ابدا نمودن                    |
| ٹیخی ٹلہوار                                 | ٹیخہ دینا                     |
| صارم  | ٹیخہ لیزنا                    |
| دران  | ہدیہ آوردن                    |
| ٹینر بیندر کرنا (آمیڈ کی)                   |                               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| ڈھڈے (ن: پ: ب)                               | ہدایا                                  | یکروز نیايد"                           |
| ڈھمٹ لائیں (آمیڈ کی)                         | تیئیاں (ہ)                             | پست و سوم                              |
| شانچ بندی                                    | تےہ تھ                                 | العطش                                  |
| ڈھاڈے لائی (ہا کا)                           | برائیا                                 | جلال                                   |
| ڈھاڈے (پڑ)                                   | از شما                                 | پابالا نہار                            |
| ڈھانوں (پڑ)                                  | شما را                                 | سی و سر                                |
| ڈھ (ہ)                                       | فر دمایہ۔ دون۔ کمینہ۔ سفلہ۔ حقیر۔ ناکس | سی و سوم                               |
| ڈھ سماشنا (آمیڈ کی)                          | چھ سمجھنا                              | سیز دہم                                |
| چشم کم دیدن۔ خوار داشن۔ اختفار               | تیز بودن                               | سیز دہ                                 |
| ڈھ ہونا (آمیڈ کی)                            | تیز ہونا                               | عصار۔ رو غن گر                         |
| ڈھڈا (ن: ایل)                                | فر دمایگی۔ دونی۔ پستی۔ خواری           | تاق خوردن                              |
| ڈھڈہ و ستو (ہا کا)                           | زیار میانہ                             | تاق خوردن                              |
| ڈھما (ن: پ)                                  | شرمگ۔ حظل                              | سانگ۔ شاور                             |
| ڈھے (ن: پ: ب)                                | صاب                                    | تمام                                   |
| ڈھ فور آنا فانا (ہ)                          | معا۔ فور۔ آنا فانا                     | لبید۔ علیقہ                            |
| ڈھڈ/بیٹا کیوں کیوں دے (کیہی)                 | ترنٹ                                   | رفار۔ سلوک۔ رو ش۔ طریقہ حرکت۔ خرامیدگی |
| ڈھنا (آمیڈ کی)                               | بیچون و چرا                            | وزن                                    |
| گامیدن۔ راہ رفتہ۔ گام زدن۔ سفر کردن          | کیوں دے                                | ڈھلنا (آمیڈ کی)                        |
| مقایہ۔ موازنہ                                | تک                                     | سنجیدن۔ وزن کردن۔ تعین وزن و ثقل کردن  |
| مقایہ کردن (کی) (آمیڈ کی)                    | تک کرنی                                | اوزان                                  |
| ڈھنا کردن (آمیڈ کی)                          | ٹلا                                    | قبانہ                                  |
| قطاس۔ ترازو۔ میزان                           | ٹلا                                    | گلاندن۔ شکستن                          |
| ڈھنے (ہ)                                     | پست و سر                               | قلت                                    |
| ڈھنا (ہ)                                     | تے ای آ                                | قدیفہ۔ حول                             |
| غب۔ جی الغب: ”بی کہ یکروز آید یعنی یکروز آید | تے ای آ                                | تلیا                                   |

بھر تھوہ (ن: ب) یاد آوری۔ راه حل۔ قاعدہ  
بھر تھوہ سر (کی) (ہی) از روی اسلوب۔ باقاعدہ  
بھر-ٹیکالا (ن: ب) جای تقریبی۔ حدود تقریبی۔ موقعیت  
بھک جانا (امیڈ کی) درماندنا۔ عاجز شدن۔ بے چارہ و بی نواشدن۔ بال  
بھکر جانا (امیڈ کی) خستہ کردن۔ از پادر آوردن۔ فرسودن۔ کسل  
بھکر جانا (ہی) خستہ کنندہ۔ کسل کنندہ۔ خستگی آور  
بھکاٹ (ن: ب) درمانگی۔ ناتوانی۔ کمزوری۔ دل خستگی۔ کو فنگی  
بھکیا (ہی) خستگی دور کردن۔ راحت کردن  
بھن جامہ (ن: ب) لغوب۔ مانگی  
بھوہاں (ن: ب) بھکیوال لاحڑا  
بھوہاں لاحڑا (امیڈ کی) خستگی دور کردن۔ راحت کردن  
بھوہاں لاحڑا پن (ن: ب) شیر جامہ  
بھوہاں لاحڑا پن (ہی) گرفتہ زبان۔ لکنت زده  
بھوہاں لاحڑا پن (ن: ب) درمانگی سخن۔ زبان گرفتگی۔ لکنت زبان  
بھلاق۔ شپن۔ لطمہ۔ سیلی  
بھپڑ

لطمہ خوردن (امیڈ کی) تھپڑ کھانہ بھالا  
بھپڑ مارنا (امیڈ کی) تھپڑ مارنا  
تپانچہ زدن۔ لطمہ بر صورت وارد آوردن۔ سیلی زدن  
بھسہ کپہ (ن: ب) تھبہ  
بھملا (امیڈ کی) تھمنا  
ادامہ دادن۔ تقویت دادن۔ پشتیبانی کردن۔ الیت  
کردن۔ مکث کردن۔ درگ کردن۔ سکته شدن  
بھمٹیلنا (امیڈ کی) پشتیبانی کنائیدن۔ تحولی دادن۔ واگذار کردن۔ حوالہ  
کردن۔ دادن۔ رساندن  
بھمی دادن (امیڈ کی) تھمی دئی دئی  
بھرکنا (امیڈ کی) ارتعاش داشن۔ مرتعش بودن۔ بنا خوردن۔ نوسان  
کردن۔ اہتزاز داشن  
بھرگاٹ (امیڈ کی) ارتھر تھراٹ  
بھرگاٹ (ن: ب) اہتزاز داشن  
ارتعاش۔ لرزش  
بھرماہیٹر (ن: ب) مقیاس المحرارت  
بھلہ (ن: ب) زیر۔ پائین  
بھڑے بھیلن (امیڈ کی) تھڑے بننا  
درکمین نشتن۔ کمین کردن۔ درکمین بودن  
بھاہ پاکنی (امیڈ کی) تھاہ پاکنی پاٹیلی  
اندازہ گرفتن۔ عمق پیمائی کردن۔ بہ کنه چیزی  
ریبدن۔ درک کردن۔ بغل کردن۔ با خلاق درونی  
کسی پی بردن

|   |              |                               |                                      |
|---|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| بُشْر میں (بیہمی) تھاں سر (بیہمی)                         | بُجای موزوں  | بُشْر بُل (نام) تھک           | لعاں۔ آب دہن۔ خدو۔ خیو               |
| بُشْر سُڑنا (ٹੁٹتی ہوئی دا)                               |              |                               |                                      |
| جاںدا ختن (آمیڈ کی) تھاں سر جن (ٹھی پھری دا)              | جاںدا ختن    |                               | (آمیڈ کی) تھک کے چٹانا               |
| جا و بی جا (بیہمی) تھاں کھاں کھاں                         | جا و بی جا   |                               | دست کشیدن از۔ ترک کردن۔ الغا کردن    |
| باں-ٹیکالا (نام بیہمی) تھاں کھاں                          | مقام و مستقر | بُشْر لان (آمیڈ کی) تھک       | بُشْر لان (آمیڈ کی)                  |
| باں-باں (نام بیہمی) تھاں تھاں                             | جا بجا       |                               | خدو انداختن۔ تف انداختن۔ جاوائیدن    |
| باں دے لئی (آمیڈ کی) تھاں دئی                             | جا دادن      | بُشْر دان (نام بیہمی) تھک دان | بُشْر دان                            |
| باں لے لئی (آمیڈ کی) تھاں لئی                             |              |                               | تف دان۔ سلف دان۔ خلط دان             |
| قطعہ زمین خریدن۔ جانشین شدن۔ دارث شدن۔                    |              |                               | پوز۔ پوزہ                            |
| درجای (چیزیا شخص دیگر) قراردادن                           |              |                               | بے ہ تھک                             |
| بُشْر لان (آمیڈ کی)                                       |              |                               | تو وہ خاک۔ خاک ریز۔ پشتہ۔ تپہ خاک    |
| منصب کردن۔ جا دادن۔ گماشتن۔ نامزد کردن                    | دست کو فتن   |                               | جوال                                 |
| بُشْر میں مارنی (آمیڈ کی)                                 |              |                               | بے لہا (نام بیہمی) تھکیلا            |
| بُشْر طاس   |              |                               | بے لہا (نام بیہمی) تھکیلا چڑھے دا    |
| بُشْر بیٹھا   |              |                               | ابنانہ۔ چرم دان                      |
| بُشْر مواضع   |              |                               | بے لہی (نام بیہمی) تھکیلی            |
| بُشْر انحراف  |              |                               | ہمیان۔ ہامیان۔ ابان۔ آمیان۔ کیسہ پول |
| بُشْر رقص۔ پیوند  |              |                               | بے لہی بھالی کرنی کرنی (آمیڈ کی)     |
| بُشْر تارخ  |              |                               | کیسہ پاک انداختن                     |
| بُشْر تھک   |              |                               | بُشْر (نام بیہمی) تھک                |
| بُشْر تھک کو اس (آمیڈ کی)                                 |              |                               | کی۔ کیابی۔ بی کفایتی۔ قلت            |
| بُشْر تلو تو خوردن۔ یله رفتن۔ گچ خوردن۔ متزلزل            |              |                               | زاخل۔ ز قوم                          |
| بُشْر بودن۔ گمراہ شدن۔ سرگردان شدن                        |              |                               | بے ک مال و پچھے دلے (آمیڈ کی)        |
| بُشْر تھک کو اس (بیہمی)                                   |              |                               | جملہ فروشی                           |
| بُشْر تھک کو اس سازندہ۔ ناستوار۔ بیٹھات۔ نامہوار          |              |                               | عمدہ فروش (نام بیہمی) تھکوک عپاری    |
| بُشْر تھک کو اس (آمیڈ کی)                                 |              |                               | جلف                                  |
| بُشْر تھک ایعنی   |              |                               | بے کا (بیہمی) تھکو تھاپن             |
| بُشْر تھک کو اس کنایدنا۔ متزلزل پیدا کنایدنا۔ خطا کنایدنا |              |                               | جو ف                                 |
| بُشْر جانوں (آمیڈ کی) تھکینا/ تھکیونا                     |              |                               | بے ڈیلہ (بیہمی) تھکوڑ دلا            |

ક્રમ ઘરની - ટેગ ઘરની      બેન્ન ખાઉણા (અમિત વિ) ત્થારા કાહાં  
 ક્રમિલ - ક્રમ - એન્ડ ક - ક્રમ ક્રદ - ટેક (જીવ) ત્થારા ત્થારા ખરદન  
 બેન્ન બહુત      બેન્ન બહુત (વિલ્લ) ત્થારા બહુત બેન્ન બહુત

دیکھنا (نامِ ایسٹلین)

افضال۔ میربانی۔ لطف و کرم۔ رحمت

دیکھنا کرنی (نامِ ایسٹلین) دیا کرنی (امیت کی)

رجیم۔ رحم دل (ہی) دیوالان

دسم (ہی) دس

دسم آدمی (ہاکاں) دس آدمی

عشرہ رجال۔ ده مرد

دسم کوئن (نامِ ایسٹلین) دسکون

دسم گول (ہی) دس گل

رخ۔ اسال (پ) دست

دسم تکار (نامِ پ) دست کار

رخ زدن (نامِ ایم) دست گلنا

دسم دین (ہاکاں) دس دن

دسم دیپ (پ) دسوندھ

دسم دن (ہی) دسوال

دسم دن (ہاکاں) دسوال بھاگ

ماست۔ جفرات (پ) دھی

ماست بھن (نامِ ایسٹلین) دھی جاؤنا

دھیں (نامِ پ) دیج

دے بھن (نامِ پ) دکھن

دے بھنی (ہی) دکھنی

دے بھل دے لنا (امیت کی)

دخلات کردن۔ مدائلہ کردن

فساد۔ فتنہ۔ گزند۔ خود سری (پ) دنگا

دے گا کرنا (امیت کی)

ہو پھی بازی کردن (امیت کی)

دگنا دلنا دلنا (امیت کی)

فریشن۔ فریب دادن۔ گراہ نمودن

کیفر۔ پادراس۔ سزا (پ) دنڈ

دے دنڈ دنڈ دنڈ (امیت کی)

سیاست کردن۔ عقوبت کردن۔ سزا دادن۔ شکنجہ

کردن

کیفر سیدن (امیت کی)

قابل سزا۔ واجب العزیر (ہی) دنڈیوگ

دنداں (پ) دند

دے دند صاف کرنا (امیت کی)

رفت

انواہ (نامِ ایسٹلین)

چاہیدن (امیت کی)

دے دنڈ کھٹے کرنے (امیت کی)

دنداں کند کردن

دے دنڈ چسائی (امیت کی)

دنداں رنجش۔ دنداں مزد۔ مزد دنداں

دے دنڈ پیہننا (امیت کی)

دنداں از خشم خائیدن۔ خرچ خرچ کردن

ضراس۔ درد دنداں (نامِ ایسٹلین)

دے دنڈ چنلا (امیت کی)

دنداں بر کندن۔ دنداں شکعن۔ مغلوب و ذلیل

کردن

دندان زدن (امیت کی)

|  |                        |                                    |
|--|------------------------|------------------------------------|
| دندان دا بھٹے ہے جاں                       | دندان دا کھٹے جو جاں   | (ہاکاں) درختاں دے ہلے پھل          |
| (امیت کی)                                  | کند شدن دندان          | سر درخت                            |
| دھنگری ملائیم (ہاکاں) دفتری ملازم          | کارمند                 | عرض معدوض (نام، ایسٹلین)           |
| دھن کرنا (امیت کی)                         | دفن کرنا               | درخواست (نام) درج کرنا             |
| برخاک سپردن۔ دفن کردن۔ درخاک کردن          | خرق انداختن (امیت کی)  | دارد کردن (امیت کی)                |
| دھن جاں (امیت کی)                          | دھن جاں                | درج کرنا (نام) درجہ                |
| دھن/دھن کرنا (امیت کی)                     | دھن/دفن کرنا           | عمرہ                               |
| دفن نمودن۔ درگور گذاشتن۔ درزیر خاک نمادن   | دفن نمودن              | جامہ ساز۔ خیاط                     |
| مردہ را                                    |                        | دھنی (نام) درجہ                    |
| سطوت۔ جباری۔ صولت (بھ) (نام) و ببا         | دھن                    | دارج                               |
| دھنا (نام) و بھ                            |                        | درج                                |
| فشار۔ نفوذ دارن چیزی با چیز دگر            |                        | آئینہ۔ شیشه                        |
| دھن ایلان (امیت کی)                        | فشار دارن              | شیشه گر۔ آئینہ ساز                 |
| دھنا پائیلان (امیت کی)                     | فشار آوردان۔ فشار دارن | قابو پی                            |
| فشار خوردن (امیت کی)                       | فشار خوردن             | دھناری پوشک (ہاکاں)                |
| دھینہ (ہاکاں) دیا ہو یاد ہون               | دھینہ                  | لباس رسی                           |
| دھن بھ (نام) درجہ                          | دھن بھ                 | چڑائی                              |
| دھنوس                                      |                        | باب۔ مدخل                          |
| دھن کندن (امیت کی)                         | جان کندن               | دھنلوک۔ مفلس۔ تھی دست۔ فقیر۔ محتاج |
| دھنی (نام) درجی                            | دھنیز                  | عالی                               |
| دھاما (نام) درما                           | زخم کوس                | دھنی                               |
| دھنک                                       | ناظر                   | سلفت                               |
| دھنگرگان (نام) درٹک                        | ناظرین                 | دھنڈ۔ سوراخ                        |
| دھنگن (نام) درٹش                           |                        | روزن۔ فطور                         |
| فلسفہ۔ بازرسی۔ برسی۔ تعقل۔ تفکر۔ دید۔ نظر۔ |                        | اسپ آپی (بھ) (نام) دریائی گھوڑا    |
| تجربہ                                      |                        | دھنگستی (نام) درٹشی                |
| دھنگن مکتی (نام) درٹش                      |                        | بینش۔ بینائی۔ نظر۔ بصارت           |
| قوت باصرہ                                  |                        | سبھی۔ سبھیت (بھ) (نام) درنہہ پن    |
|  |                        | دھنڈ سمنگلپ (نام) درٹھ سنکلپ       |

|                               |                        |  |  |
|-------------------------------|------------------------|--|--|
| دری                           | زیرا فلن               | دراڈ   | جروان  |
| درست کسوئی (ہاکام) مک صحیح    | درست کسوئی (ہاکام)     | دھا۔ دھار کرنا (امیت کی)                     | دوائی (نام) دوایں                              |
| درست کرنا (امیت کی)           | میزان کردن             | دھےڈواڈ (پوری) دویت وار                      | گرزیدن   |
| دل پڑھ                        | شعب۔ گروہ۔ حزب         | دوئی۔ دوگانگی۔ دوتائی۔ شویت                  |  |
| دلیدن (امیت کی)               | دلیدن                  | دھےڈواڈی (پوری) دویت واری                    |  |
| دلدل (نام) دلدل               | دخل                    | شوی۔ دوتا پرست۔ مشرک                         |  |
| دلدلان (نام) دلدلان           | دخول                   | دیڑھ (پوری) درڑھتا                           | استوار۔ مضبوط۔ پایدار                          |
| دللاں (نام) دللاں             | ذن جلب۔ پڑوندہ         | سیڑھا (نام) دل رکھتا                         | شبات   |
| دللاں (نام) دللاں             | احزاب                  | داہی (نام) دلکھی                             | قابلہ۔ ماں                                     |
| دللاں (نام) دللاں             | داستار                 | داہی گیری (نام) دلکھی کرنی                   | قابلگی۔ ماماں                                  |
| دللاں دل لالی (ہاکام)         | حق انسی                | داہی گیری کرنی (امیت کی)                     | کلفتی بودن۔ کلفتی شدن۔ ماماں کردن۔ قابلگی کردن |
| دلیل (پوری) دلت               | پامال                  | داس  | عبد۔ بندہ۔ برده۔ فدوی (پوری) داس               |
| دلیل/بھیس (نام) دلیل/جھٹ      | جھٹ                    | داسدا  | بردگی۔ غلامی                                   |
| دلیਆ (نام) دلیا               | جشیش۔ جریش۔ آش۔ دلیدہ۔ | داسی (نام) داسی                              | جاریہ  |
| دلیل جاں ثبوت لیدھن (امیت کی) | تعلیل                  | داخ  | زبیب   |
| دلیل جاں ثبوت لیدھن (امیت کی) | جسور۔ جری۔ جگدار       | داخ ل ہوئا (امیت کی) داخ ہوئا                | داردشدن  |
| دلیل جاں ثبوت لیدھن (امیت کی) | جسور (نام) دلیر استری  | داخ ل ہوئا (پوری) داخ ہوئا                   | خاردار   |
| دلیل جاں ثبوت لیدھن (امیت کی) | جسور (نام) دلیری       | داگا دا ر ہوئا (امیت کی) داندھار ہوئا        | حیض شدن  |
| دلیل جاں ثبوت لیدھن (امیت کی) | جسوری کرنی (امیت کی)   | داگا دا ر ہوئا (پوری) داندھار ہوئا (امیت کی) | لکھ دار  |
|                               | جسارت کردن             |  | لکھ افتدان۔ لکھ داشتن                          |
| دارو                          | دارو                   | داج  | درزک   |
| دارو زدن (امیت کی)            | دارو زدن (امیت کی)     | دالا   | جب   |
| دارو زدن (امیت کی)            | دارو زدن (امیت کی)     | دارا پیٹا (امیت کی) داندھیا پیٹا             |  |
| صلابہ کردن۔ سائیدن دارو       |                        |  | دانہ آوردان۔ تخم پدید گشتن در خوشہ غله         |

|                        |                                |                            |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ਦੇਹਨਗੀ - ਉਤਾਰ          | ਖੁਸ਼ਟ                           | ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼) ਵਿਖੇ |
| ਦਾਤਣ ਅਫੀਜ਼             | ਵਾਤਣ                           | ਅਤੇ ਜਮਾਤ                   |
| ਦਾਤਣ ਕਰਨਾ ਆਮਿਤ ਕਿ      |                                | ਦਿਖਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ) ਰਕਾਵਾਂ      |
| ਸਾਕਾਂਦਨ                |                                | ਨਮੂਦਨ                      |
| ਦੇਹਨਦੇ ਮੁੱਖੀ           | ਬੁਝਨਦੇ                         | ਥੁਣਗੇ - ਨਾਕਾਂ              |
| ਦਾਤਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)      |                                | - ਨਮੂਦ - ਨਮੂਦ - ਮੌਤਾਰੀ     |
| ਦਾਤੀ                   |                                | ਦਿਨ                        |
| ਦਸਤ ਕਾਲੇ               | ਦਾਸ                            | ਦਿਨ - ਬਦਿਨ                 |
| ਦਾਦਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)         | ਗੁ                             | ਦਿਨ - ਬਦਿਨ                 |
| ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼) |                                | ਦਿਨ - ਰਾਤ                  |
| ਮਾਰਬੁਰਗ                | ਜਗੇ                            | ਰੋਜ਼ - ਵੇਕਾਨ               |
| ਦਾਨ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)          |                                | ਰੋਜ਼ - ਲਾਈਮ                |
| ਚੰਦੇ                   | ਅੱਖੇ ਦਰ ਰਾਹ ਖਾਇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਦਨ ਵਿਖੇ | ਰੋਜ਼ - ਬ੍ਰੋਜ਼              |
| ਬਿਹਾਰੀ                 | ਬੁਰਦਾਨ ਫਿਰਦੇਹਨ                 | ਚੁਣੌਤੀ                     |
| ਦਾਨਸ਼ੀਲ                | ਫਿਲ                            | ਦਿਮਾਗ                      |
| ਦਾਨ ਪੱਤਰ               | ਨਾਮੇ                           | ਦਮਾਗੀ ਮਿਹਨਤ                |
| ਦਾਨਵਤਾ ਕਰਨੀ            | ਅਮਿਤ ਕਿ                        | ਦਿਲ                        |
| ਦ੍ਰਿਓਂਕਾਨ              |                                | ਦਿਲ ਉਚਾਟ                   |
| ਦਾਨੀ (ਵਿ)              | ਗੋਵ                            | ਦਿਲ ਬੁਧਾਂ                  |
| ਦਾ - ਪੇਚ/ਹਥਿਆਰ         | ਹਰਬ                            | ਦਿਲ ਬੁਧਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ          |
| ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ               | ਫਲਗੀ                           | ਕਿ                         |
| ਦਾਖੇ - ਜੱਕ             | (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)                   | ਦਿਲ ਬੁਧਾਂ - ਦਿਲ ਬੁਧਾਂ      |
| ਦਾੜ੍ਹੀ                 | ਰਿਲੀਸ                          | ਦਿਲ ਹਟਾ ਲੈਣਾ               |
| ਦਾੜ੍ਹੀ ਛੁਟਣੀ           | ਅਮਿਤ ਕਿ                        | ਦਿਲ ਕਨਨ                    |
| ਬੇਤੇ ਨੂਰਸ              |                                | ਦਿਲ ਚਮਦੀ                   |
| ਦਿਓਰ                   | ਖੁ                             | ਦਿਲ ਚਸਪੀ                   |
| ਦਿਸ - ਹੱਦਾ             | ਅਫ਼                            | ਦਿਲ ਚਸਪੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ        |
| ਦਿਸ਼ਾ                  |                                | ਦਿਲ ਚਸਪੀ ਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ  |
| ਤੰਗ                    |                                | ਦਿਲ ਚਸਪੀ ਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ  |
|                        |                                | ਦਿਲ ਚਸਪੀ ਰਖਣੀ              |
|                        |                                | ਦਿਲ ਜੋਈ ਕਰਨੀ               |
|                        |                                | ਦਿਲ ਜੋਈ ਕਰਨੀ               |
|                        |                                | ਦਿਲ ਤੰਗ ਹੋਣਾ               |
|                        |                                | ਦਿਲ ਗੁਰਕਾਨੀ                |

|                       |                                   |                        |                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| دل شکستن              | دل توڑنا (امیت کی)                | خ من سوخته             | دیواں لیਆ (ہی) دوالیہ پا (ن)    |
| دیل دا گواہار         | (ہوا کا نہیں) دل داغبار           | دیں-دیاں               | دیں-دیاں (ہی) دین دیاں (ن)      |
| دیل دا گواہار کڈھنا   | دل داغبار کڈھنا (امیت کی)         | غريب پر در             | غريب پر در                      |
| دودل خالی کر دن       | خلاصی خاطراز پریشانی (ہی)         | نواز                   | نواز                            |
| دیل دا بے کار ہو جانا | دل دا بے کار ہو جانا (امیت کی)    | دیں-دیاں               | دیں-دیاں (ہی) دین دیاں (ن)      |
| فرود نیامدن دل        | فرود نیامدن دل (امیت کی)          | چ اغان                 | چ اغان (ہی)                     |
| دیل دی وھڑکن          | دیل دی وھڑکن (ہی)                 | دیپماں                 | دیپماں (ہی)                     |
| خفق۔ خفقان۔ پیش دل    | خفق۔ خفقان۔ پیش دل (امیت کی)      | چ اغان کر دن           | چ اغان کر دن                    |
| دیل دی بھروس کڈھنی    | دل دی بھروس کڈھنی (امیت کی)       | طويل۔ دراز۔ طولانی     | طويل۔ دراز۔ طولانی (ہی)         |
| دق دل بر آور دن       | دق دل بر آور دن (امیت کی)         | دیر گھ                 | دیر گھ آج یو (ہوا کا نہیں)      |
| دیل دع خاٹیں          | دل دع خاٹیں (امیت کی)             | عمر طویل۔ زندگانی دراز | عمر طویل۔ زندگانی دراز (ہی)     |
| رنجہ کر دن            |                                   | دیہوت                  | دیہوت (ہی)                      |
| دیل خفقان             | دل دھڑکنا (امیت کی)               | مشکواہ۔ مٹکات          | مشکواہ۔ مٹکات۔ چ انداں۔ چ اغ پا |
| دیل نوس کانے رکھنا    | دل نوس کانے رکھنا (امیت کی)       | سرانج۔ چ اغ            | سرانج۔ چ اغ (ہی)                |
| پاس دل راشن           | پاس دل راشن (امیت کی)             | دیہا                   | دیہا گاں ہو جانا (امیت کی)      |
| دیل میلہ اڑا          | دل میلہ اڑا (امیت کی)             | چ اغ کورشن             | چ اغ کورشن                      |
| دل چ کین شدن          |                                   | چ اغ بر کر دن          | چ اغ بر کر دن (امیت کی)         |
| دیل مہو لئنا          | دل مہو لئنا (امیت کی)             | در شکست                | در شکست (امیت کی)               |
| دل ربو دن             |                                   | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دیل لالگی             | چ بک (ہی)                         | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دل سپر دن             | دل لاوٹا (امیت کی)                | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دیل لامسا             | لطفی (ہی)                         | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دیل اوار              | جان آہنی (ہی)                     | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دیل اواری             | صرامت۔ مر دا گئی۔ شجاعت (امیت کی) | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دیلے ر ہو لے          | دل اور ہونا (امیت کی)             | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| شیر ک شدن۔ باجرأت شدن |                                   | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دہانیدن               |                                   | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |
| دیہا اٹا              |                                   | دیہا لیا پن            | دیہا لیا پن (ہی)                |

|  |   |   |
|--|---|---|
| دُر د کر دن  | دُر بان - حاجب (ن) دوار پاں (پ)                       | دُر کھنا (آمیڈ کی) د کھنا                       |
| ا لیم  | گرد - پیر امون (ہ) دوالے (ہ)                          | دُر کھدا ایک (ہ) د کھدا ایک                     |
| ر نج ده - تکلیف ده                                 | تھج (آمیڈ کی) دشکرم کرنا                              | دُر کھدا اسی (ہ) د کھدا اسی                     |
| ر د د ر سانیدن - تعذیب کر دن - رنجانیدن - رنج دادن | بداندیش - بد خواہ (ہ) دش چنتک                         | جگر خراش  |
| تعب دادن   | دُسٹ (ہ) دشت  | دُر کھدا اسی گل (ہ) د کھدا اسی گل               |
| ر نجور   | شیطان (ہ) دشیطنت                                      | حروف خاطر - حرف گلوگیر                          |
| طاق شدن - دوچندال شدن                              | دُسٹا (ن) دشمن (پ)                                    | دُر کھ دینا (آمیڈ کی) د کھ دینا                 |
| دو تا کر دن - دوچندال نمودن - مضاudem دند          | دُسٹا (ن) دشمنی کرنی (آمیڈ کی)                        | درد رسانیدن - تعذیب کر دن - رنجانیدن - رنج دادن |
| دند  | مخاصل - عدو (ن)                                       | دُر کھ پنچاڑا (آمیڈ کی)                         |
| دند  | دُسٹا (ن) دشمنی کرنی (آمیڈ کی)                        | دُر کھ پنچاڑا (آمیڈ کی)                         |
| دند  | مخاصلت کر دن - مخالفت کر دن - عناد ورزیدن - کینہ داشن | دُر کھ پنچاڑا (آمیڈ کی)                         |
| دند  | معذر - حال - مضر (ہ) دشووار                           | دُر کھ ڈیگانا (آمیڈ کی) د کھ جھوگنا             |
| دند  | دُسٹا (ن) دشوار ہوئنا (آمیڈ کی)                       | دُر کھا اسی (ہ) د کھسی                          |
| دند  | نامیسر بودن - نامیسر شدن                              | دُر کھاں (ن) د کھاں                             |
| دند  | دُسٹا (ن) دشاندہ (پ)                                  | غном  |
| دند  | مطبوع (ہ) دامب  | دُر کھ خوردن (آمیڈ کی) د کھت ہوئنا              |
| دند  | دُر ہنگڑ (ہ) دمختہ                                    | رنجور - رنجیدہ - غمگین (ہ) د کھی / روگی         |
| دند  | دُر ہر ان کے گل نوں نہ (آمیڈ کی)                      | دُر کھیا (ہ) د کھیا (پ)                         |
| دند  | اعادہ (ن) دکار  | آزاری - درد مند - غم زده - درد خواہ - درد خورده |
| دند  | دُر ہر آئی (ن) دوہرائی (آمیڈ کی)                      | رنجور   |
| دند  | داد زدن (آمیڈ کی)                                     | دل خون بودن (آمیڈ کی) د کھی ہوئنا               |
| دند  | دُر ہر آئی دہلی (ن) دکان                              | دُر گناہ (پ) د گناہ                             |
| دند  | دُر کان بخولنی / و پار شروع کرنا (آمیڈ کی)            | تضاعف - دوبالا                                  |
| دند  | دکان باز کر دن - دکان کشادن - دکان کشیدن              | دُر گناہ جانہ (آمیڈ کی)                         |
| دند  | دُر ساہنہ (آمیڈ کی)                                   | طاق شدن - دوچندال شدن - مضاudem شدن             |
| دند  | آزار کشیدن - رنج بردن                                 | دو تا شدن - مضاudem گھتن - تغیر نمودن           |
| دند  | دُر سُخ (ن) د کھ سکھ                                  | دُر گناہ کرنا (آمیڈ کی)                         |
| دند  | خار و تر نج - رنج دراحت - شگی و فراخی                 | دو تا کر دن - دوچندال نمودن - مضاudem نمودن     |
| دند  | درد کشیدن (آمیڈ کی)                                   | دُر چپا (ہ) د ترد                               |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| دੁਚਿੰਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ترجمان                 |
| ਤਖ਼ਿਕ-ਤੰਬੰਬ                     | کੁਲ੍ਹਲ ਪੁਸ਼-ਗੂਬਾਨ      |
| ਦੁੱਧ ਥਿਰ (ਨਾਂ ਪੁ) ਵਰਹ           | ਦੁਮਚੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡਿੰ)    |
| ਦੁੱਧ ਚੌਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਦੁਰਗੰਧ                 |
| ਥਿਰ ਦੋਖਿਦਾਨ-ਦੋਖਿਦਾਨ-ਦੁੱਖ        | ਦੁਰਘਟਨਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡਿੰ)  |
| ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਦੁਰਦਾਸ਼ਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡਿੰ) |
| ਥਾਂਗਮ                           | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਖ ਦਾ ਫਿਟ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਤੰਬੰਬ                           | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਲਾਈ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡਿੰ)      | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੰਦ ਵਰਹਦੇ ਦੰਦ           | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਲਾਈ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡਿੰ)      | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਖ ਪਿਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)           | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਖ ਪੀਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਬਿਥਰਨਾਂ                         | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਲਾਲੀ ਬੰਦੂਕ (ਵਾਕਾਂਸ਼)          | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਥਤ               | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡਿੰ)                   | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਤੰਤੁਤੰਤ                         | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਪਹਿਰ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡਿੰ)            | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁੱਪਣਾ (ਨਾਂ ਪੁ) ਦੂਪਥੇ           | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਗਾਥਨੇ-ਦਾਮੀ-ਮੁਕੁ-ਮੁਕੁ-ਚਾਰਕਦ      | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਭੁਫ-ਲਾਗਰ-ਨਿੱਖਿ                  | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਬਲਾ (ਵਿ) ਵੀਲਾ                 | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਬਾਰੀਕ ਸਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਬਲਾ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਭੁਫ-ਨਾਖੁਫ-ਲਾਗਰੀ (ਨਾਂ ਪੁ) ਵੀਲਾਪਣ | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਬਲਾ-ਪਤਲਾ (ਵਿ) ਵੀਲਾਟੀਲਾ        | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਬਲਾ-ਪਤਲਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ               | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦਾਰਹਾਨਿਦਾਨ                      | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਦੁਬਿਧਾ                          | ਦੁਰਭਾਈ                 |
| ਥਿਸ਼ ਵਿਖ                        | ਦੁਰਭਾਈ                 |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| ਦੂਜਾਓਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                 | ਤਰ੍ਹਿਬ      | ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   |
| ਦੂਸ਼ਿਤ (ਵਿ)                                       | ਦੋ਷ਤ        | ਨਤਰਾਂਦਾਖਣ                               |
| ਫਾਸਦ۔ ਗੁਨਦੀਦੇ। ਖ੍ਰਾਬ। ਮੁਹੂਬ। ਟਾਹ।                 |             |   |
| ਦੂਹਗਾ ਕਰਨਾ ਰਸੀਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਗੱਸੀ ਨੂੰ ਨੂੰ (ਅਮਿਤ ਕਿ) |             | ਕਥੂਰ। ਅਲੀਮ। ਮਲਕ। ਵਲਾਈਟ। ਸਿੱਖ            |
| ਅਬਾਮ  |             | ਦੇਸ਼। ਨਿਕਾਲਾ                            |
| ਦੂਜਾ। (ਵਿ) ਦੋਮ। ਥਾਨੀ।                             |             | ਦੇਸ਼। ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਣਾ                       |
| ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁਗ ਲੈਣਾ                           |             | ਅਮਿਤ ਕਿ)                                |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਲਤ ਦਾਨ ਆਪ   | ਤ੍ਰਿਵੀਦ ਸ਼ਨ                              |
| ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਚਰਨਾ                            |             | ਦੇਸ਼। ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਨਾ                       |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)   |             | ਅਮਿਤ ਕਿ)                                |
| ਬਾਲ ਦਿਗੁਆਨ ਪ੍ਰਿਦਨ                                 |             | ਅਮਿਤ ਕਿ)                                |
| ਦੂਜੀ ਤੀਵੀ (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ)                            | ਅਖੀਂ        | ਦੇਸ਼। ਬਵਾ                               |
| ਦੂਣਾ। (ਵਿ) ਦੂਣ।                                   | ਮਫਾਅਫ       | ਦੇਸਾਂ। ਦੂਜੀ ਜੱਤੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)              |
| ਦੂਜੀ। (ਨਾਂ। ਪੁ)                                   | ਅਤੇਖੀ       | ਚੰਘ। (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ)                       |
| ਦੂਰ। (ਵਿ)   | ਉਦੀ         | ਦੇਹਲੀ। ਆਸਟਾਨੇ। ਦੇਹਲੀ (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ)       |
| ਦੂਰ ਕਰਨਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               |             | ਦੇਹਲੀਆਂ। ਦੇਹਲੀ। (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ। ਬਵਾ)       |
| ਫ਼ਿਊਲਿਨ। ਜਦਾਈ ਕਰਦਨ। ਵਖ। ਤ੍ਰੇਡ।                    |             | ਮੁਬਚ। ਕਾਰਨਾਸ। (ਵਿ) ਵਿਕਾਨ ਹੋਰ            |
| ਦੂਰ ਚਲੋ ਜਾਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |             | ਮਲਾਖਤੇ ਕਰਦਨ। ਨਗਰ ਸਿੱਟਨ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)       |
| ਦੂਰਧਨ   |             | ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 |
| ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ। (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ)                           |             | ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਭਾ। (ਨਾਂ। ਨਗਾਹ ਦਾਖਣ)           |
| ਉਦੇਹ। ਦੂਰਬੀਨ। ਝੜ੍ਮ                                |             |   |
| ਦੂਰ ਦਰਖਾਈ। (ਵਿ) ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ।                         |             | ਦੇਗਾਂ। (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ। ਬਵਾ)                |
| ਦੂਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਪ੍ਰਸ਼ਤ ਜਵਾਬ | ਦੇਣਹਾਰ। (ਵਿ) ਦੀਨ ਹੋਰ                    |
| ਦੂਰ ਦੀ ਥਾਂ। (ਵਾਕਾਂਸ਼)                             | ਉਦੇਹ        | ਦੇਣਹਾਰ। (ਵਿ) ਦੀਨ ਹੋਰ। (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ। ਬਵਾ) |
| ਮਹਾਂਦੀ। ਫਾਸਲ।                                     |             | ਮਦਿਓਨ। ਮਦਿਓਨ ਬੁਦਨ।                      |
| ਦੂਰੀ। (ਵਿ) ਦੂਰੀ।                                  |             | ਮਦਿਓਨ ਕਰਦਨ।                             |
| ਦੂਰੀ ਏਟੇ। ਜਦਾਈ ਰਕਾਨਾ।                             |             | ਦੇਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |
| ਅਮਿਤ ਕਿ)  |             | ਦੇਖਿਦਨ।                                 |
| ਫਰਾਜਾਂਸ਼। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               |             | ਤਾਖਿੰਗ। (ਨਾਂ। ਇਲਿੰਗ)                    |
| ਦੂਰ ਦੀ ਅਤੇ। (ਵਾਕਾਂਸ਼)                             |             | ਦੇਰ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |
| ਮਹਾਂਦੀ। ਫਾਸਲ।                                     |             | ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  |
| ਦੂਰੀ ਅਤੇ। ਜੁਦਾਈ ਰਖਣਾ।                             |             |   |
| ਅਮਿਤ ਕਿ)  |             |   |

|   |                             |                              |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| دے ر کرنی (آمیڈ کی)                         | دے هرگ (ہی)                 | دو تا                        |
| مکث کر دن۔ مکث نمودن۔ دری کر دن۔ دریگیدن۔   | دے ہیں پاسیں (ہی)           | دورو دیہ                     |
| تا خیر کر دن۔ تو قف کر دن                   | دے ہیں پاسیں جھٹھ مارنا     | دو ہیں پاسیں                 |
| دے ر نا کرنی (آمیڈ کی)                      | (آمیڈ کی)                   | دو ضربہ زدن                  |
| آب خور دن                                   | دے گلا (ہی)                 | دو غلاد                      |
| دے نیک و نظیفہ (ہا کا مس)                   | دے گلا (ہا کا مس)           | مخاطن لسل۔ درگہ۔ درود۔ منافق |
| راتہ دے (ہی)                                | دے گلا ہو لان (آمیڈ کی)     | مخاطن شدن                    |
| دو دے (ہی)                                  | دے گلاپن (ن، پ)             | نفاق                         |
| دوسرا حاندہ (ن، پ)                          | دے ٹئیاں وچ وند دینا        | دو ٹوٹیاں وچ وند دینا        |
| دوسرا دوش (ن، پ)                            | (آمیڈ کی)                   | لپ کر دن                     |
| عصیان۔ گناہ۔ جرم۔ قصور۔ خطأ۔ عیب۔ لقص۔ خامی | دے ٹین (ہا کا مس)           | دو سر                        |
| دے ٹھاں بھا (ن، پ)                          | دے چنگا (ہا کا مس)          | دو چنگ۔ چنگ دوم              |
| عیوب۔ بدی ہا۔ خطابا۔ آہو ہا۔ صفات بد        | دے چن (ہا کا مس)            | شقین                         |
| روسیاہ (ہی)                                 | دے چنے بُلٹھ بھو (ہا کا مس) | دو برابر حصے کرنے            |
| دے ٹھی شدن (آمیڈ کی)                        | دو اسرا (ہا کا مس)          | شقہ کر دن                    |
| شیر دوشہ۔ شیر دان (ن، پ)                    | دے چنے بُلٹھ بھو (ہا کا مس) | تازیدن۔ شافت                 |
| نوادہ دختری (ن، پ)                          | (آمیڈ کی)                   |                              |
| دے ہتھا (ن، پ)                              | دے ہننا (آمیڈ کی)           |                              |

|  |   |
|--|---|
| پام جا لਾ (امیٹ کی) دھس جان              | دولت مند۔ تو انگر۔ مال دار۔ متمول۔ غنی۔ مایہ دار۔ |
| فر و رفت ن۔ بزیر رفت ن                   | پول دار   |
| پام لਾ (امیٹ کی) دھسنا                   | گود افتاب دن                                      |
| پੱਕ ਲਾ (امیٹ کی) دھکਨਾ                   | درع   |
| پੱਕਾ (ਨਾਂ پੁ)                            | تصادم   |
| پੱਕਾ ਦੇਣਾ (امیٹ کی) دھਕਾਰਿਆ              | سپاس گذਾਰੀ ਕਰਦਾ                                   |
| صدਮਹੂ ਖੋਰਦਨ۔ ਚੰਦਮਹੂ ਵਾਦਨ۔ ਚੰਦਮਹੂ ਜਦਨ۔    | پਾਂਨਵਾਦੀ (ਵਿਵ) دھਨਵਾਦੀ                            |
| ਚੀਪੁ ਖੱਤਨ۔ ਲਿਜ਼ ਵਾਦਨ                     | ਸਪਸ گذਾਰ۔ ਸ਼ਕਰ گذਾਰ۔ ਮਨੁਨ۔ ਟੈਫ਼ਕਰ                  |
| ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਕਾਰਾਨ             | ਪੰਵਾਦੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ                     |
| ਧੱਕਾ ਲਗਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਕਾਗਨਾ             | ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ਦਨ۔ ਸਪਸ ਦਾਰੀ ਨਮੂਦਨ                         |
| ਚੰਦਮਹੂ ਰਿਦਨ۔ ਜੰਬ ਖੋਰਦਨ                   | ਅਮਿਤ ਕਿਸੋ   |
| ਪੱਕੇ ਜੋਗੀ (ਕਿਵਿ) دਹਕੇ ਜੂਰੀ               | ਪਨਾਸਗੀ (ਨਿਨਾਂ ਪੁ) دਹਨਸਗੀ                          |
| ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ             | ਪਨਾਢ੍ਹ (ਨਾਂ ਪੁ ਵਿ) دਹਨਾਢ੍ਹ                        |
| ਧੱਕੇ ਹਾਲ ਕੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਝਿਆ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਗਨੀ۔ ਤਾਂਗਰ۔ ਮਾਲ ਦਾਰ۔ ਦੋਲਤ ਮਨ                      |
| ਵਾਖ ਕਰਦਾ                                 | ਮਾਲਾਮ   |
| ਉਾਵਾਲ                                    | ਕਾਵ   |
| ਮਾਇ۔ ਮਾਲ۔ ਮਤਾਅ۔ ਦੋਲਤ                     | ਚੰਗ ਅਨ੍ਦਾਜ  |
| ਪਨ ਇਕਤੱਰ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨ ਆਕਤੱਰ ਕਰਨਾ   | ਪਿਸ਼ਾਗੀ (ਵਿਵ) ਵਹਨਸ਼ ਵਹਾਰੀ                         |
| ਅਖ਼ਤ ਵੱਡ                                 | ਪਿਸ਼ਾਗੀ (ਨਾਂ ਪੁ) ਵਹਹਾ                             |
| ਪਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ   | ਧਾਗ—ਲਕ  |
| ਹਲੇ ਕਰਦਾ                                 | ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨਦਾਰ ਕਰਦਾ                 |
| ਥਾਵ                                      | ਪਥਾ ਲਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨਲਾਓਣਾ                      |
| ਧਨ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਪਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ    |
| ਤਾਸ                                      | ਲਕੇ ਗਿਰੀ ਕਰਦਾ                                     |
| ਪਨ ਵੱਡ ਵੱਡ (ਵਿਵ) ਵਹਨ ਵੱਡ                 | ਪਮਕਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨਕਾਉਣਾ                        |
| ਚੰਗ ਨਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੰਦੀਦ। ਨੀਬ ਦਾਰ।           | ਚੰਗ ਨਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੰਦੀਦ। ਨੀਬ ਦਾਰ।                    |
| ਤੰਦੀਦਾਤ (ਵਿਵ) ਬਲੀਂ ਬਲੀਂ (ਨਾਂ ਨਾਂ) ਵਹਕਿਆਂ | ਪਮਕੀਆਂ ਵਹਕੀਆਂ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨਕੀਆਂ ਵਹਨਕੀਆਂ           |
| ਤੰਦੀਦਾਤ (ਵਿਵ) ਬਲੀਂ ਬਲੀਂ (ਅਮਿਤ ਕਿ)        | ਤੰਦੀਦਾਤ (ਵਿਵ) ਬਲੀਂ ਬਲੀਂ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹਨਕੀਆਂ ਵਹਨਕੀਆਂ |



| صد او حرف                        | پੈਣا (امیت کی)      | دھونا (امیت کی)                               |
|----------------------------------|---------------------|---|
| پੂਰ (ن) دھرا پ                   | دار                 | شویدن۔ شتن۔ شتوکردن                           |
| پੁਲਾਈ (ن) دھਲਾਈ                  | شਤ و شو             | پੋਬੀ پ  |
| ਪੂਅ (ن) دھواں                    | ਧੁ۔ ਦੂਦ۔ ਧਾਨ۔ ਧੁਨ پ | ਰਖਤ ਸ਼ੁ۔ ਗਾਜਰ۔ ਕਸਾਰ۔ ਆਨੇ ਜਾਮੇ ਹਾਰ ਏ ਸ਼੍ਰਿਵਿਦ    |
| ਪੂਏਂਦਾਰ (ہ) دھੋਵਿਦਾਰ             | ਦੂਦ ਆਦ              | ਸੀਫਿਦ ਮਿਕਨਦ                                   |
| ਪੂਏ ਦੇ ਸਮਾਨ (ਵਾਕਾਂ) دਹੋਵਿਦੇ ਸਮਾਨ | ਦੂਦ ਆਸਾ             | ਕਦੀਨ (پ) (ن) دਹੋਵਿਦਾ ਪਟੜਾ                     |
| ਪੂਣੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹੋਵਿਨੀ ਕਰਨੀ | ਦੂਦ ਕਰਦਨ            | ਗਾਜਰਦਾਰ (پ) (ن) دਹੋਵਿਦਾ ਪਟੜਾ                  |
| ਪੂਣੀ ਦੇਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) دਹੋਵਿਨੀ ਰੱਖੀ | ਨਹੂਰ ਵਾਨ            | ਕੁਸ (پ) (ن) دਹੋਵਨ                             |
| ਪੂਮਧਾਮ (ਨ) ਇਲਿੱਡਾ                | ਤੁਮਤਰਾਂ             | ਉਣ۔ ਗੁਰਦਾਨ (ਨ) (ਨ) ਇਲਿੱਡਾ                     |
| غਬار۔ گرد (ਨ) ਇਲਿੱਡਾ             | ਗੁੜ                 | ਹੋਣ ਸੁਟਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਦਹੋਵਨ ਸੁਟਣੀ               |
| ਧਾ۔ ਕੁ (پ) (ਨ) ਦਹੋਕਾ             | ਧੋਖਾ                | ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਲ ਕਹਾਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਦਹੋਵਨ ਤੇ ਹੋਲ ਕਹਾਨੀ |
| ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ                        | ਧੋਖਾ                | ਭਾਲੂ ਕਾਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਦਹੋਵਨ ਮਾਰਨੀ              |
| درجوال رفتਨ۔ درجوال شਦਨ          |                     | ਸਰਚੰਗ ਜਦਨ۔ ਤੋਸਰ ਜਦਨ                           |
| ਪੋਖੇਬਾਜ਼ੀ (ਨ) دਹੋਕੇ ਬਾਜੀ         |                     | ਹੋਲ ਮਾਰਨੀ ਦਹੋਵਨ ਤੇ ਹੋਲ ਮਾਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)        |
| دوਲਕ ਬਾਜੀ۔ ਮਕਾਰੀ۔ ਫਰੀਬ           |                     | ਭਾਲੂ ਕਾਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਦਹੋਵਨ ਮਾਰਨੀ              |
|                                  |                     | ਨ੍ਹੁ۔ ادم                                     |



|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| نک چڑھیلنا   | (آمیڈ کی) کم چڑھانا  | مغضوب داشتن۔ توہین کردن۔ بی احترامی کردن بہ۔  |
| کسر شان خود پند اشتن۔ ناقابل داشتن۔ عار داشتن از۔  |                      | بد حرمنی کردن   |
| اہانت کردن۔ خوار شمردن۔ سر نظر نیادوردن  |                      |   |
| نک چڑھیا   | (ہی) کم وڑھا         |   |
| لامرت پرست شخص۔ "کسی کہ می خواهد خود را درگردہ بزرگان و توانگران در آورد۔" آدم بد تبار             |                      | بی حیا۔ بی شرم۔ بی عار۔ پررو  |
| نک چڑھنا   | (آمیڈ کی) کم چڑھنا   | نک ویسی دم آسیلنا   |
| بنی زدن۔ تکبر کردن۔ خوار گرفتن چیزی۔ خمیدن   |                      | تافیہ تنگ شدن۔ عاجز شدن درگفتار و کردار   |
| نک چونڈھی  | (نہ، ہیلیں)          | نک ویسی دم کرنا   |
| عصر بک۔ گیرہ   |                      | ازیت کردن۔ سر بر گذاشتن۔ ستم کردن بر۔ تعدی کردن بر۔ آزار کردن (یارساندن)۔ غمین بودن بر۔ |
| نکٹا   | (ہی) نکٹا            | بسوہ آوردن۔ عاجز کردن   |
| اجدع۔ اخزم   |                      | نک ویسی بولنا   |
| کراوات   | (نہ، ہیلیں)          | در بینی حرف زدن۔ تو دماغی حرف زدن۔ ہوا را بہ بنی کشیدن                                  |
| موی بنی  | (ہاکاں)              | نکارتا  |
| نک دی سے   | (ہاکاں)              | نفی۔ تکذیب۔ رد۔ نیست سازی۔ منفی باقی۔ منفی گوئی   |
| آماں بنی   | (نہ، ہیلیں)          | نکارن   |
| نک دی نام  | (ہاکاں)              | الغاء   |
| جس۔ پرہ بنی  |                      | نکارنا  |
| نک رگڑنا   | (آمیڈ کی) کم رگڑنا   | رد کردن۔ تکذیب کردن۔ نقض کردن۔ انکار کردن۔ دور انداختن۔ نپذیر فتن۔ قبول نکردن۔          |
| لا بہ کردن بہ۔ درخواست کردن (از)۔ اتماس کردن (بہ)۔ چاپو سانہ فروتنی کردن۔ دولا شدن۔ خایہ مالی کردن |                      | سلب کردن  |
| نکل اتارنی   | (آمیڈ کی) نقل اتارنی | از کار افتادہ۔ عاجز۔ محدود۔ ناتوان۔ زمین گیر۔ کاہل۔                                     |
| ادا در آوردن   |                      | تبل۔ راحت طلب   |
| تقلید کننده۔ سخنہ۔ لودہ  | (پ) (نہ) نقلچی       | منفی۔ سلبی۔ رد کننده  |
| نکل سی   | (ہی)                 | (ہی) نکارا تک   |
| جعلی   |                      | نکارا تبیک  |
| نکلی   | (ہی)                 | طرف منفی (ہاکاں) نکارا تجھ کچھ پੱخ  |
| گل کاغذی   | (ہاکاں)              | نکارا پن  |
| نکلی ہل  |                      | (پ) (نہ) نکارا پن   |
| دانہ عملی  | (نہ، پ)              | عدم صلاحیت۔ عجز۔ ناتوانی۔ سستی۔ آسائش خواہی۔ راحت طبی                                   |
| نک وڑھنا   | (آمیڈ کی) کم وڑھنا   |   |
| رسوا کردن۔ خفت آوردن بر۔ از نظر انداختن  |                      |   |

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| نک جے  | (ہی) کم جے                  | لی جیا۔ بی شرم۔ بی عار۔ پررو  |
| نک ویسی دم آسیلنا  | (آمیڈ کی) کم ویسی دم آسیلنا | نک ویسی دم کرنا   |
| تافیہ تنگ شدن۔ عاجز شدن درگفتار و کردار  |                             | ازیت کردن۔ سر بر گذاشتن۔ ستم کردن بر۔ تعدی کردن بر۔ آزار کردن (یارساندن)۔ غمین بودن بر۔ |
| نک ویسی بولنا  | (آمیڈ کی) کم ویسی بولنا     | بسوہ آوردن۔ عاجز کردن   |
| در بینی حرف زدن۔ تو دماغی حرف زدن۔ ہوا را بہ بنی کشیدن                         |                             | در بینی حرف زدن۔ تو دماغی حرف زدن۔ ہوا را بہ بنی کشیدن                                  |
| نکارتا   | (ہیلیں)                     | نکارتا  |
| نفی۔ تکذیب۔ رد۔ نیست سازی۔ منفی باقی۔ منفی گوئی                                |                             | نفی۔ تکذیب۔ رد۔ نیست سازی۔ منفی باقی۔ منفی گوئی   |
| نکارن  |                             | نکارن   |
| نکارنا   | (آمیڈ کی)                   | نکارنا  |
| رد کردن۔ تکذیب کردن۔ نقض کردن۔ انکار کردن۔ دور انداختن۔ نپذیر فتن۔ قبول نکردن۔ |                             | رد کردن۔ تکذیب کردن۔ نقض کردن۔ انکار کردن۔ دور انداختن۔ نپذیر فتن۔ قبول نکردن۔          |
| سلب کردن   |                             | سلب کردن  |
| نکارا  | (ہی)                        | نکارا   |
| از کار افتادہ۔ عاجز۔ محدود۔ ناتوان۔ زمین گیر۔ کاہل۔                            |                             | از کار افتادہ۔ عاجز۔ محدود۔ ناتوان۔ زمین گیر۔ کاہل۔                                     |
| تبل۔ راحت طلب  |                             | تبل۔ راحت طلب   |
| منفی۔ سلبی۔ رد کننده   |                             | منفی۔ سلبی۔ رد کننده  |
| نکارا تک   |                             | نکارا تک  |
| طرف منفی (ہاکاں)   |                             | طرف منفی (ہاکاں) نکارا تجھ کچھ پੱخ  |
| نکارا پن   |                             | نکارا پن  |
| عدم صلاحیت۔ عجز۔ ناتوانی۔ سستی۔ آسائش خواہی۔ راحت طبی                          |                             | عدم صلاحیت۔ عجز۔ ناتوانی۔ سستی۔ آسائش خواہی۔ راحت طبی                                   |

|   |   |                      |              |   |
|---|---|----------------------|--------------|---|
| نکل                                     | خاش۔ مهار۔ زام                              | نگیل (ن: ایلیں)      | نگار۔ پالیکا | (ن: ایلیں)                                |
| نکل                                     | نکیل یاونی (امیت کی)                        | نگیل یاونی (امیت کی) | انجم شرداری۔ | انجم بلدی۔ شرداری                         |
| جلوگیری کردن                            | جلوگیری کردن۔ فرونشادن۔ بازداشتن۔ ضبط       | نگاری (ن: ایلیں)     | نگاری        | قصبه۔ دہ بزرگ۔ شرکوچک                     |
| کردن۔ منع کردن۔ تو قیف کردن۔ محدود کردن | لبالب۔ پر۔ علو (ہی) کوئک                    | نگار (ہی)            | نگارا        | غیر قابل اعتبار۔ غیر معتمد۔ دروغ گو۔ کاذب |
| نکے۔ نک                                 | نکسما                                       | نگار (ہی)            | نگار (ہی)    | عور۔ عریان۔ برہنہ۔ عاری                   |
| بی ارباب۔ بی استاد۔ بی صاحب۔ بمالک      | بیکار و لگرد۔ ناکار                         | نگا (ہی)             | نگا          | لخت شدن                                   |
| نکھٹو                                   | نخترنا/نختا                                 | نگا (ہی)             | نگا ہونا     | (امیت کی) نگا ہونا                        |
| نکھٹرنا/نختا                            | بے نوا۔ فقیر۔ بے چارہ۔ محقر۔ ضعیف الحال۔    | نگا (ہی)             | نگا کرنا     | (امیت کی) نگا کرنا                        |
| بدجنت۔ ناچیز۔ بی اولاد                  | کر شہ کردن                                  | نگا (ہی)             | نگا کرنا     | بی ردا کردن۔ برہنہ کردن۔ لخت کردن۔ عاری   |
| نخرا کرنا                               | لفت دادن                                    | نخرا کرنا            | نخرا کرنا    | ساختن۔ فاش کردن۔ آشکار کردن۔ نمایان کردن۔ |
| نکھڑا                                   | نکھڑا                                       | نخرا کرنا            | نخرا کرنا    | ظاہر کردن۔ نقاب از روی کسی برداشتن تحریت  |
| نکھڑا                                   | بے نوا۔ فقیر۔ تنگست                         | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | عریانی۔ برہنگی                            |
| نگا                                     | برہنگی۔ بی پردگی۔ لختی۔ فقر۔ تنگست۔ بے نوا۔ | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | نگا پلن                                   |
| نگا                                     | بے نوا۔ فقیر۔ تنگست                         | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | چوبک زن                                   |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | نوبت۔ طبل                                 |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | نگا دھنگا                                 |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | طبیل زدن۔ خاریدن کوس۔ نوبت زدن            |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | زن بختی                                   |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | نگی اسٹری                                 |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | نگیج                                      |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | عریانی۔ برہنگی۔ بی پردگی۔ لختی۔ بی پوششی  |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | اجزائی خصوصی جسم انسانی پوشانیدن          |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | پا برہنہ                                  |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | عرات                                      |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | نپرچ                                      |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | عیب جوئی۔ خردہ گیری۔ اعتراض               |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | نپرچ کڈھنی                                |
| نگا                                     | نگا دھنگا                                   | نگا (ہی)             | نگا (ہی)     | رخنہ گرفتن۔ آہو گرفتن۔ در خرقہ افتادن     |



|   |             |   |
|---|-------------|---|
| نہیں                                    | (امیت کی)   | دوخی۔ جنی                                 |
| فشار دادن۔ فشار آور دن بر۔ چلاندن۔ بخار |             | رقاص                                      |
| سپر دن۔ زیر خاک کردن۔ دفن کردن          |             | رقاصہ                                     |
| تغیر (امیت کی) نفرت کرنی کرنی           |             |   |
| نشانی نہیں (امیت کی) نفسی               |             |   |
| دہ خان۔ دہ خدا۔ دہ دار (پ) نمبردار      |             | حریری                                     |
| نمبر گذاری (امیت کی) نمبر لاوٹا         |             | رخص                                       |
| نامک-ہرام (ہی) نمک حرام                 |             | عضا ریف                                   |
| نامک سار (ہا کاں) نمک دی کھان           |             |   |
| نامک لاوٹا (امیت کی)                    |             |   |
| نمک سود کردن                            |             | لہیدن۔ رخامت                              |
| الگو۔ سر مشق                            | نہیں        | لہین                                      |
| سابقہ دائم (امیت کی) نمونہ رکھنا        |             | خاص                                       |
| نہیں گرفتن                              |             | رغاب                                      |
| ذات الایہ                               |             | درکم                                      |
| نر مذکور۔ انسان۔ آدم۔ شخص۔ کس           |             | عطب۔ رفق۔ مدارا                           |
| نر اور وزن (ہا کاں) نراتے ہاری          |             | نرو درہم کشیدن                            |
| شبور۔ شپور                              | (پ) نرگسی   | خنگی۔ آزردگی خاطر (امیت کی) نرا ضمکی      |
| نرمگری پہنچاں دی                        |             | بی معنی                                   |
| قلستان                                  |             | پادشاہ۔ شاہ                               |
| نرمگری بُٹاں دی                         |             | ستدرست۔ صحبت مند۔ نیرود مند۔ قوی۔ با قوت۔ |
| نشا۔ نشا کاری                           |             | پر زور                                    |
| سر۔ دوزخ۔ جنم                           | نرک         | نہیں                                      |
| جحیم                                    | (پ) نرک کنڈ | تعمیر نو۔ سازندگی نو۔ ساختمان نو          |
| نرک وچ جانا                             | (امیت کی)   | حادث                                      |
| بدوزخ رفت۔ بد رک رفت                    |             | بزرگ آغاز۔ نوجوان                         |
| زرباد                                   | نرک چور     | نہیں اتنے پرانا (ہا کاں)                  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| جدید و قدیم                         | نہیں پٹاک پینی (آمیڈ)                            |
| نہاں کرنا (آمیڈ کی)                 | لباس نوکردن                                      |
| تجدید کردن۔ نوکردن۔ صورت تازه دادن۔ | نہیں یوجنا باندھنی (آمیڈ)                        |
| پرداخت کردن۔ ازسر گرفتن             | رنگ برآب زدن                                     |
| نہاں گیٹ چھیڑنا (آمیڈ کی)           | نہے میر (کیا ہی)                                 |
| ساز کردن                            | ازسر نو۔ دوبارہ۔ تازہ تازہ۔ سرتاسر۔ لکھ          |
| نہاں جنم (نہ بھی)                   | نویں سریوں شروع کرنا                             |
| نہاں جیون پرداں کرنا (آمیڈ کی)      | استیفاف  |
| سیحائی کردن                         | نہے میرے (کیا ہی)                                |
| نہاں جماعت (نہاں زمانہ)             | ازسر نو (ہی)                                     |
| عصر نوین۔ عصر نو                    | نہے کلala دیش۔ خاص۔ خصوصی۔ مخصوص۔ انحصاری۔ تنہا۔ |
| نہاں پلن (نہ بھی)                   | جد۔ جزا  |
| نوی۔ تازگی۔ نوینی۔ تجدد             | نہے کلala پلن (ہی)                               |
| طارف (نہاں مال)                     | انحصاری بودن۔ محدودیت۔ افراد۔ جداسازی۔ تنہا      |
| نہاں چرخ (نہ بھی)                   | گذاری  |
| نہاں رجیا (نہاں رجیا)               | نہیں مار (ہی)                                    |
| نہیں آں سے آں (نہاں سوچاں)          | کسی کہ پہنچنے سیگارو قلیان خوگرفتہ است           |
| افکار نو۔ افکار جدید                | تابوت  |
| نہیں آں چیلے (نہیں چیز)             | نہیں آ (نہ بھی)                                  |
| جدید ان                             | نہیں آ (نہ بھی)                                  |
| شراب نو (نہاں شراب)                 | شستہ درفتہ۔ پاک و صاف۔ چاق چوبند                 |
| نہیں گل کٹھنا (آمیڈ کی)             | اسم۔ نام   |
| احداث                               | نہیں آ (نہ بھی)                                  |
| نہیں ن (ہی)                         | دلک۔ جام   |
| نو۔ جدید                            | نام کرنا (آمیڈ کی)                               |
| تازہ ترین۔ جدید ترین (نہیں تو پتھر) | نیست کردن۔ معدوم کردن۔ تلف کردن                  |
| نہیں ن (نہ بھی)                     | مجس (نہیں)                                       |
| جدت                                 | نام نک سی دی (نہیں)                              |
| نہیں ن کرنا (نہ بھی)                | بلعد بودن (آمیڈ کی) ناٹک ہوئے                    |
| تجدید۔ تازہ سازی۔ نوسازی            | نامیں بے دینی (نہیں) ناستکتا                     |
|                                     | نامہ   |

|   |   |
|---|---|
| کچ فہم۔ کم فہم۔ کیجھ فہم و دریافت اور تاراست و غلط باشد۔ نادان۔ بی دانش | ابروناز کردن                                |
| نامہشی (نامہ) ایلینڈ  | ناپختہ (۱۷) تحریر کار                       |
| کم فہمی۔ کم عقلی۔ بی دانشی۔ حماتت۔ جمالت                                | ناڈاں رہے کار (آمیڈ کی)                     |
| نامہ (نامہ) ایلینڈ اسٹول  | سفر لیش بدوع کردن                           |
| مخربین۔ دوسرا خوبی  | ناڈرست جوٹا (آمیڈ کی)                       |
| نامہر (نامہ) پل   | ناصواب بودن                                 |
| قرخہ۔ قرخہ۔ خارجگ   | ندانم کار                                   |
| نمکانہ۔ نمکانی  | کبودگی                                      |
| نامہڈا (نامہ) پل  | نداڑی (نامہ) داری ایلینڈ                    |
| فانی۔ ناپیدار   | مادر مادر                                   |
| نامہڈاں (نامہ) پل شوان  | نامی (نامہ) ایلینڈ                          |
| جان فانی (نامہ) پل شوان سنار سمنار                                      | نایا (نامہ) پل                              |
| معیوب۔ دنی  | نایا مسند کرنا (آمیڈ کی)                    |
| نامہ داشن (آمیڈ کی)   | نایا پل (آمیڈ کی)                           |
| نامہ شان (نامہ) ایلینڈ  | نایا گرفتن                                  |
| قوزدون (نامہ) ایلینڈ  | نایا پاک ہونا (آمیڈ کی)                     |
| شری۔ شرباش  | در جیض بودن۔ مبال شدن                       |
| نامہ گاریک (نامہ) گر کر کشاور   | سر خ (۱۸) تحریر/ بد تیزیر                   |
| علم تمدن  | نامہ گزاری (نامہ) پل                        |
| نامہ رقص (نامہ) پل  | نامہ کرنن                                   |
| نامہ گاہ (نامہ) ایلینڈ  | آوازه۔ شرت۔ ناموری (نامہ) پل                |
| نامہ کرنا (نامہ) ایلینڈ   | ناملا (نامہ) پل                             |
| آستین افسانہن۔ رقصیدن   | برائی نام۔ اسکی۔ غیر داقی۔ کم۔ اندک۔ مختصر۔ |
| نامہ/ نیک کار (نامہ) پل   | حقیر۔ بی اہمیت                              |
| رقص   | نامہ را جوٹا ہوئا (آمیڈ کی)                 |
| رقص گاہ   | محروم شدن                                   |
| نامہ کرنا (نامہ) ایلینڈ   | نامیدن                                      |
| رقص   | نام رکھنا (آمیڈ کی)                         |
| نامہ ایلینڈ   | زبان  |
| نامہ ایلینڈ   | نامہ رکھنا (آمیڈ کی)                        |
| نامہ ایلینڈ   | دل ٹنگ کردن۔ مکدر کردن۔ مکدر ساختن          |
| نامہ ایلینڈ   | شہق   |
| نامہ ایلینڈ   | جو زہنی                                     |

نالا ایک رہن (امیت کی) ہلاکت ہونا

ناقابل بودن

نالا ایکی (نام: ایٹلیں) ہلاکتی

ناکی

نام لے لئا (امیت کی) ہلاکتی

نام بردن

نال مل (کیا ہے) ہلاکتی

مع

نال چلنا ہلاکتی (امیت کی)

در جلو فتن۔ ہراہشدن

نال ڈلنا ہراہ کردن (امیت کی) ہلاکتی

نالا (نام: پ) ازابند

نالی ناٹی (امیت کی) ہلاکتی

ناداکھ (ہی) ہلاکتی

ناداکھ ہلنے (امیت کی) ہلاکتی

نابل بودن

ناری (نام: ایٹلیں) رگ

ناری چوں خون کڈھنا

فصد کردن۔ رگ زدن و خون گرفتن (امیت کی)

نارڑا ڈھلانا (امیت کی)

ناف بریدن۔ ناف زدن

نیاں (نام: پ) معدالت۔ انصاف۔ عدل۔ داوری

علم منطق (ہی) نیاے شاستر

نیما ای۔ سماں تر دادر

نیما کار (ہی) نیا کار عادل

نیما ریا (نام: پ) خاک بیز۔ خاک شو۔ ریگ شو

انقاف (امیت کی) نیاں لے لئیں

نیشنل لائین (نام: ایٹلیں) نشکر مٹا

بی عملی۔ مجموعت۔ عدم مقاومت

(ہی) نشکنک

بی عیب۔ بے داغ۔ بی لکھ۔ بی نقص

متغیر۔ قطعی۔ ائلہ (ہی) نشخت

نیشنل سخان جای جو سیدہ (پ) نشخت

نیشنل سخان ہلنے (امیت کی) نشخت

تعین گردیدن

جو سیدن (امیت کی) نشخت کرنا

راتب (ہا کا مٹ) نشخت خوراک

قرار قطعی (ہا کا مٹ) نشخت فیصلہ

مقصود معین (ہا کا مٹ) نشخت منتو

نیشنل نشچل (ہی) نشچل

فرشدہ قدم۔ ثابت قدم۔ پایدار۔ استوار

نیشنل لائین (نام: ایٹلیں) نشچلتا

فرشدہ قدمی۔ پایداری۔ ثابت قدمی۔ استواری

نیشنل نشخت (ہی) نشخت

فارغ الحال۔ آسودہ۔ خوش حال۔ بی فکر

نیشنل سمنا (امیت کی) نشخت سمنا

طاں باز چتن

نیشنل لیٹن (امیت کی) نشخت لیٹن

لم دادن۔ لم زدن۔ بفراغت خوابیدن۔ لمیدن

نیشنل سریر (ہا کا مٹ) نشپران سریر

قالب بی جان۔ بدن بی روح

بی گناہ۔ بی قصور (ہی) نشکپ

آب در غربال (پ) نشکل کم کم

نیشنل میٹ جانا (امیت کی) نشان مٹ جانا

نقش بر خاست

نیشنل لائین (امیت کی) نشان لائین

در خستن۔ نشان کردن۔ داع غ کردن۔ سوراخ کردن

|                               |                             |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| آماج۔ ہدف۔ بر جاس             | نیٹھاں (ن: ایلی)            | نیٹھاں کرنے (امیڈ کی)                      |
| نیٹھاں لائیں (امیڈ کی)        | نیٹھاں لائیں کرنے (امیڈ کی) | مباشرت کردن۔ نظارت کردن۔ حراست کردن۔       |
| نیٹھاں زدن۔ قراول نشعن        |                             | حافظت دیا سبائی کردن                       |
| نیٹھاں نیٹھی (ن: ایلی)        | علامت                       | نیگل جانا (امیڈ کی)                        |
| نیٹھاں نیٹھیاں (ن: ایلیں: بہ) |                             | فرود بن۔ بزیر بدن۔ بلعیدن۔ ابتلاء          |
|                               | علامات۔ علام                | نیگا نیگی کرنے (امیڈ کی)                   |
| نیھنہا (ہی)                   | اعزل                        | غض   |
| نیھاری (ن: ایلی)              | شتا                         | لبخانیان                                   |
| نیھاری بھانی (امیڈ کی)        | نیھار کھاور                 | فدا  |
| ناشتائی خوردن                 | نیھار کرنا (امیڈ کی)        | برافشاندن                                  |
| نیکٹ (ہی)                     | نزو۔ نزدیک                  | نیز اوتھادنی (امیڈ کی)                     |
| نیکٹا (ن: ایلی)               | حضور۔ حضوری۔ قرب            | حال دادن                                   |
| قریبی۔ مقرب (ہی)              | نکٹ ورتی                    | نیز پرشن                                   |
| نیکٹا سورج دا                 |                             | خودستائی۔ خوبیشن ستائی                     |
| شارق شدن۔ برآمدن۔ طلوع کردن   |                             | نیز پرورش کرنا (امیڈ کی)                   |
| نیکاس (پ: ن: ایلی)            | برآمد                       | چشم دیگران کشیدن                           |
| نیکاہ کرنا (امیڈ کی)          |                             | حب ذات                                     |
| در جالہ آوردن                 |                             | نیز بلال اسے سر تھاہل کے وسنوں پر اپت کرنا |
| نیکی کہانی (ہا کام) (ہی)      | داستان کوتاہ                | (امیڈ کی)                                  |
| نیکھتو (ہی)                   | لوند                        | از خود گذشگی (پ: ن: ایلی)                  |
| نیکھڑا (ن: پ:)                | فرق                         | جلوت                                       |
| نیکھڑا کرنا (امیڈ کی)         |                             | مخصوصی۔ ذاتی                               |
| مشخص کردن                     |                             | حالات مخصوصی (ہا کام) (ہی)                 |
| نیگا نیگی (ن: ایلی)           | حراست                       | خودنمایی                                   |
|                               |                             | منافع ذاتی (ہا کام)                        |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| نیزی لایو رکھنا                  | (امیڈ کی) نجی لا بھر کھنا                       |
| غرض داشن                         | نجی لا بھرنوں کھر کھنا                          |
| نیزی لایو نہیں ملخ رکھنا         | (امیڈ کی) غرض در زیدن                           |
| نیزی لایو نہیں ملخ رکھنا         | نترس۔ بی باک                                    |
| نیزی لایو نہیں ملخ رکھنا         | سر بازی۔ بیباکی                                 |
| نیزی لایو نہیں ملخ رکھنا         | بی چارہ۔ خاکستر نشین                            |
| نیزی ایواں/ ساری دن              | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| ابدیت۔ مدامت۔ استمرار۔ بقای دوام | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| نیزی ایواں/ ساری دن              | ہائی  |
| نموم                             | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| بدحری کردن۔ ذم                   | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| قدح۔ اطمینان غیب کی              | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| نیزی ایواں/ ساری دن              | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| نیزی ایواں/ ساری دن              | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| قدح کردن                         | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| سر نترس                          | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| سر قلم                           | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| دبال                             | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| ایقاع                            | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| صلاد۔ دعوت                       | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| خوزیدن                           | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| دعوت نامہ                        | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| حسب ذیل                          | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| عاجز                             | نیزی ایواں/ ساری دن                             |
| نیزی ایواں/ ساری دن              | افرادگی۔ عجز۔ کسر نفسی۔ انکسار۔ استکانت۔ فروتنی |
| نیزی ایواں/ ساری دن              | نیزی ایواں/ ساری دن                             |

|   |                     |
|---|---------------------|
| سر قدم ساختن                              | نیزی ایواں/ ساری دن |
| ضابط۔ قاعدہ                               | نیزی ایواں/ ساری دن |
| حسب دستور                                 | نیزی ایواں/ ساری دن |
| تقرر۔ مأموریت                             | نیزی ایواں/ ساری دن |
| بی تامل                                   | نیزی ایواں/ ساری دن |
| عقم۔ لاولد                                | نیزی ایواں/ ساری دن |
| عقیم ماندن۔ عقر                           | نیزی ایواں/ ساری دن |
| غیر مشتبہ۔ لاریب                          | نیزی ایواں/ ساری دن |
| سر  | نیزی ایواں/ ساری دن |
| پھمدان                                    | نیزی ایواں/ ساری دن |
| بی غل و غش                                | نیزی ایواں/ ساری دن |
| بی ریا                                    | نیزی ایواں/ ساری دن |
| بی جان۔ بی روح                            | نیزی ایواں/ ساری دن |
| پا کو فتن                                 | نیزی ایواں/ ساری دن |
| چرخ زدن                                   | نیزی ایواں/ ساری دن |
| متوازن۔ متواں۔ چیم                        | نیزی ایواں/ ساری دن |
| سفاک۔ بی رحم۔ سنگ دل                      | نیزی ایواں/ ساری دن |
| سفاکی۔ بی رحمی۔ سنگ دلی۔ ظالمی۔ قادات قلب | نیزی ایواں/ ساری دن |
| بی گناہ۔ بی خطا۔ بی قصور                  | نیزی ایواں/ ساری دن |
| نیزی ایواں/ ساری دن                       | نیزی ایواں/ ساری دن |
| معصوم بودن                                | نیزی ایواں/ ساری دن |
| بی گناہی۔ بی تقصیری۔ بی عیبی              | نیزی ایواں/ ساری دن |
| مغلس۔ ندار                                | نیزی ایواں/ ساری دن |

نیروپنڈا (ن: ایلین) نرودھن

فقر۔ نگ دستی۔ افلس۔ درویش

غیر جانب دار (ہ) نر پکھ

غیر جانب داری (ن: ایلین) نر پکھنا

نیروپنڈا کارن (ہا کا من) نر پکھ کارن

علت تام (ہا کا من) نر پکھ کریا

نیروپنڈا جتن (ہا کا من) نر پکھ جتن

نیروپنڈا جتن (ہا کا من) نر پکھ جتن

کوشش بے ہودہ۔ سعی بی فایدہ

نیروپنڈا جتن کرنا (امیٹ کی) نر پکھ جتن کرنا

کشتی چکری راندن۔ آہن سرد کو فتن

نیروپنڈا رُخ (ہا کا من) نر پکھ رکھ

ثجربی ثمر۔ خل بی بار

نیروپنڈا (ہ) نر بل

بی طاقت۔ بی زور۔ بی قوت۔ ناتوان

ناتوان بودن (کی) (امیٹ کی) نر بل ہونا

نیروپنڈا (ن: ایلین) نر بل

دارود مدار۔ انحصار (پ) نر بھر

انحصار (امیٹ کی) نر بھر ہونا

نیروپنڈا (امیٹ کی) نر بھر کرنا

نیروپنڈا (ن: ایلین) نر بھر ہونا

انحصار۔ حصر (ن: ایلین) نر بھر ہونا

نیروپنڈا (ہ) نر بھے

بی خوف۔ بی باک۔ بدون خطر۔ بی ترس

خیرات (پ) نر بل کرم (ن: ایلین) نر بل کرم

بی اصل (ہ) نر مول

بی مر (ہ) نر موہی

برآمد (ن: ایلین) نریات

بی حمیت۔ بی شرم۔ بی حیا (ہ) نر جع

چغار (ن: ایلین) نر جھاستری

نیروپنڈا (ن: ایلین) نر بل

شطاہی۔ بی شرمی۔ بی حیا

نیروپنڈا کرنی (امیٹ کی) نر بل کرنی

چشم بی آب راشن

نر جع ملگتا (ہا کا من) نر جع ملگتا

نامید۔ مایوس۔ دل سرد (ہ) نر اش

نیروپنڈا ہے جانا (امیٹ کی) نر اش ہے جانا

بینی بدیوار آمدن

نیروپنڈا ہونا (امیٹ کی) نر اش ہونا

دست شتن۔ نامید گھن

نیروپنڈا (ن: ایلین) نر اشا

حرمان۔ یاک۔ نامیدی۔ مایوس۔ قحط

یاس انگیز (ہ) نر اشا جنک

نیروپنڈا پورن (ہ) نر اشا پورن

نیروپنڈا (پ) نر اکرن

بی اساس۔ بی بندیاد۔ بی ماخذ (ہ) نر ادھار

نیروپنڈا (امیٹ کی) نر ادھار گل کرنی

ظاہر سازی کردن

نیروپنڈا (ن: ایلین) نر ادھار و ستو

لا حاصل (ہ) نر ار تھک

نیروپنڈا (ہا کا من) نر ار تھک کریا

فعل عبث۔ کاربی فایدہ۔ سعی بی حاصل

نیروپنڈا (امیٹ کی) نر ار تھک گل کرنی

گل کردن۔ گل زدن

نیروپنڈا بکواس کرنی

(امیٹ کی) چاراندر چار گھن

محائے (پ) نریخن

نیروپنڈا (ہا کا من) نرول گھن

نیروپنڈا مکتبی

|  |                                       |                                      |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| زور صرف۔ زور محض                                 | نے اپلنا (ن، پ)                       | سفہت                                 |
| عقل محض (ہا کاں) نزوں بدھی                       | نیش لایا (امیٹ کی)                    | حملات                                |
| نیلام (ن، پ) علام                                | نیش لایا کے وکھنا (امیٹ کی)           | چشم را آب دارن                       |
| نیلامی (ن، ایلیں) علامی                          | نیش                                   | نوم۔ خواب                            |
| نیوا عیلانا/ سیر کرنا (امیٹ کی) نوازنا/ زیر کرنا | نیڈ (ن، ایلیں)                        | نیڈ اچھا ہو جانی (امیٹ کی)           |
| خاکمال کردن                                      | نیڈ اسٹاٹ ہے جانی                     | خواب از چشم پریدن                    |
| اقامت۔ سکونت (ن، پ) نواس                         | نیڈ دیس دیس پاڑنا (امیٹ کی)           | نیڈ دیس دیس پاڑنا (امیٹ کی)          |
| نیواسم۔ مہمان (ن، پ) نواس تھان                   | نیڈ دیس دیس پاڑنا (امیٹ کی)           | خواب بریدن                           |
| اقامت گاہ۔ مسکن۔ منزل۔                           | نیڈ دیس دیس پاڑنا (امیٹ کی)           | فیر دزہ                              |
| نیلامی (ہ) نواسی                                 | نیل ملنی (ن، ایلیں)                   | نیل دیس دیس پاڑنا (امیٹ کی)          |
| نیلامی ہوئا (امیٹ کی) نواسی ہوئی                 | نیل دیس دیس پاڑنا (امیٹ کی)           | در نیل زدن۔ در نیل کشیدن             |
| ساکن شدن۔ متطن شدن۔ سکونت داشتن۔ اقامت کردن      | نیلا (ہ)                              | نیل۔ کبود۔ رنگ آبی۔ نیل۔ آخر۔ نیلگوں |
| نیواں (ن، ایلیں) نواں                            | نیلا تھوڑا (ن، پ)                     | الزاج الا خضر                        |
| نیڈان (ن، پ) نویدن                               | نیلا پن (ن، پ)                        | کبودی                                |
| استدعا۔ التجا۔ گزارش۔ عرض۔ درخواست۔ بیان         | نیلاں (ہ)                             | پست                                  |
| نیڈان کرنا (امیٹ کی) نویدن کرنا                  | نیواں (ہ)                             | پست و بلند۔ تخت و فوق                |
| عرض داشتن۔ اتماس داشتن                           | نیکار پست (ہا کاں) نیویاں سوچاں میڑاں | نیکار پست                            |
| اساس۔ بنیاد۔ بنا                                 | نیاں جاٹ (ن، ایلیں)                   | چرغیہ                                |
| نیک بنیاد (ن، پ) نیک پھر                         | نیک نوشن (امیٹ کی)                    | نیک نوشن                             |
| نیک بنیاد (امیٹ کی) نیک رکھنی                    | نیک رکھنا (امیٹ کی)                   | تغیل                                 |
| بانہادن۔ بنیاد افجھدن۔ طرح انداختن۔ طرح رکھن     | نہ عیلانا (امیٹ کی)                   | غم                                   |
| نیک (ہ)  | نکسان (ن، پ)                          | نکیہ خوردن                           |
| وضع۔ بدرج۔ رذیل۔ سفلہ۔ کمین۔ اولی                | نکسان اٹھاڑنا (امیٹ کی)               | نکسان                                |
| نیک اتے اتر (ہا کاں)                             | نکسان ہوئنا (امیٹ کی)                 | نکیہ خوردن                           |
| وضع و شریف۔ اولی و اعلی                          | نکیہ خوردن                            | نکیہ خوردن                           |
| نیک بودن (امیٹ کی)                               | نکیہ ہوئنا (امیٹ کی)                  | نکیہ خوردن                           |
| نیک تما (ن، ایلیں)                               | نکیہ تما (امیٹ کی)                    | نکیہ خوردن                           |
| رکاٹ   | نکیہ تما (امیٹ کی)                    | نکیہ خوردن                           |

|                                    |  |                           |                                       |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ                        | ਨੁਕਸਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਨੈਤਿਕ ਔਗਣ (ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂ ਬਵਾ) | ਰਾਹਿਲ ਆਖਾਂ                            |
| ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ              | ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)        | ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ (ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂ ਬਵਾ) | ਫਾਸ਼ਿਲ ਆਖਾਂ                           |
| ਗਰਜਾਨ ਕਰਨਾ                         | ਗਰਜਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ (ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂ ਬਵਾ) | ਫਾਸ਼ਿਲ ਆਖਾਂ                           |
| ਨੂੰ ਹੋਣਾ (ਇਲਿੱਡਿ)                  | ਨੂੰ ਹੋਣਾ (ਇਲਿੱਡਿ)                      | ਸਨੌਰ-ਕੁਣੈ                 | ਅਖਾਲ                                  |
| ਨੇਕ (ਵਿ)                           | ਨੇਕ (ਵਿ)                               | ਅਵੀਫ                      | ਅਖਾਲ                                  |
| ਨੇਕ ਇਸਤਰੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                | ਨੇਕ ਇਸਤਰੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                    | ਚਾਲਿ                      | ਅਕਣਾਸ-ਲਿਰੇ ਕਾਨ੍ਫਾਈ                    |
| ਨੇਕ ਕੰਮ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                  | ਨੇਕ ਕੰਮ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                      | ਚਾਲਿਆਂ                    | ਨੋਟ-ਕਰੰਸੀਨੋਟ                          |
| ਨੇਕ ਮਰਦ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                  | ਨੇਕ ਮਰਦ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                      | ਉਦੂਲ                      | ਤ੍ਰਿਪਾਸ ਮਾਲੀ                          |
| ਨੇਕੀ-ਦਾਸ਼ਨਪਾਕ (ਇਲਿੱਡਿ)             | ਨੇਕੀ-ਦਾਸ਼ਨਪਾਕ (ਇਲਿੱਡਿ)                 | ਜੁਓਟ-ਨੋਟ                  | ਡਫ਼ਰ ਯਾਦ ਵਾਂਥਾਂ                       |
| ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਨੇਕੀ                      | ਨੋਟ                                   |
| ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ            | ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਨੇਕਰ                      | ਨੋਕਰ                                  |
| ਮਾਜਾਤ ਕਰਨਾ                         | ਮਾਜਾਤ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   |                           | ਕਾਰਗੜਾਰ-ਕਾਰਮਨਾ-ਖਾਦਮ-ਖਦਮਤ ਗਾਰ          |
| ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ           | ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਨੇਕਰ ਹੋਣਾ                 | ਚਾਕਰ ਬੁਦਨ                             |
| ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਨੇਕਰ ਰੱਖਣਾ                | ਖਦਮਾਂ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  |
| ਮਾਜਾਤ ਸ਼ਦਨ                          | ਮਾਜਾਤ ਸ਼ਦਨ                              | ਨੇਕਰਾਂ                    | ਖਦਮ-ਖ਼ਸਮ                              |
| ਨੇਤਰੀਣ (ਵਿ)                        | ਨੇਤਰੀਣ (ਵਿ)                            | ਨੇਕਰੀ                     | ਨੇਕਰਾਨੀ (ਇਲਿੱਡਿ)                      |
| ਨੇਤਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂ)                   | ਨੇਤਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂ)                       | ਨੇਕਰੀ ਕਰਨੀ                | ਨੇਕਰੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  |
| ਮਾਰਬੰਦ-ਕਰੰਬੰਦ                      | ਮਾਰਬੰਦ-ਕਰੰਬੰਦ (ਵਿ)                     | ਨੇਕਰੀ ਕਰਨੀ                | ਚਾਕਰੀ ਕਰਨਾ-ਖਦਮਤ ਗੜਾਰੀ ਕਰਨਾ-ਫਰਮਾਂ ਬੁਦਨ |
| ਨੇੜੇ-ਨੇੜੀ                          | ਨੇੜੇ-ਨੇੜੀ (ਵਿ)                         | ਨੇਕਰੀ ਕਰਨੀ                | ਚੁਣ                                   |
| ਬਾਂਕ ਮੀ                            | ਬਾਂਕ ਮੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                      | ਨੋਵਾਂ                     | ਨੇਮ                                   |
| ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ                        | ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਵਾਕਾਂਸ਼)                  | ਨੋਵਾਂ ਭਾਗ (ਵਾਕਾਂਸ਼)       | ਤ੍ਰੈਨ                                 |

|                               |                             |                          |                            |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ                     | ਪੱਨਦ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | ਪਹਾੜੀ ਪੱਤਰੀ (ਵਿ)         | ਕੂਹੀ                       |
| ਦੁਸਟ ਰਾਖਣ-ਪੱਨਦਿਦਾਨ-ਖਾਤਰ ਰਾਖਣ  | (ਵਿ) ਪੱਨਦਿਦਾਨ               | ਪਹਾੜੀ ਭੇਡ (ਵਾਕਾਂਸ਼)      | ਗੁਮ                        |
| ਪਸੰਦੀਦਾ                       | ਖਾਤਰ ਖਾਵ (ਵਿ) ਪੱਨਦਿਦਾਨ      | ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼)     | ਥੂਬ                        |
| ਸ਼ਰਫ-ਕਰਗ-ਦਨਦ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡ) ਪੱਲੀ | ਪਸਲੀ                        | ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ (ਵਾਕਾਂਸ਼)     | ਸ਼ੂਬ                       |
| ਪਸਲੀਆਂ                        | ਸ਼ਰਾਫਿਤ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡ) ਬਲ      | ਪਹਾੜੇ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਪੱਤਰੇ    | ਯਦੂਲ ਦੀ ਗੁਪਤ               |
| ਪਸਲੀ ਦੀ ਪੀੜ                   | (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪੱਲੀ ਵੀ ਪੀੜ       | ਪਹਿਨਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | ਬਰਤਨ ਕਰਨ-ਪੋਸ਼ਿਦਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) |
| ذات ਅੱਖ-ਜਨਾਬ                  | ਪਸੀਨਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਪੈਸਿਨੇ      | ਪਹਿਨਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਪੋਸ਼ਾਨਿਦਾਨ                 |
| عرق                           | ਪਸੂ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)               | ਪਹਿਨਵਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ) ਪੈਸਾਵਾ  | ਕਸੂਤ-ਲਬਾਸ-ਪੋਥਾਕ            |
| حیوان                         | ਪਸੂਆ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)              | ਪਹਿਰਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)          | ਕੱਚਿਕ-ਪਾਸ                  |
| سوق دواب                      | ਪਸੂਆ ਦੀ ਮੰਡੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)      | ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਕੱਚਿਕ ਦਾਨ-ਕੱਚਿਕ ਕਾਢਿਨ      |
| ਪਸੂ ਚਾਰਨਾ                     | ਚੰਗਿਦਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)           | ਪਹਿਰੇਦਾਰ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)       | ਪਾਬਾਨ                      |
| ਵਹਣਾ-ਹਿਵਾਨਿਤ                  | ਪਸੂਤਾ (ਇਲਿੰਡ)               | ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵਾਗੀ ਆਉਣੀ       | ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ         |
| ਚੰਗਦ ਪੰਡ                      | ਪਸੂ-ਪੰਡੀ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਕੱਚਿਕ ਰਾਖਣ                 |
| ਵਹਣਾਨਿਤ                       | ਪਸੂਪੁਣਾ (ਨਾਂ ਪ੍ਰ)           | ਪਹਿਲ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡ)         | ਤੇਤਮ-ਮੁਹਿਤ-ਓਲਿਤ            |
| ਪਹੇਮਾਨ ਹੋਣਾ                   | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪੱਥਿਆਨ ਹੋਣਾ       | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਡ)    | ਪਹੇਮਾਨ ਹੋਣ-ਕੱਚਿਕ ਕਾਢਿਨ     |
| ਦਸਤ ਗੜਿਦਾ                     | ਪਹਾੜ                        | ਪਹਿਲ ਮੁਹਿਤ-ਮੁਹਿਤ         | ਪਿਛ ਮੁਹਿਤ                  |
| جبل-ਕਹ                        | ਪਹਾੜ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਪੱਤਰੇ ਮੈਂ     | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਾ | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ                  |
| جبال و تلال                   | (ਵਿ)                        | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ-ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ    |
| ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ              | ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ (ਵਾਕਾਂਸ਼)  | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ-ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ    |
| شوف                           |                             | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ-ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ    |
| ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਸ਼ੀਖ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਸ਼ੀਖ | ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਣ-ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਣ    |
| خطمت                          | ਤੱਖ ਕਹ                      | ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਣ-ਪਹਿਲ ਕਰ ਜਾਣ    |
| پਹਾੜਾ                         | (ਵਿ)                        | ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)        |

|   |   |
|---|---|
| پیش دستی کردن۔ تعمیل و شتاب کردن        | (ہم) کپڑن والا                              |
| پہلیلہ زورگر (بھی نہ) پہلوان            | گیرا۔ گیرندہ۔ گرفتار کندہ۔ تو قیف کندہ۔ درک |
| پہلی اول۔ نخست                          | کندہ  |
| پہلی دن (ہوا کا منشی)                   | پکڑن والے                                   |
| یوم نخست۔ مختین روز۔ روز اول۔ اولیں روز | سفت۔ مضبوط۔ محکم۔ استوار۔ رزین              |
| پہلی دن (ہوا کا منشی) پہلاں پچھوں پیشہ  | پذیدن۔ مشن                                  |
| پہلی بھائیش (ہوا کا منشی) پہلا بھائیش   | پکا (ہم) پکا ارادہ (ہوا کا منشی)            |
| تقریرو لین۔ گفتار نخست                  | عزم رائغ۔ عزم بالمحجز                       |
| پہلی دن (ہوا کا منشی) پہلاؤار           | پکا ایگدا کرنا (ہم) پکا ارادہ کرنا          |
| پہلی ترکیب (ہوا کا منشی)                | معصم بودن                                   |
| اول ماہ۔ غرہ ماہ                        | حوالی                                       |
| پہلی بیوی (نہ) پہلی بیوی                | پکا ماسٹی (ہم) پکا                          |
| پہلی ملاقات (نہ) پہلی ملاقات            | پنیق  |
| بر خورد اولین                           | پکا کام (ہوا کا منشی)                       |
| پہلی دو تا (ہوا کا منشی) پہلے دو دے     | پکا کام کرنا (ہوا کا منشی)                  |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | پکا کرنا (ہم) پکا کرنا                      |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | فرود بستن۔ مضبوط کردن۔ ایتمام               |
| پہلی بار (نہ) پہلی بار                  | باباۓ قمار بازان (ہم) پکا جو رایا           |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | جح انداز                                    |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | پکا بہندا عیلانا (ہم) پکا بنوادا            |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | سفت کردن                                    |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | رگ ثابت                                     |
| رساندن۔ رسانیدن۔ ابلاغ                  | پکا رنگ (ہوا کا منشی)                       |
| سوائی۔ نوگری (نہ) پہنچی                 | یقین محکم                                   |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | پکی آیلانا (ہم) پکی جو دا                   |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | پکی آئی (نہ) پکی ای                         |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | استحکام۔ پچھلی۔ مضبوطی۔ محکمی۔ استواری      |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | خشش پختہ                                    |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | پکی سڑک (ہوا کا منشی)                       |
| پہلی رسائی (نہ) پہلی رسائی              | پکی گنڈ (نہ) پکی گل                         |
| گرفتی۔ گیر آوردنی۔ دردسرس۔ دریافتی۔ درک | حرف استخوان دار۔ حرف پچھی                   |
| کردنی۔ در حدود فرم                      | پکے و شواس والے (ہوا کا منشی)               |

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
|  | صادر الاعتقاد         | گداختن۔ حل کردن۔ ذوب کردن۔ روائی کردن جسم |
| ਪੰਖਪਾਤ   | (نہ ۲) کچھ پات        | جامد بواسطہ حرارت دادن                    |
| جانب داری۔ جنبہ داری۔ طرف داری۔ حمایت              |                       | گذارش۔ ذوب                                |
| ਪੱਖਪਾਤ کਰنا (امیٹ کی)                              |                       | پھرائی (نہ ۲) ایلین                       |
| تعصب۔ غرض رانی کردن                                |                       | ثالث۔ حکم                                 |
| جانب گرفتن (امیٹ کی)                               | کچھ لینا              | گواریدن                                   |
| پੱਖ لے لانا  |                       | گواشن۔ ہضم کردن (امیٹ کی)                 |
| مردھ   |                       | عرنی                                      |
| پੱਖا   |                       | پੰਚاہیت                                   |
| عاذر   | پੱخانہ                | پਛਾਨ                                      |
| ਪਖਾਨਾ (امਿਤ ਕਿ)                                    | ਪੱਖਾਨੇ ਕਰਨਾ           | ਮغرب                                      |
| قضای حاجت کردن                                     |                       | غربی۔ مغربی                               |
| پੱਗ ہنسی (امیٹ کی)                                 | گپٹ ہنسی ہونا         | دیار مغربی                                |
| بد گوئی در مقابل بد گوئی کردن۔ باہم زد و خورد کردن |                       | پਛਮی (ਵਾਕਾਸ਼)                             |
| پੱਗ لਾਹੂਣੀ (امਿਤ ਕਿ)                               |                       | ਪਛੜ جਾਣ (امਿਤ ਕਿ)                         |
| تو ہین کردن بہ۔ بی احترامی کردن بہ۔ خفت آوردن      |                       | فروداند۔ درماند۔ درنگ کردن                |
| بر۔ رسو اکردن                                      |                       | پਸاندہ                                    |
| پیادہ رو   | پਗਡੰਡੀ (نہ ۲) ایلین   | ਪਛਾਈਆ (ਵਿ)                                |
| پੱਗਤ ਬਲਾਉਣੀ (امਿਤ ਕਿ)                              | ਪੱਗਤ ਬਾਣੀ             | شاخت                                      |
| ردیف گذاشتن۔ صفائض                                 |                       | ਪਛਾਣ (امਿਤ ਕਿ)                            |
| ਪੱਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ کਰ ਦੇਣਾ                             |                       | تشریف دادن۔ شناختن۔ تعریف                 |
| صف شکستن (امਿਤ ਕਿ)                                 |                       | ਪਛਾੜਨਾ (امਿਤ ਕਿ)                          |
| ਪਗੜੀ   | ਪਗੜੀ (نہ ۲) ایلین     | ਪਸ਼ کردن۔ پشت بر زمین آوردن               |
| عمامہ  | ਪਗੜੀਆਂ (نہ ۲) ایلین   | ਪੰਨਦہ۔ طائر۔ مرغ                          |
| اقتعاد   | ਪਗੜੀ ਬੰਦੂਣੀ (امਿਤ ਕਿ) | ਪੰਢੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (ਵਾਕਾਸ਼)                   |
| ਪੱਧਰਨਾ (امਿਤ ਕਿ)                                   | ਗੜਾ                   | ਪੰਢੀਆਂ ਦਾ ਚੇਗਾ                            |
| گدازیدن۔ گداختن۔ ذوب شدن۔ حل شدن                   |                       | چਿੰਨ (ਵਿ)                                 |
| ਪਘਰਾਉਣਾ (امਿਤ ਕਿ)                                  |                       | ਫੱਡੋ ਦੀ ਹਵਾ                               |
| گدازانیدن۔ گداختن فرمودن۔ گداختن کنائیدن           |                       | ਪੰਜ                                       |
| ਪਘਰਾਉਣਾ (امਿਤ ਕਿ)                                  |                       | ਪੰਜਕੋਣ                                    |
|  |                       | ਪੰਜਵਾਂ (ਵਿ)                               |
|  |                       | ਪੰਜਮ۔ ਖਾਸ                                 |

|               |                  |              |             |                      |                      |
|---------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ    | (ਵਾਕਾਂਸ਼)        | ਖੁਸ਼         | ਪਤਨੀਆਂ      | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ, ਬਲ) | زوجات                |
| ਪੰਜਾ          | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਚੰਗਲ-ਚੰਗ੍ਲ   | ਪਤਨੀਪਣ      | (ਨਾਂ, ਪੁ) ਤੰਨੀ ਪਣ    | زوجيت                |
| ਪੰਜਾਹ         | (ਵਿ)             | ਚੰਗਾਹ        | ਪੱਤਰ        | (ਨਾਂ, ਪੁ)            | مكتوب-خط             |
| ਪੰਜਾਹਵਾਂ      | (ਵਿ) ਪੰਜਾਹਵਾਂ    | ਚੰਗਾਮ        | ਪੱਤਰਕਾਰ     | (ਪੁ, ਨਾਂ) ਤੌਰਕਾਰ     | صحيفہ نگار-اخبارنویس |
| ਪੰਜਾਮਾ        | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਚੰਗ ਦੇ ਜਮੇ   | ਪੱਤਰਕਾਰੀ    | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ)     | صحافت-اخبارنویس      |
| ਪੰਜਾ ਮਾਰਨਾ    | (ਅਮਿਤ ਕਿ)        | ਚੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ  | ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ  | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਤੌਰکਾਰ     | کاغذنوشਟ             |
| ਪੰਜਾਲੀ        | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਸੁਰਾਮਾਂ      | ਪੱਤਰ-ਵਾਹਕ   | (ਨਾਂ, ਪੁ) ਤੌਰواਕੇ    | حامل رقعہ-ہر کارہ    |
| ਪੰਜੀ          | (ਵਿ)             | ਵਿਸਤਵਾਂ      | ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ  | (ਨਾਂ, ਪੁ)            | خطوکتابت             |
| ਪੰਜੀਵਾਂ       | (ਵਿ) ਪੰਜੀਵਾਂ     | ਵਿਸਤਵਾਂਚੁਮ   | ਪੱਤਰ        | (ਨਾਂ, ਪੁ)            | ورق-ورقة             |
| ਪਟ            | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਲੁਖੇ         | ਪੱਤਰਾ       | (ਨਾਂ, ਪੁ)            | ਤੌਰاਪੈਰਾਲਕ ਕਰਨਾ      |
| ਪਟਕਾ          | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਜ਼ਾਫ਼-ਕਰਬਨ   | ਪੱਤਰਾ       | ਪੱਤਰਾ ਅਲਗ ਕਰਨਾ       | ورق کردن             |
| ਪਟਾ           | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਗਲਾਦ-ਗੁਨਬੰਦ  | ਪੱਤਰਾਪਲਟਣਾ  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ورق زدن              |
| ਪਟਾਕਾ         | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਤਰਾਂ         | ਪੱਤਰے       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | اوراق                |
| ਪਟਾਗੀ         | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਤੁਲੈ         | ਪੱਤਲਾ       | (ਵਿ)                 | لاغر                 |
| ਪੱਟੀ          | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਰਗ-ਬੰਦ       | ਪੱਤਲਾ ਹਾਲ   | (ਵਾਕਾਂਸ਼)            | حال بد               |
| ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)        | ਜਬ           | ਪਤ ਲਾਹੂਣੀ   | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | آبرو رੁਖਣ            |
| ਪੱਠਾ          | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਉਚ਼ੇ         | ਪਤਲਾਪਣ      | (ਨਾਂ, ਪੁ)            | لاਗਰی-کਾਹੀਦਗੀ        |
| ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਦਰਾਅਦਾਬ      | ਪਤਲੀ ਚਾਦਰ   | (ਵਾਕਾਂਸ਼)            | شم                   |
| ਪੱਠੇ          | (ਨਾਂ, ਪੁ; ਬਲ)    | ਅਅਚਾਰ        | ਪਤਲੀ ਰੋਟੀ   | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ)     | چਪਾਤੀ                |
| ਪੱਡ           | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਪੱਥਰਾ        | ਪਤਵੰਤ       | (ਵਿ)                 | آਬਰو مند             |
| ਪਤ            | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਅਭੂ          | ਪਤਵੰਤਾ      | (ਵਿ)                 | ਤੱਖ਼ਚੁਕੁ             |
| ਪਤੰਗ          | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਬਾਬਾਕ        | ਪਤਵੰਤਾ ਹੋਣਾ | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ਹਿਲਿਤਾਨਾਂ            |
| ਪਤੰਗਾ         | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਫਰਾਈਟ-ਪਰਵਾਨੇ |             |                      |                      |
| ਪਤੰਗੇ         | (ਨਾਂ, ਪੁ; ਬਲ)    | ਫਰਾਸ਼        | ਪਤਵੰਤੇ      | (ਵਿ)                 | خਾਚਗਾਨ               |
| ਪਤੰਗੜ         | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਪਾਈਝ-ਖੜਾਂ    | ਪਤਾ         | (ਨਾਂ, ਪੁ)            | ਮਰਾਰੇ                |
| ਪਤਨ           | (ਨਾਂ, ਪੁ)        | ਜ਼ਵਾਲ-ਤੜੀਲ   | ਪਤਾਲ        | (ਨਾਂ, ਪੁ)            | تحت الشری            |
| ਪਤਨੀ          | (ਨਾਂ, ਇੰਡਿੱਗਿੰਗ) | ਜੁਗ          | ਪੰਤਾਲੀ      | (ਵਿ)                 | چੱਲਵਾਂ               |

|   |                  |          |                                       |
|---|------------------|----------|---------------------------------------|
| پڑالیہاں (ہ)                            | پٹالیوں (ہ)      | چل و پجم | پੱਥر تے سرمارٹے سرمارٹے (امیٹ کی)     |
| پڑاہا (ن، پ)                            | چڈاڑ (ن)         | چڈاڑ     | خش                                    |
| پٹیڈ (ہ)                                | افتادہ           |          | لوح سگ (ہاوا مسٹ) تھر دی تختی         |
| پڈی (ن، پ)                              |                  |          | سگ پستی (ن، ایلین)                    |
| خاوند۔ زوج۔ شوہر۔ شوی۔ مالک۔ صاحب۔ حافظ |                  |          | رجم (ہاوا مسٹ) تھر مارنا              |
| پڈیکھ (ن، پ)                            |                  |          | چارہ۔ چارہ                            |
| پتیل (ن، پ)                             | تھر (ن)          | تھر      | پੱਥر (ن، پ، ب)                        |
| پتے بھٹیل (امیٹ کی)                     | تھر کھٹا (ہ)     | تھر      | چادری (ہاوا مسٹ) تھر میلی             |
| پتے بھٹا (ہ)                            | تھر باز (ہ)      | فرمی     | پਥਰیلی (ہاوا مسٹ) تھر میلی درحتی      |
| پਥ۔ پਰਦਰਸ਼ਕ (ہ)                         | تھر پ੍ਰਦਰਸ਼ਕ     |          | ਚੁਹی۔ زمین سنگاخ۔ سگ بوم              |
| رونم۔ دیل۔ بھوت                         |                  |          | قدر۔ درج۔ پایہ                        |
| پਥ۔ پਰਦਰਸ਼ਨ (ن، پ)                      | تھر پ੍ਰਦਰਸ਼ਨ     |          | گوز۔ بادشکم۔ ضراط۔ شیشگی              |
| رونمائی۔ دلالت                          |                  |          | پੱਦ (ن، پ) پ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (امیٹ کی)         |
| پਥ۔ پਰਦਰਸ਼ਨ کرن (امیٹ کی)               | تھر پ੍ਰਦਰਸ਼ਨ کرن |          | شیشگی بستن۔ مہرہ در طاس افغاندن       |
| خضر را گردیدن                           |                  |          | پانزدهم                               |
| سگ۔ ججر۔ رجام۔ جندل (ن، پ)              | تھر              |          | پانزده                                |
| ਪੱਥਰ اਤੇ سੀਸ਼ (ہاوا مسٹ)                |                  |          | مرتبت۔ رتبہ۔ مقام۔ جاہ (ن، پ)         |
| سگ و آہن (ہاوا مسٹ)                     |                  |          | مناصب (ن، ایلین) پ੍ਰਵਾਲ (ن، پ) پ੍ਰਵਾਲ |
| ਪੱਥਰ اਤੇ ਲੋਹ (ہاوا مسٹ)                 |                  |          | پਦਵੀ ਕਬੂਲ کرنی (امیٹ کی)              |
| سگ اندازی کردن۔ سگ افغاندن              |                  |          | عہدہ دارشدن                           |
| پੱਥਰ ہے جਾਣا (امیٹ کی)                  |                  |          | ماہ                                   |
| سگ گਢن۔ تਖ਼ر شدن                        |                  |          | ਪਦਾਰਥ (ن، پ) پ੍ਰਾਰਥਕ                  |
| ਪੱਥਰ۔ گੀਟਾ (ن، پ)                       | پ੍ਰਗਿਆ (ن)       |          | ਪਦਾਰਥਕ جੰਗ (ہاوا مسٹ)                 |
| خذف۔ خزف۔ سگ ریزہ                       |                  |          | علم صوری                              |
| ਪੱਥਰ پਾੜਨਾ (امیٹ کی)                    |                  |          | سودਮਾਡی (ہاوا مسٹ) پ੍ਰਾਰਥਕ لਾਭ        |
| شکافتن سگ۔ شق جਮ                        |                  |          | ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ (ن، پ، ب) پ੍ਰਾਰਥਕ ਵਾਦੀ      |
| سگ تਾਂ (ہ)                              | تھر کھਾਡਾ (ہ)    |          | ਪੱਥਰ (ن، پ) پ੍ਰਚ                      |
| ਪੱਥਰ-ਘਾੜ (ہ)                            |                  |          | ਪੱਥਰ کਰਨਾ (امیٹ کی)                   |
| سگ دل                                   |                  |          | سنت۔ روشن۔ طریق۔ نجار                 |
| پੱਥਰ-ਚਿੱਤ (ہ)                           |                  |          | ہਮواری۔ معیار۔ سطح                    |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ                               | (ਨਾਂ: ਇੰਡੀਆ)      | ਹੁਦਕੀ                                    |
| ਦਕਾ-ਜੀਨ-ਹਮਾਰ                            |                   | ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਸਪਰ                             |
| ਪਨਚੇਰ ਫੁੱਝੇ (ਨਾਂ: ਪ੍ਰ)                  | ਅਬ-ਦੂਦ            | ਸ਼ਾਹੀ-ਅਧਾਰਾਵੀ                            |
| ਪੰਨਾ ਟ੍ਰੈਪ (ਨਾਂ: ਪ੍ਰ)                   | ਚੰਗੇ              | ਤਾਕਾਰ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਮੀਖਤਾ)                    |
| ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਜ਼ਿਹਾਨ ਨਾਗਾਹ ਦਾਖਣ | ਪਰਸਪਰ ਪਿੰਡਨਾ ਹੋਣੀ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਕਹਨਾ ਹੋਣੀ)     |
| ਪਨੀਰ (ਨਾਂ: ਪ੍ਰ)                         | ਅਤੇ               | ਤਨਾਫ਼ ਬੁਦਨ                               |
| ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਖੜਿਜ              | ਪ੍ਰਸਪਰ ਘੁੱਲ-ਮਿਲ ਜਾਣਾ                     |
| ਪੰਨੇ ਪੈਂਧੇ (ਨਾਂ: ਪ੍ਰ; ਬਵ)               | ਚੰਗਹਾਤ            | ਥਕ੍ਰਦਿਸ਼ੀਰ ਬੁਦਨ                           |
| ਪੰਪ                                     | ਤੁਲੰਬੇ            | ਤਚਾਦ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਟਕਗ)                        |
| ਪੰਪ ਚਲਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਤੁਲੰਬੇ-ਦੇਣ        | ਪਰਸਪਰ ਨੇੜ ਕਰਨਾ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਨੇੜ ਕਰਨਾ)         |
| ਪਬਲਕ (ਨਾਂ: ਇੰਡੀਆ)                       | ਗੁਗੂ-ਗੁਗੂ         | ਅਤ੍ਰਾਬ                                   |
| ਪਰਸਤਾਵ (ਨਾਂ: ਪ੍ਰ)                       | ਪ੍ਰਸਤਾਵ           | ਪਰਸਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ)     |
| ਪਰਸੰਨ (ਵਿ)                              | ਪ੍ਰਸਨ             | ਜਕਾਫ਼ੀ                                   |
| ਪਰਸੰਨ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਸੁਦੂਰ             | ਪਰਸਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ) |
| ਮਿਥੁਫ ਬੁਦਨ-ਮਿਥੁਫ ਕੱਢਨ-ਸੁਦੂਰ ਕੱਢਨ-ਸਾਡਾਨੀ |                   | ਮਿਤੀ                                     |
| ਕਰਨ                                     |                   | ਹਰਾਬ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੜਾਈ)                       |
| ਪਰਸੰਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    |                   | ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੈਣਿ-ਵਿਨਾਕਣ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੈਣਿ-ਵਿਨਾਕਣ)  |
| ਦਖ਼਼ਤੀ ਕਰਨ-ਸੁਦੂਰ ਕੱਢਨ-ਸਾਡਾਨੀ-ਖੁਸ਼        |                   | ਮਾਮਲੇ ਕਰਨ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਖਰੇਵਾਂ)               |
| ਕਰਨ                                     |                   | ਤਕਾਲੀਨ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਖਰੇਵਾਂ)                  |
| ਪਰਸੰਨ ਚਿੱਤ (ਵਿ)                         | ਖੁਸ਼-ਦੱਲ           | ਪਰਸਪਰ ਮੌਲ ਜੋਲ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਮੌਲ ਜੋਲ)           |
| ਪਰਸੰਨ-ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)               |                   | ਮਾਲਾਤ                                    |
| ਦਲਗ੍ਰਮ ਬੁਦਨ-ਦਲਗ੍ਰਮ ਕੱਢਨ-ਖੁਸ਼             |                   | ਹਰਾਬ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੜਾਈ)                       |
| ਕਰਨ                                     |                   | ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੈਣਿ-ਵਿਨਾਕਣ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਲੈਣਿ-ਵਿਨਾਕਣ)  |
| ਪਰਸੰਨ ਚੱਚ (ਵਿ)                          | ਖੁਸ਼-ਦੱਲ           | ਪਰਸਪਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ)         |
| ਪਰਸੰਨ-ਚੱਚ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |                   | ਮਾਤਬੇ                                    |
| ਦਲਗ੍ਰਮ ਬੁਦਨ-ਦਲਗ੍ਰਮ ਕੱਢਨ                 |                   | ਤਾਵਾਦ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਵਾਹ)                     |
| ਪਰਸੰਨਤਾ (ਨਾਂ: ਇੰਡੀਆ)                    |                   | ਤਾਵਾਦ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ)                     |
| ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ਨਵੀ-ਸੁਰਤ-ਖਰੀ-ਨਿਤਾਨ-ਤੁਬ-         |                   | ਪਰਸਪਰ ਵਿਵਾਹ (ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਵਾਹ)               |
| ਸਾਡਾਨੀ                                  |                   |  |

|   |  |               |                   |                                      |
|---|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| پرسپار                                    | دیروپی                                       | ہوئا          | امیٹ              | قابل تعریف۔ قابل ستائیش۔ ستودنی      |
| کی)                                       | مغاری بودن                                   |               |                   | سوال                                 |
| پرسہ                                      | پرسہ   | (ن، پ)        | وضع حمل           | پرسن                                 |
| پرسہ-پیڑ                                  | (ن، ایلیں)                                   | پرسو پیڑ      | پرسن              | خطاب وجواب                           |
| دردزہ۔ تجھن۔ رنج زایدنا                   |  |               |                   | پرسن اتر                             |
| پرسیپ                                     | مشور   | (ہ)           | پرسدھ             | پرہیز کرنا                           |
| پرسیپ ہے جانہ                             | (امیٹ کی)                                    | پرسدھ ہو جانا | پرہیز کرناروگی دا | پرسن کرنا                            |
|   |  |               |                   | اتما                                 |
| پرسیپ                                     | شرت کردن                                     |               |                   | پرکرما                               |
| آوازہ شدن۔ آوازہ گھنٹن                    |  |               |                   | طوف۔ گردش گردیزی۔ گردش بر دور مقامات |
| پرسیپی                                    | شرہ  | (ن، ایلیں)    | پرسدھی            | متبرکہ                               |
| پرسیپی پراپت کرنی                         |  |               |                   | روشنی۔ نور                           |
| (امیٹ کی)                                 | شرت یافت                                     |               |                   | پرکاش                                |
| پرسیپی پاٹنی                              |  |               |                   | پرکاشک                               |
| خیدن۔ شرت یافت                            |  |               |                   | پرکاشنا                              |
| پرسے                                      | چس فردا۔ پریروز                              | (کیاہی)       | پرسوں             | پرکاشناہاں                           |
| پرسے آشلنے                                | عصر پریروز (ہاکاںہ)                          |               |                   | مطبوعات۔ انتشارات                    |
| پرسے رات                                  | پری شب                                       | (کیاہی)       | پرسوں رات         |                                      |
| پرسنے                                     | ستائیش گر۔ توصیف کنندہ۔ تعریف کنندہ۔ شاخوان۔ |               |                   |                                      |
|   | مادح۔ حامد                                   |               |                   |                                      |
| پرسنما                                    | ستائیش۔ شنا۔ محبت۔ تعریف                     | (ن، ایلیں)    |                   |                                      |
| پرسنما                                    | پرسنما ہونی                                  | (امیٹ کی)     |                   |                                      |
| ستائیش شدن۔ ستودہ شدن                     |  |               |                   |                                      |
| پرسنما کرنی                               |  |               |                   |                                      |
| ستودن۔ دصف نمودن۔ ستائیش کردن۔ تمجید کردن |  |               |                   |                                      |
| پرسنما جوگ                                | (ہ)  |               |                   |                                      |

|  |              |                  |                                       |
|--|--------------|------------------|---------------------------------------|
| پرگات                                    | (ہی)         | پُر گٹ           | پر چون و یچنا (امیڈ کی)               |
| فاش۔ آشکار۔ ہویدا۔ ظاہر۔ واضح            |              |                  | خوردہ فردشی                           |
| پرگات ہونا                               | (امیڈ کی)    | پُر گٹ ہونا      | پر جا (نہ، ہیلی)                      |
| فاش شدن۔ آشکار شدن۔ ہویدا گئن۔ افشا شدن۔ |              |                  | رعیت۔ عامہ مردم زیر دست و فرمانبردار  |
| ظہور                                     |              |                  | پر ن بُنگ کرنا (امیڈ کی)              |
| پرگات کرنا                               | (امیڈ کی)    | پُر گٹ کرنا      | انتقاض                                |
| فاش کردن۔ ظاہر کردن۔ واضح نمودن۔ مشهور   |              |                  | نورو                                  |
| کردن                                     |              | پر ت             | پر ت                                  |
| افشا                                     |              | پر ٹھک           | متجلی۔ آشکارا                         |
| جلوہ گری                                 |              | پر ٹیاپ/ہے ہو    | پر ٹیاپ/ہے ہو                         |
| اظہار                                    |              | /ویسھو           | شکوہ۔ شان و شوکت                      |
| خارج                                     |              |                  | ابلا                                  |
| پرگاتی میل                               | (ہی)         | پُر گتی میل      | انتقام                                |
| پرگاتی کرنی                              | (امیڈ کی)    | پُر گتی کرنی     | عاطر                                  |
| پیش رفت کردن                             |              |                  | مجد۔ بزرگی۔ آبرو۔ عزت۔ سرافرازی۔ حرمت |
| پرگانہ                                   | (نہ، پر، ہی) | پُر گانے         | پر ٹیکھا                              |
| اقطاع                                    |              |                  | ذوالقدر۔ عالی شان۔ صاحب قدر           |
| شدید                                     | (ہی)         | پر چند/جمل       | پر ٹھلوان                             |
| عاصفہ                                    | (ہا کاں پس)  | پر چند ہنگی      | پر ٹھلوان جو نا ہونا                  |
| عاصفات                                   | (ہا کاں پس)  | پر چند ہنگیاں    | متبايز بودن۔ فروہیدن                  |
| پر چند جتن کرنا                          | (امیڈ کی)    | پر چند جتن کرنا  | نابغہ                                 |
| دو عالم بر ہم زدن                        |              | پر ٹیکھا         | پر ٹیکھا                              |
| پر چند تا                                | (نہ، ہیلی)   | پر چند تا        | پر چند کریا                           |
| متداول۔ مروع۔ رائج                       | (ہی)         | پر چلت           | عکس عمل۔ رو عمل                       |
| پر چلت ہونا                              | (امیڈ کی)    |                  | حریف                                  |
| رسمیت پیدا کردن۔ مروع شدن                |              |                  | جرح                                   |
| پر چلت کرنا                              | (امیڈ کی)    | پر چلت کرنا      | عکس                                   |
| اقتراء                                   | (امیڈ کی)    | پر چی ہاؤںی      | اول                                   |
| پر چوتھا ہیکرےتا                         | (نہ، پر، ہی) | پر چوتھا ہیکرےتا | تقدیم                                 |
| خرده فروش                                |              |                  | رواج                                  |

|                           |                                 |  |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| علی الرسم                 | پرداز انسار (ہمیں) پر تھا انسار | پر نام (نام) پر نام                      |
| ستر۔ حجاب۔ غشاء           | پرداز (نام) پر دہ               | محرا۔ بندگی۔ آداب۔ کورش                  |
| پرداز سُکلن (امیت کی)     | پر دہ جکٹ (امیت کی)             | قاپول۔ آب رین                            |
| نقاب برداشنا              |                                 | جزالت                                    |
| پرداز داری/رخواہی/رکھواہی | پر دہ داری (ہمیں)               | پر کپتا نوں تحریر کرنا                   |
| جابت                      |                                 | پر پکتا (ہمیں)                           |
| پرداز پاٹیلہ (امیت کی)    | بھت                             | روایت                                    |
| پرداز پرے بھت (ہمیں)      | جابت۔ جحت                       | رسم و روان                               |
| پرداز پرے میس (ہمیں)      | غربت                            | کوہ                                      |
| پردازی/اپریا (ہمیں)       | خارجی                           | پرہباد                                   |
| پرداز مہمان (نام)         | صدر                             | پرہباد                                   |
| پرداز نگہی (ہمیں)         |                                 | انظام۔ خبط در بط۔ بندوبست                |
| صدارت۔ بالائی             |                                 | پرہباد                                   |
| پرداز نگہی بھاشن (ہمیں)   |                                 | سربراہ۔ منظم۔ معمتم۔ منظرم               |
| خطبہ صدارت                |                                 | پرہباد کرنا (امیت کی)                    |
| پرداز مہمنگی (ہمیں)       |                                 | سامان ساختن۔ ادارہ کردن                  |
| وزیر اعظم                 |                                 | اصطلاحی                                  |
| پرداز پن (نام)            | پیان۔ عمد                       | نجر۔ سیدہ نجح                            |
| پرداز پن کرنا (امیت کی)   | عمر میتن                        | پرہباد سال (ہمیں)                        |
| پرداز پن توڑنا (امیت کی)  | شکستن۔ نقض عمد                  | طرف نجح۔ ہنگام بامداد                    |
| پیان                      |                                 | افڑ۔ نفوذ                                |
| ست پیان (ہمیں)            |                                 | پرہباد (امیت کی)                         |
| درست پیان (ہمیں)          |                                 | عنوان را ختن                             |
| ایفا عمد                  |                                 | اڑانداز                                  |
| پرداز پالن پان (نام)      |                                 | پرہباد کاری (ہمیں)                       |
| پرداز پورا کرنا (امیت کی) |                                 | پرہباد پاٹیلہ (امیت کی)                  |
| عمر بوفارسانیدن           |                                 | تا شیر کردن۔ تا شیر گذاشنا۔ تا شیر خشیدن |
| پرداز بُنگ کرنا (امیت کی) |                                 | مؤثر                                     |
| پیان گیجن                 |                                 | پرہبادی (ہمیں)                           |

|  |  |
|--|--|
| ਪਰਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ                           | عالم جاوید۔ عالم عقی۔ عالم بالا۔ آخرت۔ سرائی بقا |
| ਖਾਂਧਾਕਰਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ      | ਪਰਲੋ-ਦਿਵਸ (ਅ) ਪ੍ਰਲੋ ਦੋਸ ਪਰਲੋ-ਦਿਵਸ                |
| ਉਛਤ ਹੱਤੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪ੍ਰਭੂ ਪਰੇਮ                  | روز قیامت۔ فردای قیامت                           |
| ਪਰਭੂ-ਭਗਤੀ/ਆਸਤਿਕਤਾ (ਨਾ) ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਖਤੀ/ਅਖੜੀ        | ਮਲਫੂਲਾਤ (ਇਲਿੰਡਿ) (ਨਾ) ਪ੍ਰਚਾਵਲੀ ਪਰਵਚਨਾਵਲੀ         |
| ਇਲਿੰਡਿ   | ਪਰਵਰਤਨਸੀਲ (ਅ) ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਥੀਲ ਪਰਵਰਤਨਸੀਲ              |
| ਪਰਮ (ਪ੍ਰਮ) (ਵਿ)                                | ਜہان گذ ران                                      |
| ਪਰਮ ਸੁਹਜ (ਅ) ਪ੍ਰਮ ਕੁ (ਨਾ) ਪ੍ਰਮ ਕੁ              | ਪਰਵਾਸ (ਅ) ਪ੍ਰਵਾਸ                                 |
| ਪਰਮਤਾ (ਇਲਿੰਡਿ) ਪ੍ਰਸਤਾ                          | ਹجرت۔ ترک وطن۔ مہاجرت                            |
| ਪਰਮਾਣ (ਅ) ਪ੍ਰਮਾਣ                               | ਪਰਵਾਸੀ (ਵਿ) ਪ੍ਰਵਾਸੀ                              |
| ਪਰਮਾਣ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਾ               | ਸ਼ਰ غریب۔ اجنبی۔ مہاجر۔ غریب الوطن                |
| ਥਾਂਤ ਕਰਦਨ                                      | ਪਰਵਾਨ (ਵਿ) ਪ੍ਰਵਾਨ                                |
| ਪਰਮਾਣ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ | قبول۔ منظور۔ تسلیم۔ پذیر فلی                     |
| ਥਾਮੇ ਦੀਲ (ਅ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਸਤਾ                     | ਪਰਵਾਨ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ                 |
| ਪਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ     | قبول شدن۔ پذیرفته شدن۔ مطبوع شدن                 |
| ਦੀਲ ਆਰਦਨ                                       | ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ                 |
| ਪਰਮੁਖ (ਵਿ) ਪ੍ਰਕਮ੍ਹ                             | درسر گنجیدن                                      |
| ਪਰਮੁਖ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਕਮ੍ਹ ਹੋਣਾ                   | ازن  |
| فارفਤਨ۔ مقدم شدن۔ تفوّق داشتن                  | ਪਰਵਾਨਗੀ (ਇਲਿੰਡਿ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ                        |
| ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼         | ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ             |
| ਨੂਰ الٰਹੀ                                      | از آب و گل در آمدن۔ بار آمدن                     |
| ਪਰਯਾਸ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ               | عائلہ  |
| ਗੁਣوਲਿਦਨ۔ س੍ਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨਾ                      | ਪ੍ਰਵਾਰ (ਅ) ਪ੍ਰਵਾਰ                                |
| ਪਰਯੋਗ (ਅ) ਪ੍ਰਯੋਗ                               | ਪਰਵਿਸ਼ਟ (ਵਿ) ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ                            |
| ਪਰਯੋਗ-ਸ਼ਾਲਾ (ਇਲਿੰਡਿ) ਪ੍ਰਯੋਗ-ਸ਼ਾਲਾ              | تمਾਲ   |
| ਪ੍ਰਮੁਲ (ਇਲਿੰਡਿ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ                    | ਪਰਵਿਰਤੀ (ਅ) ਪ੍ਰਵਰਤੀ                              |
| ਪਰਯੋਗ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ               | ਤਮਾਲਿਤ (ਵਿ) ਪ੍ਰਵਰਤਿਆਂ                            |
| ਕਾਰ੍ਬੂਟਨ-ਅਨੁਮਾਨ                                | ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ (ਅ) ਪ੍ਰਵਰਤਿਆਂ                          |
| ਪਰਟਾਈ-ਰਾਖਿੰਦਰ                                  | ਹਾਤਾਂ-ਮਾਹਰ                                       |
| ਪਰਲੋ (ਇਲਿੰਡਿ) ਪ੍ਰਲੋ                            | ਪਰਵੀਣ (ਵਿ) ਪ੍ਰਵੀਣ                                |
| ਪਰਲੋਕ (ਅ) ਪ੍ਰਲੋਕ                               | ਪਰਵੀਣਤਾ (ਇਲਿੰਡਿ) ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ                        |
| ਕਾਰ੍ਬੂਟਨ-ਅਨੁਮਾਨ                                | حداقت۔ استادی۔ ماہری۔ زیر کی                     |
| ਪਰਟਾਈ-ਰਾਖਿੰਦਰ                                  | غیر  |
| ਪਰਲੋ (ਇਲਿੰਡਿ) ਪ੍ਰਲੋ                            | ਪਰਾਇਆ (ਵਿ) ਪ੍ਰਾਇਆ                                |
| ਪਰਲੋਕ (ਅ) ਪ੍ਰਲੋਕ                               | ਪਰਾਏ   |

|              |                                       |                             |                                  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| پرنسپل       | کفارہ                                 | پر اپنی بوجگ (ہ)            | پر اپنی بوجگ (ہ) یافت۔ قابل حصول |
| پر اسٹرائیکر | کرنی (امیٹ کی)                        | پر اسٹرائیکر کرنی (امیٹ کی) | التماس۔ الجا                     |
| پر اسٹریک    | اقترا                                 | پر اسٹریک                   | بلجی۔ ملتمس                      |
| پر اسٹریک    | جرگ کاوی                              | پر اسٹریک                   | سر آغاز                          |
| پر اسٹریک    | فطی۔ طبی۔ جبلی۔ غلطی۔ جبای            | پر اسٹریک                   | در گرفتن (امیٹ کی)               |
| پر اسٹریک    | قدامت۔ دری پیگ                        | پر اسٹریک                   | پر اسٹریک                        |
| پر اسٹریک    | فرس انھمن                             | پر اسٹریک                   | شناسانیدن۔ معزی کردن             |
| پر اسٹریک    | پسپائی                                | پر اسٹریک                   | عاقبہ۔ نتیجہ                     |
| پر اسٹریک    | مغلوبیت                               | پر اسٹریک                   | زمین۔ ارض                        |
| پر اسٹریک    | تنفس                                  | پر اسٹریک                   | جزم شدن (امیٹ کی)                |
| پر اسٹریک    | خواز                                  | پر اسٹریک                   | لبیز۔ لبالب۔ پر                  |
| پر اسٹریک    | لاوک۔ طباق                            | پر اسٹریک                   | پر اسٹریک                        |
| پر اسٹریک    | صوبہ                                  | پر اسٹریک                   | لبریز شدن۔ پر شدن                |
| پر اسٹریک    | سچ گاہ۔ پگاہ۔ علی الصباح۔ ہنگام سچ    | پر اسٹریک                   | تاظر                             |
| پر اسٹریک    | ایاتی                                 | پر اسٹریک                   | اصطلاحی                          |
| پر اسٹریک    | اویلت                                 | پر اسٹریک                   | پر اسٹریک                        |
| پر اسٹریک    | دست دارن۔ حاصل شدن۔ اتفاق افتادن۔ روی | پر اسٹریک                   | پر اسٹریک                        |
| پر اسٹریک    | داون                                  | پر اسٹریک                   | امتحان                           |
| پر اسٹریک    | حاصل کردن                             | پر اسٹریک                   | آزمائش                           |
| پر اسٹریک    | یافت۔ حصول۔ کام گاری                  | پر اسٹریک                   | امتحان رادن                      |
|              |                                       | پر اسٹریک                   | پر اسٹریک                        |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| پریت (نامہ ایلیٹ)                           | محبت                     | داستان عشق۔ افسانہ محبت                      |
| پریت کھانیاں (ہاکانس)                       | پریت کھانیاں             | عشق در زیدن (کی) امیت کرنا پریم کرنا         |
| لہوالمدیث                                   |                          | پریت پریت (نامہ بول) پریم پریت               |
| پریت کرنی (امیت کی)                         | پریت کرنی                | نامہ عشق۔ نامہ محبت                          |
| مرزو زریدن                                  |                          | پریم پرگاتا عیلانا (کی) پریم پرگاتا عیلانا   |
| پریتما (نامہ ایلیٹ)                         | جانان                    | رگ کردن                                      |
| پریت-دیہگار (بول)                           | پریت دوہار               | معشوق۔ محبوب                                 |
| رنبار عاشقانہ۔ روشن عاشقانہ                 |                          | پریم-پیڑ (نامہ ایلیٹ) پریم پیڑ               |
| پرے (بول)                                   | دور۔ بعید                | درد عشق۔ درد محبت                            |
| پرے سُٹلنے گا (بول)                         | پرے سُٹلنے گا            | پریم-بَرَاد (نامہ بول) پریم بَرَاد           |
| دوراندا ختنی                                |                          | پریم-ما رگ (نامہ بول) پریم ما رگ             |
| پرے سُٹلنا (امیت کی)                        |                          | جادہ عشق۔ مسلک عشق۔ راہ محبت                 |
| دورافحمدن۔ دوراندا ختنی۔ بجانب خارج الفحمدن |                          | لذت عشق (بول) (نامہ بول) پریم رس             |
| خاطر آشفہ (بول)                             | پریشان                   | درد عشق (نامہ ایلیٹ) پریم ویدنا              |
| پرے شان (امیت کی)                           | پریشان ہوئا ہوئا         | پریمیکا/پرے ملن (نامہ ایلیٹ) پریمیکا/پرے ملن |
| ورہم بودن۔ مضطرب بودن۔ گران بودن۔           |                          | معشوقہ۔ عشیقہ۔ محبوبہ                        |
| پریشیدن۔ آشمن                               |                          | پرے بھی (نامہ بول) پریمی                     |
| پرے شان کرنا (امیت کی)                      |                          | عاشق۔ عشین۔ مفتون و مجدوب عشق۔ دوستدار       |
| کراشیدن۔ مشوش شدن خاطر۔ منتشر گئن بتویلدن   |                          | صورت خوب و خوش گل۔ شیدا                      |
| نگرانی (نامہ ایلیٹ)                         | پریشانی                  | دورا شن (امیت کی) پرے رکھنا                  |
| پرے پرستی (نامہ ایلیٹ)                      | پریت پوچا                | پرے ایساشی (نامہ بول) پریس ایساشی            |
| دیوشاںی (نامہ ایلیٹ)                        | پریت وریا                | وابستہ مطبوعات                               |
| پرے-دیہیا                                   |                          | پرے کٹس کرنی (امیت کی)                       |
| حب۔ محبت۔ عشق                               | (بول) (نامہ بول) پریم    | مشق کردن                                     |
| پرے-عشق (بول)                               | پریم ایڈن مار (نامہ بول) | پرے کٹس دینی (امیت کی)                       |
| آتش عشق (نامہ ایلیٹ)                        | پریم آگنی                | مشق دار                                      |
| پرے-سے کلپ                                  | پریم سے کلپ              | پرے کٹس جانا (امیت کی)                       |
| پرے-سے دلیش (نامہ بول)                      | پریم سندیش               | پرے کٹس                                      |
| پرے-کھا                                     | پریم کھا                 | پس پشت۔ غیب                                  |

|  |                       |                    |  |                  |
|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|
| پرےخ اتے پرےخ                                | پوکھارتے پسختہ        | (ہاکاں)            | پائیڈی/ملینتا (ن)                      | پلیتی/ملینتا (ن) |
| نہان و آشکارا                                |                       |                    |  | خجٹ۔ خباثت       |
| پرےلن  | پوئی (امیت کی)        |                    | پلیڈیاں/بُریا کیاں (ن)                 | خباشت            |
|  | در رشتہ کشیدن۔ سقعن   |                    | ستیلیں (ن)                             |                  |
| پرےہمیسر                                     | پر فور (ن، پ)         | پروفیسر (ن)        | پلے گ (ن) پلیک (ن)                     | طاعون            |
| روغینہ۔ نان رو غنی۔ تفتان (ن، پ)             | پرےٹھا                | پلے ٹھاپتے (ہاکاں) |  |                  |
| پل   | پل (ن، پ)             |                    | میں پور۔ فرزند بزرگ۔ فرزاند ارشد۔ نخست |                  |
| لحظہ۔ دم۔ لمحہ۔ دقیقہ۔ "آں مقداری از زمان کر |                       |                    |  | زادہ             |
| باندازہ پک چشم بکھر دن باشد"                 |                       |                    |  | خشکی             |
| پل   | لمحات (ن، پ؛ بہ)      | پلے                | پلے ہشتن (ن)                           | رشتہ بانگشت بستن |
| پلامسٹر                                      | خازہ (ن، پ)           | پلے دا ڈھیر (ن، پ) | چرخ تبا                                | تبرک۔ مقدس       |
| پلامسٹر کرنا                                 | (امیت کی)             | پلے بھٹکنے (ن)     | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| دو سیدن۔ گکاری کردن۔ چپاندن                  |                       | پلے دا ڈھیر (ن)    | پدھن                                   | پدھن             |
| پلک  | مرثہ (ن، پ؛ بہ)       | پلے دا ڈھیر (ن)    | پدھن                                   | پدھن             |
| پلک شپکھنی (امیت کی)                         | پلک جکپنی (امیت کی)   | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلک بند کرنی (امیت کی)                       | مرٹگاں بہم سودن       | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلک مارنی (امیت کی)                          | چشم زدن               | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلک لگانی (امیت کی)                          |                       | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
|  | مرثہ بر مرثہ خوردن    | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلکاں  | جنون (ن، پ؛ بہ)       | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلٹنا  | واڑگون کردن (امیت کی) | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پل۔ پل                                       | (کیاہی)               | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| لحظہ بہ لحظہ۔ دم بدم۔ آں بآن۔ ہر آن          |                       | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پللا   | رامن (ن، پ)           | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلاسٹن/ڈر                                    | رمیدگی (ن)            | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلیڈی/سراڑی                                  | خبیث (ن)              | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |
| پلیڈ کرنا                                    | انجاس (امیت کی)       | پلے دا ڈھیر (ن)    | پلے دا ڈھیر (ن)                        | پدھن             |

|                                    |                      |             |                            |
|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|
| ਪੜਾ                                | ਪੜਾ (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> ) | رھل         | جنون داشਨ۔ دیوانہ بودن     |
| ਪੜਾਊਣਾ                             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | دراست       | دارالجانین                 |
| ਪੜਾਈ                               | (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | خواندگی     | ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ                  |
| ਪੜਾ ਕਰਨਾ                           | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ਪੜਕ         | ਪਾਗਲਪਣ                     |
| منزل کرنے۔ رخت التحمدن۔ رخت گشادن  |                      |             | دیوانگی۔ جਨਨ۔ دلشدگی۔ خبط  |
| پੜਾਕੂ                              | (ਵਿ)                 | درس خوان    | ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ   |
| ہم جوار۔ ہم دیوار۔ ہم سایہ         | (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> )     | ਪੜਾਕੂ       | ماخولیاਦਾਵਨ۔ ماخولیਾਗਰ فتن |
| ਪਾਉਣਾ                              | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | یافਤ        | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  |
| ਪਾਈਪ                               | (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | چੜ          | ਪਾਗਲਾ (ਵਿ) پਾਚਕ            |
| ਪਾਈਪ ਪੀਣੀ                          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | چੜن         | ہاضم                       |
| چੜن کشیدن۔ چੜ੍ਹਨ کشیدن             |                      |             | قوت ہاضم                   |
| ਪਾਏਦਾਰ                             | (ਵਿ)                 | مانڈگار     | ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ                 |
| ਪਾਸ                                | (ਵਿ)                 | کਾਮ یاب     | ਪਾਜ                        |
| ਪਾਸਕੂ                              | (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> )     | پਾਸਕੂ۔ ورسਕ | پਾਜ                        |
| ਪਾਸਪੋਰਟ                            | (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> )     | خط راہ      | پਾਜ                        |
| ਪਾਸا                               | (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> )     | جانب        | پਾਜ                        |
| ਪਾਸا گرفتن                         | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | طاس گرفتن   | پਾਠ                        |
| ਪਾਸا ਵੱਟਣਾ                         | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ਪਾਸا ਵੱਟਣਾ  | ਪਾਜੀਪੁਣਾ                   |
| رامن چیدن۔ دامن در کشیدن           |                      |             | فرودہ۔ دنات۔ خست۔ ذلت      |
| ਪਾਸੇ                               | (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> ; ਬਵ) |             | خرق گشਨ۔ خرقہ شدن          |
| اطراف۔ جوانب۔ جہات                 |                      |             | ਪਾਟਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) پਾਟਾ       |
| ਪਾਕਦਾਮਨੀ                           | (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         |             | ਪਾਟਣ                       |
| عصمت۔ بازداشਕੀ از گناہ             |                      |             | ਪਾਟਣ کردن                  |
| صافی ضمیر                          | (ਵਿ)                 | پਾਕ دل      | ਪਾਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜਾ           |
| کੁਕਮ۔ جਨਨ۔ برگستਾਵਾਨ               | (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਪਾਕھਰ       | ਪਾਠ۔ درس                   |
| ਪਾਗਲ                               | (ਵਿ)                 | ਪੜਕ         | ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)      |
| دیوانہ۔ سودا زدہ۔ مجਨੂਨ۔ ਮਹੱਤ ਲਖਾਵ |                      |             | آموزش گاہ۔ مدرس۔ مکتب      |
| ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ                          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |             | ਪਾਠਕ (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> )      |
| قاری۔ خواننده۔ قرأت کننده          |                      |             |                            |
| قارئین۔ خوانندهਗਾਨ                 | (ਵਿ)                 |             |                            |
| جمال                               | (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> )     |             |                            |
| آب                                 | (ਨਾਂ <u>ਪੁ</u> )     |             |                            |
| ਪਾਣੀ سਰਤੋਂ ਲੱਘ ਜਾਣਾ                |                      |             |                            |
| ਕਾਰਜ کਾਰਗੜਦਸ਼ਨ                      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |             |                            |
| ਸ਼ਨ                                | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |             |                            |
| ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ                        | (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |             |                            |
| ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰਕਤ ਦਾ ਉਪਰ ਉਛਲਣਾ          |                      |             |                            |

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| گناہ کار۔ عاصی۔ بزہ کار۔ مذنب۔ معصیت کار | فوران                       | (ا) پانی جاں رکت دا اپر اچھا                    |
| کمینہ۔ دون۔ حیر۔ فرمایہ                  | صب                          | (ب) پانی ڈیگالا                                 |
| پامر                                     | چشمہ                        | (ن) پانی داسوتا                                 |
| پرماڑا                                   | دم آب                       | (ن) پانی را گھٹ                                 |
| کمینگ۔ دونی۔ فرمائیگی۔ پست نزاری         | فشار آب                     | (ن) پانی داربا                                  |
| خانیدن                                   | جیان آب                     | (ن) پانی را ہوا                                 |
| ساحل۔ کنار۔ حد۔ پایان۔ انتہا             | رو                          | (ن) پانی را وہن                                 |
| پار کرنے۔ عبور کردن                      | پانی پانی ہوئا              | (ا) امیت کی                                     |
| گذشتن                                    | آب شدن                      |   |
| صرف۔ سیرنی۔ اہل نظر۔ ہنزہ شناس           | خضار                        | پانی میلیا                                      |
| زمین۔ ارضی                               | آب جاری                     | پانی ہو گرا                                     |
| پارکیو۔                                  | پانی وچ چبی مارنا           | (ا) امیت  |
| مصطلاح                                   | ارتماس۔ غوطہ زدن            | کی  |
| قطار۔ صف                                 | مالح                        | پاتلی   |
| داس زدن                                  | استحقاق                     | پاتردا  |
| عماری                                    | پاچاک۔ پاچک                 | پاچی  |
| پور دگار                                 | پانی                        | پاندری  |
| حیوان اہلی                               | مسافر                       | راہرو۔ راہ نور۔ راہ گیر۔ مسافر۔ راہی۔ جادہ پیار |
| پال ل                                    | خودک                        | پان   |
| اسفارخ                                   | پان                         | (ن) پان دا باہرشاہ                              |
| اعرج الہائی                              |                             | (ن)   |
| اظھار کشیدن                              | گناہ۔ خطا۔ عصیان۔ ذنب۔ قصور |   |
| پال ل                                    | پاپ                         | پاپ کمایا                                       |
| سطور۔ صفوں                               | گناہ کردن                   | گناہ کردن                                       |
| پال ل/پنگڈیاں                            | سگ زیدن                     | سگ زیدن۔ گناہ کردن                              |
| پال ل/پنگڈیاں                            | پاپ کردن                    | (ا) امیت کی                                     |
| پالی                                     | پاپی                        | (ن) پاپی  |

|                                      |                   |  |                      |
|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------|
| پالے-پال (کیوں) پالوں (کیوں)         | صف بہ صف          | پیما لہا (ن) پیارے جام                   | قدح۔ کاسہ۔ ایان۔ جام |
| پاون (ہی) پاؤں                       | پاک۔ مقدس         | پیما لی (ن) پیاری                        | فجان                 |
| پاڑ پر (ن) پر (ع)                    | تفرقہ             | پیسٹ (ن) پسوں                            | برغوث                |
| پاڑنا پر (آمیڈ کی)                   |                   | پیشہ کرنا (آمیڈ کی)                      |                      |
| پارہ کردن۔ چاکاندن۔ چاک کردن۔ دریدن۔ |                   | آب تا ختن۔ شاشیدن۔ ادرار کردن            |                      |
| شگفتہ۔ ریشه ریشه کردن                |                   | پیشہ بند ہونا (آمیڈ کی)                  |                      |
| پاڑنا۔ میڈیلہ (آمیڈ کی)              | درانہ و دوزانہ    | جس بول۔ اختناق                           |                      |
| پاڑ پاڑنا (آمیڈ کی)                  | تفرقہ انداختن     | آب دزدک                                  |                      |
| پاڑنا جائنا (آمیڈ کی)                | ریشه ریشه شدن     | پیشکاری (ن) پیچکاری                      |                      |
| پیٹ (ن) پیٹ (ع)                      | اب۔ والد۔ پدر     | پیٹ (ن) پیٹ (ع)                          |                      |
| پیٹ۔ دادا (ن) پیورا درا              | اب وجود           | پیٹلا (ہی) پیچلا                         | حاذ                  |
| پیما عین (آمیڈ کی)                   | نو شانیدن۔ استقا  | پیٹلا (ہی) پیچلا ورہ (ہا کاٹھ)           | پس آورده۔ ربیب       |
| پیما س (ن) پیس (ی)                   | عطش۔ لشکی         | پیٹلی (ہا کاٹھ) پیچپلی جان پیچاں         | سال گذشتہ۔ پار سال   |
| پیما سا (ہی) پیسا                    | طمان۔ تشنہ۔ عطہان | سابقہ معرفت                              |                      |
| پیما سے (ہی) پیسے                    | عطاش۔ ظماء        | پیٹلی رات (ن) پیچپلی رات                 |                      |
| پیما س (ن) پیاز (ع)                  | بصل               | پیٹلی رات نوں سفر کرنا (آمیڈ کی)         |                      |
| پیما دا (ن) پیارہ                    | راجل              | شب گیر زدن                               |                      |
| پیما دا (ن) پیارہ فوج                | قشون پیارہ        | پیٹلے (ہی) پیٹلے حصے                     |                      |
| پیما ر (ن) پیارہ ہونا (آمیڈ کی)      |                   | پینڈا (ن) پیچا                           |                      |
| خاطر آو مختن۔ استیصال                |                   | پینڈا کرنا (آمیڈ کی)                     |                      |
| پیما ر دی بات چیت (ہا کاٹھ)          | راز و نیاز        | دبال کردن۔ تعاقب کردن۔ دنبال کردن۔ درسلی |                      |
| پیما رنا (آمیڈ کی)                   |                   | کردن                                     |                      |
| عشق ورزیدن۔ دل بست                   |                   | رد دادن                                  |                      |
| پیما ر دم (ہا کاٹھ)                  |                   | پیٹاں پکلنے (آمیڈ کی)                    |                      |
| وطن مالوف۔ وطن عزیز                  |                   | پیٹھے (کیوں)                             |                      |
|                                      |                   | پیٹھے آئیں (آمیڈ کی)                     |                      |

|   |   |
|---|---|
| پنڈے ہٹ جاں (آمیڈ کی)                         | بی وفائی کردن۔ نکول کردن (از) (آمیڈ کی)   |
| عقب کشیدن                                     | پنڈ دئیں (آمیڈ کی)                        |
| پنڈے ہٹلن (آمیڈ کی)                           | سپا رفتن۔ پشت دادن۔ فرار کردن۔ سپاگی رفتن |
| وافادان۔ پس زدن۔ قہرا رفتن۔ ردشدن             | پنڈے میرے میرے (ہاکام) (آمیڈ کی)          |
| پنڈے ہٹ جاں (آمیڈ کی)                         | نقرات ظری                                 |
| دبال افحمند                                   | پس منظر                                   |
| پنڈے جاں (آمیڈ کی)                            | پنڈ بھومی (ن، ٹیکلیں) (آمیڈ کی)           |
| عقب رفتن۔ دبال رفتن                           | بزمین زدن۔ شکست دادن۔ مغلوب ساختن۔ بیع    |
| عقب راندن (آمیڈ کی)                           | کردن۔ محروم کردن                          |
| پنڈے پڑلن (آمیڈ کی)                           | دہ۔ روستا۔ قریہ                           |
| باز پس رفتن۔ گام عقب گذاش                     | پنڈ (ن، پ) پنڈ                            |
| پنڈے رہی جاں (آمیڈ کی)                        | پنڈا۔ دیہات                               |
| واماندہ شدن۔ عقب ماندن۔ پس افتادن             | صرفا۔ تلخ                                 |
| عقب رفتن (آمیڈ کی)                            | پنڈل (ن، ٹیکلیں)                          |
| پس۔ بعد۔ من بعد۔ در آخر (کیا ہی) پچھوں        | شب  |
| پنڈا (آمیڈ کی)                                | آبائی                                     |
| فلخوند۔ واخیدن۔ فلخیدن۔ خیدن۔ پنبہ دانہ ازپنه | والد۔ پدر                                 |
| بیردن کردن                                    | زہرہ                                      |
| پنڈلی (ن، ٹیکلیں)                             | پنڈا۔ پورختی میں بندپ                     |
| ساق   | انساب                                     |
| تلہ موش۔ موش گیر۔ قفس (پ) (ن، پ) پنڈرہ        | پنڈے ہیص پسندی (ہاکام) (آمیڈ کی)          |
| پنڈنے زدن (آمیڈ کی)                           | ججر صفو اوی                               |
| از خا۔ پشت۔ دربر۔ عمود اطبیں (ن، ٹیکلیں)      | سنجاق                                     |
| پنڈ ٹے ہوئے ہوئے (آمیڈ کی)                    | سنجاق زدن (آمیڈ کی)                       |
| پشتی کردن۔ مک کردن۔ مساعدت کردن               | کرہ ارض (پ) (ن، ٹیکلیں) پر تھوی منڈل      |
| پنڈ ٹے لئے ہوئے ہوئے (آمیڈ کی)                | پیہننا (آمیڈ کی)                          |
| کول کردن                                      | دستاس کردن۔ سائیدن۔ سکن کردن              |
| پنڈ دیکھا عیلانی (آمیڈ کی)                    | گرہ کور (ہاکام) (آمیڈ کی) پیڈی گندھ       |
| و اگزاردن۔ از خدمت فرار کردن۔ ترک وظیفہ کردن  | آشامیدن۔ نوشیدن۔ شرب (آمیڈ کی) پیانا      |
|   | پیپ پ (ن، ٹیکلیں) (آمیڈ کی) پیپ           |

|                      |                        |                         |                           |   |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| پੀਲਾ                 | (ਵਿ) پੀਲਾ              | زرو۔ اصغر               | پੁੱਠੀ ਚਾਲ (ਵਾਕਾਂਸ਼)       | زغمد  |
| ਪੀਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀਆ         | (ਵਾਕਾਂਸ਼) پੀਲਾਹਾਥੀਰੇ   | لب طلائی                | ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚਲਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ۔   |
| ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪੀਲਾਹੁਣਾ     | اਫਰار੍ਹ                 | ਬਾਂਧਕ ਰਫ਼ਤਨ               |   |
| ਪੀਲਾਪਣ               | (ਉ) (ਨਾਂ) ਪੀਲਾਪਣ       | زردي                    | ਪੱਤ ਪੱਤ (ਨਾਂ) پੱਤ         | ਫਰੜਨਾ۔ ਪੁਰ۔ ولد۔ اولاد                      |
| ਪੀੜ - تکਿਫ۔ ایزا     | (ਨਾਂ) ਇਲਿੱਕਿ           | گੜنਾ                    | ਪੱਤਰ (ਨਾਂ) پੱਤਰ           | ਫਰੜਨਾ۔ ابن۔ خلف۔ پੁਰ                        |
| ਪੀੜ ਹੋਣੀ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪੀਟ ਹੋਣੀ     | راسب شدن                | ਪੁਤਲੀ ਅਖ ਦੀ (ਵਾਕਾਂਸ਼)     | ਪੁਤਲੀ ਅਖ ਦੀ (ਨਾਂ) ਇਲਿੱਕਿ                    |
| ਪੀੜਿੱਤ               | (ਵਿ) پੀੜਿੱਤ            | درد دہ۔ درد خورਦہ۔ خستہ | لالਾਂ ਚੰਗਮ - مردਕ ਚੰਗ     | لالਾਂ ਚੰਗਮ - حدقة                           |
| ਪੀੜੀਓ - ਪੀੜੀ         | (ਨਾਂ) ਹੈਰਿ ਸਿਹੈਰੀ ਮ੍ਰਿ | ਪੈਂਤ ਬੇ ਪੈਂਤ - جد بجد   | ਪੁਰਮਕਾਰ                   | چਾਜ਼ਹੇ۔ صਲੇ۔ انعام                          |
| ਪੁਸਤਕਾਂ              | (ਨਾਂ) ਇਲਿੱਕਿ ਬਵਾ       | ਖਾਨਕ                    | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | چਾਜ਼ਹੇ ਗਰ ਫਤਨ                               |
| ਪੁਸ਼ਟੀ               | (ਨਾਂ) ਇਲਿੱਕਿ           | ਤਚਦੀਤ - ਤਾਤਿਤ           | ਪੁਰਮਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ        | صلات  |
| ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ             | ਪੁਰਮਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ        | صما   |
| طرف گرفਨ - ਜਾਹਿਤ ਕਰਨ | - پੱਤੀ ਨਮੂਨ            | طرف                     | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | کਮਨ - عتیق - قدیم - پارینੇ - دیرین - دیرینہ |
| صلبی - نسل           | (ਵਿ) ਪੱਤੀਨੀ            | لਬاسات                  | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ                       |
| ਪੁਸ਼ਟੈਨੀ             | (ਨਾਂ) ਇਲਿੱਕਿ ਬਵਾ       | جار زدن                 | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ                       |
| ਪੁਸ਼ਗਜ               | (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ          | براق                    | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | داب قديم                                    |
| استفار - استفہام     | - پੁ ਸ਼ (ਨਾਂ) ਇਲਿੱਕਿ    | ਪੁੱਛ                    | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ                       |
| ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕਰਨੀ        | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | باز ری کردن             | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | ورਾਨਾਰਦ                                     |
| باز ری کردن          |                        | ਪੁੱਛਣੀ                  | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | روک   |
| پੁਜਾਰੀ               | (ਵਿ) ਪੁੱਛਣ ਜੋਗ         | ਪੁੱਛਣੀ                  | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | خلاقت - کਮਗੀ                                |
| ਪੁਜਾਰੀ               | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਪੁੱਛਦਾ                  | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ                       |
| ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ         | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | از قدیم                                     |
| ਪੁੱਛੀ                |                        | ਪੁੱਛੀ                   | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ                       |
| ਪੁਸਤਕਾਂ              | (ਵਾਕਾਂਸ਼)              | ਪੁਸਤਨਾ                  | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | مشہماਈ ਕਮਨ                                  |
| ਪੁਸਤਨਾ               | (ਵਾਕਾਂਸ਼)              | ਪੁਸਤਨਾ                  | ਪੁਰਮਕਾਰ (ਨਾਂ) ਪੁਰਮਕਾਰ     | عادیات                                      |

|                         |                                   |  |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨ੍ਹੇ ਕਾਨ੍ਹੇ    | خਲਾਨ (ਨਾਂ ਪੁ: ਬਵ) ਪ੍ਰਾਨੇ ਕੁਰੈ ਦੇ  | ਪੂਜੀਆਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ ਬਵ) ਪੁੱਖੀਆਂ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ ਬਵ) | امਤੇ                            |
| ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਦੇ          | ਦੂਸ਼ਾਨ ਕਦਿਮ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪ੍ਰਾਨੇ ਬੇਲੀ | ਪੂਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | ਪੂਜੀ ਪ੍ਰਾਨੇ ਬੇਲੀ ਦੇ             |
| ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ              | ਪ੍ਰਾਨੇ ਰੋਗ (ਨਾਂ ਪੁ: ਬਵ)           | ਅਤੇ  | ਪੂਜੀ ਪ੍ਰਾਨੇ ਬੇਲੀ ਦੇ             |
| ਅਮਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ            | ਅਮਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ                      | ਪੂਜੀ ਲਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | ਸਰਮਾਇੇ ਗਢਾਅਨ                    |
| ਪੁਰਾਤਨ (ਵਿ) ਪ੍ਰਾਤਨ      | ਬਾਸਟਾਨ                            | ਪੂਦਨਾ (ਨਾਂ ਪੁ: ਬਵ) ਪ੍ਰਾਤਨ                    | ਨਗਨ-ਨਗਨ-ਨਾਗ                     |
| ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ              | ਦਾਸਟਾਨ ਪਾਸਟਾਨ                     | ਪੂਰਤੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਪੂਰਤੀ                      | ਅਖਤਾਮ                           |
| ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ              | ਉਮਦ ਉਮਿਕ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪ੍ਰਾਤਨ ਕਾਲ     | ਪੂਰਨ ਇਕਸੁਰਤਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸਰਤਾਹੀ ਹੋਣੀ           | ਪੂਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਆਸਥਾ ਦਰਕਾਰਨ੍ਹੋਦਨ |
| ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ          | (ਕਿਵਿ) ਪ੍ਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ             | ਪੂਰਨ ਚੰਦਰਮਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪੂਰਚੰਦਰਮਾ              | ਮਾਡਾ                            |
| ਦਰਜਾਨ ਕਦਿਮ-ਦਰਜਾਨ ਪਾਸਟਾਨ | ਦਰਜਾਨ ਕਦਿਮ-ਦਰਜਾਨ ਪਾਸਟਾਨ           | ਬਦਰ-ਮਾਹ ਕਾਮ-ਮਾਹ ਕਾਮ                          | ਬਦਰ-ਮਾਹ ਕਾਮ-ਮਾਹ ਕਾਮ             |
| ਪੁਰਾਨਤਾ                 | ਕਦਮੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ) ਪ੍ਰਾਤਨਾ          | ਪੂਰਨ ਪਰਗਟਾਵਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪੂਰਨ ਪਰਗਟਾਵਾ          | ਨਗਨ-ਨਗਨ-ਨਾਗ                     |
| ਪੁਲ                     | ਭਰ                                | ਪੂਰਬ (ਨਾਂ ਪੁ: ਬਵ) ਪੂਰਬ                       | ਮਿਥੁਨ-ਖਾਵਰ                      |
| ਪੁਲਿਸ                   | ਸ਼ਰਧਾਨ                            | ਪੂਰਬੀ (ਵਿ) ਪੂਰਬੀ                             | ਮਿਥੁਨ-ਖਾਵਰੀ                     |
| ਪੁਲਿੰਗ                  | ਨਾਕ                               | ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ (ਵਾਕਾਂਸ਼) ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ                | ਦੀਵਾਰ ਮਿਥੁਨ                     |
| ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਦਾ             | ਅਸਿਨਕ                             | ਪੂਰਾ (ਵਿ) ਪੂਰਾ                               | ਸਾਲੁ                            |
| ਪੁੜ                     | ਰਾਫ                               | ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | ਸੁਅਮ ਦਾਵ                        |
| ਪੁੜ ਪਸੂ ਦਾ              | ਚੰਠੇ                              | ਸੁਅਮ ਦਾਵ-ਤਾਮ-ਤਾਮ ਕਰਨ-ਕਰਨ                     | ਸੁਅਮ ਦਾਵ-ਤਾਮ-ਤਾਮ                |
| ਪੁੜੀ                    | ਚੜ੍ਹੇ                             | ਕਾਮ ਕਰਨ-ਕਰਨ                                  | ਕਾਮ ਕਰਨ-ਕਾਮ ਕਰਨ                 |
| ਪੁਛ                     | ਨਾਮ-ਨਮ                            | ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       | ਕਾਮ ਕਰਨ-ਕਾਮ ਕਰਨ                 |
| ਪੁਛ ਹਿਲਾਉਣੀ             | ਨਾਮ-ਨਮ                            | ਫਰਸ਼ਟ  | ਫਰਸ਼ਟ                           |
| ਪੁੜੀ                    | ਨਾਮ-ਨਮ                            | ਪੂਰੀ ਇਕਿਸੁਰਤਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪੂਰੀ ਇਕਿਸੁਰਤਾ        | ਅਮਿਤ ਅਮਿਤ                       |
| ਪੁਸ਼ਟ                   | ਪੁਸ਼ਟ                             | ਦੀਵਾਰੀ                                       | ਦੀਵਾਰੀ                          |
| ਪੁਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ             | ਪੁਸ਼ਟ                             | ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨ ਦੇਣਾ                         | ਤੋਹੇ ਕਾਮ ਕਰਨ                    |
| ਪੁਸ਼ਟ                   | ਪੁਸ਼ਟ                             | ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ                | ਮੁਹਰ ਕਰਨ                        |
| ਪੁਸ਼ਟ                   | ਪੁਸ਼ਟ                             | ਪੇਸ਼ ਕਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ                  | ਮੁਹਰ ਕਰਨ                        |
| ਪੁਸ਼ਟ-ਸਥਾਨ              | ਪੁਸ਼ਟ-ਸਥਾਨ                        | ਬਰਕ ਨਹਾਵਨ                                    | ਬਰਕ ਨਹਾਵਨ                       |
| ਪੁਸ਼ਟ ਗਾਹ               | ਪੁਸ਼ਟ ਗਾਹ                         | ਮੁਹਰ ਕਰਨ                                     | ਮੁਹਰ ਕਰਨ                        |
| ਪੁਸ਼ਟ ਗਾਹ-ਪੁਸ਼ਟ ਗਾਹ     | ਪੁਸ਼ਟ ਗਾਹ-ਪੁਸ਼ਟ ਗਾਹ               |  |                                 |
| ਮਤਾਂ                    | ਮਤਾਂ                              |  |                                 |



|            |                            |       |                                 |
|------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| پڑے        | بُوچتے (ن: پ: ب)           | احفار | ਪੌਰਚਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |
| ਪੱਥੀ       | بُੱਖੀ (ਨ: ਇਲਿੰ)            | کتاب  | ਫਰਾਸਿਦਨ۔ ਦਰਾਮਨ۔ ਵਾਖਲਣਾ۔ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
| ਪੱਥੀਆਂ     | بُੱਖਿਆਂ (ਨ: ਇਲਿੰ; ਬ)       | کتب   | ਦੁਰਦਸਤ (ਵਾਕਾਸ਼) کੁਝ ਤੋਸ ਪੈ ਰੇ   |
| ਪੱਥਾਂ      | بੁੱਖਾਂ (ਨ: ਇਲਿੰ; ਬ)        | ਜਾਨ   | ਪੌਰਚਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)              |
| ਪੱਲ        | بੁੱਲ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਮੱਖਲੀ | ਏਸਾਲ                            |
| ਪੱਲ ਖੁਲ੍ਹਾ | بੁੱਲ ਖੁਲ੍ਹਾ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) |       | ਵਾਹਿਦ ਮਲਾਈ ਅਰਧ                  |
| ਪੱਲਾ       | (ਵ)                        |       | ਪੌਣੇ ਦੇ (ਵ) ਬੁੱਨੇ ਦੇ ਦੋ         |
|            |                            |       | ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
|            |                            |       | ਕਲੇਕਟਰ ਕਰਨ                      |
|            |                            |       | ਜਿਨ੍ਹੀ                          |

ہم جاں دادن (آمیڈ کی) پھس جانا  
فصل دی واڑھی کرنی فصل دی واڑھی کرنی  
(آمیڈ کی) درود دادن  
ہاس کردن (آمیڈ کی) فصل وڑھنی داس کردن  
ہساد بھڑا کرنا (آمیڈ کی) فساد کھڑا کرنا  
شورش برپا کردن  
ہنگی سفوف (نہ ایلہ) ہنگی سفوف  
دکیوں/بیخواری نقصیر (نہ پ) نقصیر  
درولیش گدا  
درولیش گدائی دکیوی  
دکاہ کج بودن فخر کرنا  
عیش بی فایدہ ہرزہ  
دیلا دیلا غ (ہا کاٹھ) فضول آدمی  
ہنڑل کم کرنا (آمیڈ کی) فضول کم کرنا  
مشک آوردن  
ہنڑل بھرنا فضول خرچ  
اسراف فضول خرچی  
ہنڑل بھرنا کرنی گشاد بازی کردن  
لافیدن فضول بکنا (آمیڈ کی)  
ہنڑل بکھارنا کرنی (آمیڈ کی)  
لبیدن سخن لاف دگنا فکشن  
ہنڑل بولنا فضول بولنا (آمیڈ کی)  
عیش فکشن بی معنی دلا طائل حرف زدن  
ہنٹ پھٹ (نہ پ) شجد

ہٹکڑی چھوڑی (نہ ایلہ) زان زاک  
ہٹدا فتوی دینا (آمیڈ کی) افقاء  
ہندگذاشنا پھندالاونا (آمیڈ کی) تله گذاشنا  
ہندے بھدا (نہ پ) بھدا جاکل فخاج  
ہنپک دای (نہ پ) پھندھک لالہ فرشی (ہا کاٹھ) فرقشی لاٹھیں  
ہرک ہونا (آمیڈ کی) فرق ہونا فرق داشنا  
ہرک کرنا (آمیڈ کی) فرق کرنا فرق کردن  
فرمودن امر نمودن حکم کردن فرمادن  
لطف کردن  
ہرمائیٹ فرمائش کرنی (آمیڈ کی) فرمائش دادن  
تقریر فرار ہونا (آمیڈ کی) تقریر  
ہرگز فراری (ہا) ہرگز ہرگز  
ہریماں کرنی (آمیڈ کی) فریاد کرنی داد زدن فریاد زدن  
داد طلب فریادی (ہا) داد طلب  
خائن شیاد (ہا) فریادی فریادی  
ہل پھل (نہ پ) میوه فا کھہ شر حاصل نتیجہ  
ہلدار پھل دار (ہا) میوه دار

دلدار ہے (آمیڈ کی) پھل دار ہوئے

مفاصا دادن

بار آوردن

ڈارگ-بڑی لئی فارغ خطی لینی (آمیڈ کی)

شیر (پر ن) پھل دار کھ رکھ

مفاصا گرفت

دل پڑھے دا (پر ن) پھل دھتھرے دا

جو زماں

ڈالڈ (ہا کا مٹ) فاٹس پڑھ پڑھا

ید کی

دل نہیں کرنا (آمیڈ کی) پھل نواں کرنا

نو بادہ کردن

ڈالا (پر ن) چالا

رخیں

دلان (پر ن) چلاں

فواکہ - میوہ ہا۔ میوہ جات

ڈالا (پر ن) چالاں دا

گاؤ آہن

دلان (پر ن) چلاں

چخ خ من

ڈالیاں کرنا (آمیڈ کی)

دلان دیاں ڈالیاں کرنا

فال فال کردن

ڈیکھا رنگ

تردد

ڈھننا (پر ن)

گرفت - بدست آوردن - قبض کردن - اخذ کردن

ڈیکھا (ہی)

ستندن - پذیر فتن

ماخ - بد مزہ - بی ذائقہ - بی لذت

گیر دار (ن، ایلیں) پھر پھرائی

ڈائیسا (پر ن) فائدہ

حکم اعدام (ن، ایلیں) ہدہ

ڈائیسا (ن، ایلیں) چانسی

ڈائیسا (ن، ایلیں) چانسی اتے لٹکاونا

ڈیکھا کی (آمیڈ کی) بندانداختن

ڈائیسا (ن، ایلیں) چانسی چاڑھنا

دو شاخہ کردن - بردار کشیدن

ڈائیسا (آمیڈ کی) فاش کرنا

درز کردن (آمیڈ کی) ڈرب

ڈیکھا (پر ن) ڈرب

ڈالا (پر ن) ڈیکھا

فانہ - پچ - بغاز - چوب شگاف

ڈارگ-بڑی دئی (آمیڈ کی)

ڈیکھا رے جانا (آمیڈ کی)

نفرین شدن

ڈیکھا (ن، ایلیں) پھنسی

فسفو سہ - بڑہ - بڑہ

ڈیکھا (ن، ایلیں) پھسیاں

شور

ڈیکھا (ن، ایلیں) پھر کی

فرفرہ

ڈیکھا جانا (آمیڈ کی)

تحف

ڈیکھا (آمیڈ کی)

گشت

ڈیکھا (آمیڈ کی) پھر دیدن

گردیدن - کوچ کردن و روائہ شدن

ڈیکھا (پر ن) پھر دیتا

جوراب بند

ڈیکھا (ن، ایلیں) پھر دیتا

دھر رش

ڈیکھا (آمیڈ کی) پھر دیتا

قاطر

ڈیکھا (آمیڈ کی) پھر دیتا

دھنکل ویچنا

|                                      |                                      |                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ਖਰਦੇ ਫਰੋਥਿ ਕਰਦਨ                      | ਫੈਰ ਪੱਧੀਰ ਏ। (ਕਿਵਿਵਿ)                | ਥਮ                                |
| ਛੁਟ ਛੁਟ ਕੇ ਰੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ਫੇਰਨਾ ਪੱਧੀਰ ਏ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਮੂਲਿਦਨ                            |
| ਜਾਰਜਾਰ ਗੱਲ੍ਹਣ                        | ਫੇਰੀਵਾਲਾ - ਦੁਰਹੁਕੁਦ (ਵਿ) ਪੱਧੀਰੀ ਵਾਲਾ | ਦਸਤ ਫਰੋਥ                          |
| ਫਰਸਤ ਆਤੇ ਚੈਨ ਦਾ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)       | ਫੈਸਲਾ। (ਨਾਂ ਪੁ)                      | ਫ਼ਕਾਰਾਤ                           |
| ਫਰਾਗ ਦਾਖਣ                            | ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਤਰਾਂਦਨ                            |
| ਭਰਤੀ (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)                    | ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਫ਼ਕਾਰਾਤ ਕਰਨ                       |
| ਚੜ੍ਹਣੀ - ਤ੍ਰਦ੍ਦਤੀ - ਜ਼ਵਦੀ - ਅੱਗਲਤ    |                                      | ਫ਼ਕਾਰਾਤ ਕਰਦਨ - ਤਾਲਥ ਕਰਦਨ          |
| ਚਾਰੁ - ਚੱਗਤ - ਅੰਮ੍ਰਿਤ। (ਵਿ) ਪੱਧੀਰਿਲਾ | ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਫਿਚਲਾਵਾਨ                          |
| ਭਰਤੀਲਾਪਣ। (ਨਾਂ ਪੁ)                   | ਫੈਸਲਾ ਪਾਉਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)               | ਫਿਚਲਾ ਪਾਉਣ                        |
| ਸੁਰੂ - ਸ਼ਤਾਬ - ਜ਼ਵਦੀ - ਜਲਦੀ           |                                      | ਕਾਰਗਾਹ - ਫੋਰਿਕਿ                   |
| ਛੁਲ। (ਨਾਂ ਪੁ)                        | ਫੈਸਲਾ ਪੱਧੀਰਿਲਾ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਛੁਲ/ਸ਼ਗੂਫੇ। (ਨਾਂ ਪੁ; ਬਵ)             | ਫੈਸਲਾ ਪੱਧੀਰਿਲਾ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਕਨਦੀ। (ਨਾਂ ਪੁ)                       | ਫੈਸਲਾ ਪੱਧੀਰਿਲਾ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਛੁਲ ਕਿਓਰਾ। (ਨਾਂ ਪੁ)                  | ਫੈਸਲਾ ਪੱਧੀਰਿਲਾ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਗੁਲ ਚੀਨ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਫੈਸਲਾ ਪੱਧੀਰਿਲਾ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਛੁਲ ਜਾਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਫੈਸਲਾ ਪੱਧੀਰਿਲਾ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਛੁਲ ਜਾਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਫੈਸਲਾ ਪੱਧੀਰਿਲਾ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)         | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਛੁਲਿੱਝੀ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)                |                                      | ਫ਼ਸ਼ਤ - ਫਰਾਖੀ - ਕਾਂਢਾਗੀ। (ਨਾਂ ਪੁ) |
| ਕਲਮ ਜੁ ਚੱਕ - ਗੁਲ ਅਫ਼ਸਾਨ              |                                      | ਅੱਕਸ                              |
| ਛੁਲ ਦਾ ਖਿੜਨਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਫੈਟੋਗਰਾਫਰ। (ਨਾਂ ਪੁ)                  | ਅੱਕਸ                              |
| ਗੁਝੇ ਗੁਲ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਫੈਟੋਗਰਾਫੀ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)              | ਅੱਕਸੀ                             |
| ਛੁਲ ਪੇਸਤ ਦੇ ਦੇ। (ਨਾਂ ਪੁ; ਬਵ)         | ਫੈਲਡਿੰਗ ਕੁਰਮੀ। (ਵਾਕਾਂਸ਼)             | ਅੱਕਸੀ ਅਨਾਖਣ                       |
| ਛਤਾਨ                                 |                                      | ਅੱਕਸੀ ਅਨਾਖਣ                       |
| ਛੁਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਨਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |                                      | ਅੱਕਸ                              |
| ਗੁਲ ਦੀ ਮੀਦਨ                          |                                      | ਅੱਕਸੀ                             |
| ਛੁਲੈਹੀਂ। (ਨਾਂ ਇਲਿੱਫ਼)                | ਬਰਸ                                  | ਅੱਕਸੀ                             |
| ਛੂਕਨਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਦਰਮੀਦਨ                               | ਅੱਕਸੀ                             |
| ਛੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣਾ              |                                      | ਅੱਕਸੀ                             |
| ਛੂਕ ਸਾਰਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣਾ। (ਅਮਿਤ ਕਿ)    |                                      | ਅੱਕਸੀ                             |
| ਛੁਕ ਸਾਫ਼ੀਦ - ਰੀਵ                     |                                      | ਅੱਕਸੀ                             |

احتیاج آن

فوری لواز (نام، ایمیل)

ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ (نام، ایمیل)

رخت نظامی - لباس نظامی

|  |   |
|--|---|
| بسم  | نہار                                    |
| بسم کر دین (ہاکاں) بست رت                  | فصل بہار                                |
| بسمگی (ہاکاں) بسری                         | فلوت                                    |
| بسمگی ہجاؤنی (امیٹ کی) بسری و جاؤنی        | فلوت زدن - نای زدن - نی زدن - نی نواختن |
| بسم لے کر دین (ہاکاں) بسلوچن               | باشیر - طباشیر                          |
| بسمی نی (ہاکاں)                            | نی                                      |
| بھادڑی پر گھاؤنی (امیٹ کی) بداری پر گھاؤنی | شیری نمودن                              |
| بھادڑی ہجاؤنی (امیٹ کی) بداری و گھاؤنی     | داد شجاعت دادن                          |
| بھانہ بھانہ (ہاکاں) بھانہ                  | عذر - عذر                               |
| بھانہ کرنا (امیٹ کی)                       | بھانہ کرنا                              |
| شکم خاریدن                                 |   |
| بھالا بھالا (امیٹ کی)                      | عذر آور دن - عذر خواستن                 |
| بھیس کرنا (امیٹ کی) بھٹ کرنی               | سر دکھ کر دن (امیٹ کی) بھٹ کرنی         |
| بھیساں (ہاکاں) بھٹاں                       | مباحث                                   |
| بھیسٹی (ہاکاں) بھٹتی                       | مینوی                                   |
| بھیلن بھلؤں (ہاکاں) بھلؤں                  | نشت و برخاست                            |
| بھریت (ہاکاں) بھر کرنی                     | اکثریت                                  |
| بھر تھاں (ہاکاں) بست اچا                   | ارفع                                    |
| بھروسہ مسروہ کرنا                          |   |

|  |
|--|
| فواید بسیار داشتن - بدست آور دن منافع بسیار  |
| بھروسہ مسروہ کرنا (ہاکاں) بست سند راستری     |
| فنا  |
| بھروسہ مسروہ لیکھنا (امیٹ کی) بست سند رکھنا  |
| لا جورد کشیدن                                |
| دیکور (ہاکاں) بست ہمیرا                      |
| بھروسہ ہولی بولنا (امیٹ کی) بست ہولی بولنا   |
| صد از چاہ بر آمدن                            |
| بھروسہ بھوسہ ہونا (امیٹ کی) بست خوش ہونا     |
| کلاہ بر انداختن - شاد شدن - شاد کائی نمودن   |
| بھروسہ چمگے ڈھنگے ٹال کر نوں نپرے چاڑھنا     |
| کار چوزا کردن (امیٹ کی)                      |
| بھروسہ ڈھنگی ڈھنگی (ہاکاں) بست ڈھنگی         |
| زودا زود                                     |
| بھروسہ جیسا دا (کیا ہی)                      |
| جنال در جمال - فت و فرا وال                  |
| بھروسہ بھک جانا (امیٹ کی) بست تھک جانا       |
| خود و خیر شدن                                |
| شمہ (ہاکاں) بست تھوڑا بھوڑا                  |
| فراتر (ہاکاں) بست دور دُر                    |
| بھروسہ پر سُن ہونا (امیٹ کی) بست پر سُن ہونا |
| در پیر ہن عبودن - در پیر ہن گنجیدن - از پوست |
| بر آمدن                                      |
| بھروسہ مسروہ ہونا (امیٹ کی) بست مصروف ہونا   |
| گرفتاری داشتن                                |

ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੁਕਮਾ (ਵਾਕਾਂ) ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਵਾਕਾਂ)  
 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ) ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)  
 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੁਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ  
 ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਵਾਕਾਂ)

ਲਪ ਲਪ ਖੁਰਦਨ  
 ਬਹੁਤਾ (ਵਿਵਾਹ) ਬੇਤਾ  
 ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ ਘੂੰਕ ਸੌਣਾ  
 (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ  
 (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਬਹੁਤਾ ਧਰਾਵਾਂ-ਦਫਰ  
 ਬਹੁਤਾ ਪਗਸਿੱਧ  
 ਬਹੁਤਾ ਲੋੜੀ (ਵਾਕਾਂ)  
 ਬਹੁਤੀ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ  
 (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਬਹੁਤੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨੀ  
 (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਬਹੁਤੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ  
 (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਬੇਟੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ  
 ਦ੍ਰਿਆਨ ਸਿਹਾ ਕਰਨ

ਮੋਤੀ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ  
 ਦਰਿਆ-ਮੁਦਿਬੀ ਬਾ  
 ਬਹੁਰੂਪੀਆ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਬਹੁਰੂਪੀਆ  
 ਰੰਗ ਆਂਦਰ  
 ਬਹੁਲਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ) ਬਹੁਲਤਾ  
 ਅਫ਼ਾਤ-ਕਥਤ-ਟਕਾਰ  
 ਬਹੁਲਤਾ ਚਾਹੁਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਬਹੁਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)  
 ਬਹੁੜਾ (ਨਾਂ, ਪੁ) ਬਹੁੜਾ

ਭਕਸੂਆ (ਪੁ) ਭਕਸੂਆ  
 ਬਕ ਬਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ) ਕਕ ਕਕ  
 ਬਕ ਬਕ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਫਾਂਝੀ ਕਰਨ

ਬਕਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਓਰਕ ਦੁਰਕ ਦੁਰਕ  
 ਬੱਕਰਾ (ਪੁ) ਬੱਕਰਾ  
 ਬੱਕਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ) ਬੱਕਰੀ  
 ਬੱਕਰੀਆਂ (ਵਾਕਾਂ) ਬੱਕਰੀਆਂ  
 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਦ ਵਾਹੜ  
 ਬਕਵਾਸ (ਹਰਜ਼ੇ ਗੁਣੀ) (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ) ਬਕਵਾਸ  
 ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)

ਜੱਫ਼ਨ ਸ਼ਨੀਦਾਨ  
 ਬਕਵਾਸ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ) ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ  
 ਬਕਵਾਸੀ (ਵਿਵਾਹ) ਬਕਵਾਸੀ  
 ਫਾਂਝੀ-ਬੰਦ ਜ਼ਬਾਨ-ਹਰਜ਼ ਦੇਹਨ-ਦਰਾਜ਼ ਨੈਂਸ-ਧਾਰੇ ਗੁ  
 ਬਕਵਾਸੀ (ਵਿਵਾਹ) ਬਕਵਾਸੀ  
 ਫਸ਼ੂਲ-ਧਾਰੇ ਗੁ-ਕੀ ਕੇ ਬਕਾਰਹਾਂ ਗੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਵਾਹ  
 ਬਕਵਾਸੀ (ਵਿਵਾਹ) ਬਕਵਾਸੀ  
 ਬਕਾਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ

ਜੁਗੁਤ  
 ਬਕਾਊਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਅਤ੍ਰਾਕਨਾਨਿਦਾਨ-ਅਤ੍ਰਾਕਨਾਨਿਦਾਨ-ਕਾਨਾਨਿਦਾਨ  
 ਬਸ਼ਸ਼ ਬਨੀਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੰਗ)  
 ਉਤਾ-ਦਾਵਾਵ-ਦਾਵਾਵ-ਦਾਵਾਵ-ਦਾਵਾਵ  
 ਬਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿਵਾਂ)  
 ਜ਼ਰਾਫ਼ਾਲ ਦੀਨ  
 ਬਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ



|                                    |                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| مصنوعی۔ جعلی۔ قلابی۔ لباسی۔ ساختگی |                                  | فخش دادن                                   |
| بُلْت بودن (امیٹ کی) بناوٹی ہوئا   | بُلْت بودن (امیٹ کی) بناوٹی ہوئا | خوار                                       |
| بُلْت ایٹی کوئی کہی تشاہر          | بُلْت ایٹی کوئی کہی تشاہر        | بُلْت دار شدن (امیٹ کی) بدنام ہونا         |
| بُلْت ایٹی رہنے رہنے رہنے رہنے     | بُلْت ایٹی رہنے رہنے رہنے رہنے   | بُلْت نام کرنا (امیٹ کی) بدنام کرنا        |
| ذق زدن                             | ساختن                            | لکھ دار کردن۔ سعایت کردن                   |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | ساخت                             | بند بند کئنا (امیٹ کی)                     |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | اردک۔ خربطہ                      | بند از بند جدا کردن                        |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | چهل دوو                          | بُلْت ماحش                                 |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | چهل دوم                          | بُلْت جانا (امیٹ کی)                       |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | فتیلہ۔ پلیٹہ چراغ                | بُلْت لانا (امیٹ کی)                       |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | سی دوو                           | تحول۔ تبدل۔ عوض کردن                       |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | فتائل۔ فتیلات                    | سزا  |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | آفرودزہ (امیٹ کی)                | گوہزیدن                                    |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | سی و دوم                         | بُلْت اداون                                |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | ترش                              | بُلْت لیتا (امیٹ کی)                       |
| بُلْت ایٹا (امیٹ کی)               | دکان تختہ کردن۔ کنہہ شدن         | دادستاندن۔ انتقام گرفتن۔ حیف گرفتن۔ انتقام |
| اعقال                              |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| بُلْت کرنا (امیٹ کی)               |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| سفاہ                               |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| شف                                 |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| سر بند۔ کوچہ بن بست                |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| بُلْت گالی (امیٹ کی)               |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| طاولات                             |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| بُلْت چلن (امیٹ کی)                |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| فلتی۔ ننجار                        |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| بُلْت چلن تیہی آنے (امیٹ کی)       |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| فواحش۔ زنان بعمل دبدکارو ہرجائی    |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| قارح۔ قدح کنندہ                    |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
| بُلْت بیان (امیٹ کی)               |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
|                                    |                                  | شلیک کردن                                  |
|                                    |                                  | بُلْت لے (امیٹ کی)                         |
|                                    |                                  | شلیک کردن                                  |

|                     |                                  |                 |                                    |                                       |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| بندے                | (ناءں پوچھا) بندے                | عبد۔ عبد        | بُرڈی مارنی (امیت کی)              | طعان                                  |
| بَدَّهَتِی          | (کیا ہے) بَدَّهَتِی              | بُرَدَّهَتِی    | بُرَدَّهَت کرنا (امیت کی)          | برداشت کرنا                           |
| بُرُو۔ عَفْلَأً     | باجبار۔ جرأة                     | بُرُو۔ عَفْلَأً | فرودخوردن                          |                                       |
| بَنْدَهَن           | (ناءں پوچھا) بَنْدَهَن           | بَنْدَش         | بَنْدَهَن (ناءں پوچھا) برابر       | تف                                    |
| بَنْدَهُو           | (ناءں پوچھا) بَنْدَهُو           | بَرَادُر        | بَنْدَهُو کرنا (امیت کی)           |                                       |
| بَنْسَمَضَّتِی      | (ناءں پوچھا) بَنْسَمَضَّتِی      | بَلْمَجَن       | بَاد دادن۔ تباراخ دادن۔ خراب کردن  |                                       |
| بَلْمَجَن           | خُب الارض۔ نباتات                | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) بربادی      | جیانہ                                 |
| بَلْمَجَن-هِیَدِیَا | (ناءں پوچھا) بَلْمَجَن-هِیَدِیَا | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) بربادی      | زرب                                   |
| بَلْمَجَن           | علم نباتات                       | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) بربادی      | دیم زار۔ دیکی                         |
| بَلْمَجَن           | کاکوش                            | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر       | معادل۔ ہم پله۔ عنان برعنان (ہے) برابر |
| بَلْمَجَن           | نساس۔ عستر                       | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر کھینا | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر کھینا    |
| بَلْمَجَن           | بُستن۔ سر بُستن۔ والستن          | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر کھینا | دریک پله داشن                         |
| بَلْمَجَن           | سد بُستن                         | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | مسادات داشن                           |
| بَلْمَجَن           | غُصْفَر۔ شیر درندہ               | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر کرنا  | سر بہ سر کردن۔ برابر کشیدن            |
| بَلْمَجَن           | قاوش                             | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر کرنا  | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر کرنا     |
| بَلْمَجَن           | عرفان                            | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر کرنا  | تعديل                                 |
| بَلْمَجَن           | بَلْمَجَن/بَلْمَجَن              | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | معادله۔ مسادات                        |
| بَلْمَجَن           | تجدد۔ عزیت۔ بی جھنی              | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | صادر شدن                              |
| بَلْمَجَن           | بَلْمَجَن/بَلْمَجَن              | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | صادر کردن                             |
| بَلْمَجَن           | مجرد۔ عزب۔ شخص بی جھنی           | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا     |
| بَلْمَجَن           | ترک                              | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | استبراء                               |
| بَلْمَجَن           | مطر۔ باران۔ بارش                 | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | تبرز شدن                              |
| بَلْمَجَن           | بَلْمَجَن                        | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | تبرز کردن                             |
| بَلْمَجَن           | موسم برشگال۔ موسم باران          | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا     |
| بَلْمَجَن           | علی الرغم                        | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا     |
| بَلْمَجَن           | بَلْمَجَن                        | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا     |
| بَلْمَجَن           | شل                               | بَلْمَجَن       | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا  | بَلْمَجَن (ناءں پوچھا) برابر ہوئا     |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| بُرُد         | تُفْنِگ - داروی (ن: پ)                                    | بِلَندْهُنْ - باصدای رعد آسا ادا کردن                   |
| بَل           | بَل (ن: پ)  | بِشْتَار - زشتار  |
| زور           | زور - طاقت - قوت - قدرت - توانی - نیرو                    | بِسْجَرَهُلَّا (پ) بِرْبُولَا                           |
| بَلَسْجَلَّا  | بَلَسْجَلَّا (ن: پ)                                       | بِسْجَرَهُلَّیِ اسْتَرَی (ن: پ) بِرْبُولِی اسْتَرَی     |
|               |   | خاله زنک  |
| نیرومند       | نیرومند - زورمند - زورور - توان - قوی - زبردست            | بِسْتَ و دُو  |
| بَلَمْدَ      | بَلَمْدَ کرنا (امیت کی) بِلَمْدَ کرَنَا                   | بِسْتَ و دُوم   |
| فراداشن       | فراداشن - افرادختن - بلند کردن - فراشن                    | جَنَاح - عضد - بازو                                     |
| بَل           | بَل دَيَّا (امیت کی) بِل دَيَّا                           | بِازَ دادَن   |
| زورمیدن       | زورمیدن - قوت و توانی دادن - نیرودادن                     | بِهَرَ کرَدَن   |
| بَل           | بَل پَرَپَت جوئا هَلَّا (امیت کی) بِل پَرَپَت جوئا هَلَّا | دُور کرَدَن - رانَدَن - اخراج کرَدَن - بِيرَدَن کرَدَن  |
|               | پشت گرم شدن   | بِدر کرَدَن   |
| بَل           | بَل رَجَلَّا (امیت کی) بِل رَكْنَا                        | بِهَجَدَن   |
|               | قدرت داشتن - توان بودن                                    | بِاهَرَ کرَدَن (امیت کی) بِاهَرَ کرَنَا                 |
| بَلَهَا       | بَلَهَا (ن: پ) بُلوا                                      | بِاهَرَ سَلَّهُ جَانَا (امیت کی) بِاهَرَ سَلَّهُ جَانَا |
|               | انفاس   | خارج شدن  |
| بَلَهَا       | بَلَهَا کرنا (امیت کی) بُلوه کرَنَا                       | بِرَآمدَن (امیت کی) بِاهَرَ تَكَلَّنَا                  |
|               | انفاس کردن - خوشانیدن                                     | بِيرَدَن  |
| بَلَاتَکَار   | بَلَاتَکَار (ن: پ)  | بِاهَرَلَا (پ) بِاهَرَلَا                               |
|               | زنای بعطف - زنای بزور - تجاوز به عصمت - عصمت              | بِرَآورَدَن (امیت کی) بِاهَرَلَوَنَا                    |
| دری           | دری - بزور زنا کردن                                       | ظاهَرَی - صورَی - بِيرَدَن                              |
| بَلَاتَکَارِی | مر تکب زنای بعطف (پ) (ن: پ) بِلا تَكَارِی                 | زادِیه بِيرَدَن (هَاکَامْسَه) بِاهَرَی کون              |
|               | بَلَهَا   | کد میین - زوربازد (پ) (ن: پ) بِاهَرَی بَل               |
| بلیات         | بلیات (ن: پ) (پ) بَلَهَا                                  | طَرَحَ دَار   |
| بَلِیهَارَی   | تصدق (امیت کی) بِلِیهَارَی جَانَا                         | بَاقِی رَكَنَا (امیت کی) بِاقِی رَكَنَا                 |
| بَلَیهَارَی   | بَلَیهَارَی جَانَا (ن: پ) بِلِیهَارَی جَانَا              | اعْجَقا   |
| بَلَیهَارَی   | بَلَیهَارَی جَانَا (ن: پ) بِلِیهَارَی جَانَا              | بَاغ - باغ  |
| بَلَهَه       | بَلَهَه کرنی (امیت کی)                                    | بَاغَه  |
| آفرین گهن     | آفرین گهن - تحسین کردن - کف زدن                           | بَاغَه هَلَّا (امیت کی) بِلَهَه هَلَّا                  |
| بَلَهَه       | بَلَهَه (ن: پ) بُلُونَگَا                                 | عاصی شدن - گرد گششی کردن                                |
| بَلَهَه       | بَلَهَه (ن: پ) بُلُونَگَا                                 | ضرغام - شیر - اسد                                       |
| غَرَش         | غَرَش کردن - داد زدن - بلند حرف زدن - باصدای              | بَاجَه  |
|               |   | بَاجَه (ن: پ) بَاجَه                                    |
|               |   | گاورس - جاورس   |



|                             |                                |  |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| بَا لَكْ بَنْ اُو سَحَا     | بَا لَكْ بَنْ اُو سَحَا        | بِنْدُو  |
| عَالِم طَفْوِيلَت           | عَالِم طَفْوِيلَت              | قَطْرَه - ذَرَه - صَفَر - حَادِثَة اِتفَاقِيَّ |
| بَا دَرَصِي                 | بَاورِجِي                      | فَاضِيَّر - فَانِي                             |
| خَوَالْ گَر                 | خَوَالْ گَر - طَلَاخ - آشْ پَر | مُهْم شُود                                     |
| بَا دَرَصِي بَنَانَه        | بَاورِجِي خَانَه               | بِنْسَنْ جَار                                  |
| رَبَّا - سُود               | بِيَاج                         | بِنْسَنْ اَمِيتَّ                              |
| بِيَاج لَيْنا               | لَيْنا                         | بِنْسَنْ اَمِيتَّ                              |
| سُود خُورَدن                | رَبَّا خُورَدن                 | تَلَفَ شُدَن                                   |
| بِيَاج كَرَنَا              | بِيَاج كَرَنَا                 | - هَلَاكَ شُدَن                                |
| حَكَائِيتَ كَرَدن           | حَدِيثَ كَرَدن                 | - مَرَدن                                       |
| كَرَدن - شَرَح حَالَ كَرَدن | عَرْضَ كَرَدن - بِيَاج         | - تَابُودَ شُدَن                               |
| بِيَاج پُوشِي               | پُوشِي - رَمُون                | - فَانِ  |
| بِيَاج قَاتِق               | بِيَاج                         | بِنْ خَواستَه                                  |
| بِيَاج مَلْفَه              | بِيَاج                         | بِنْ بُلَاهِيَا                                |
| بِيَاج خُورَدن              | بِيَاج خُورَدن                 | بِغَيرِ  |
| بِيَاج بَار                 | بِيَاج                         | سَرَرَي جَواب دَادَن                           |
| بِيَاج بَنْ بَلَاهِيَا      | بِيَاج                         | عَرْضِي  |
| بِيَاج بَنْ بَلَاهِيَا      | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج بَنْ بَلَاهِيَا      | بِيَاج                         | بِنْ تَنَدرَست                                 |
| بِيَاج بَنْ بَلَاهِيَا      | بِيَاج                         | بِيَاج دَارَه كَرَنَا                          |
| بِيَاج تَمَارِضَ كَرَدن     | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج فَرَاق               | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج بَرَهَيِّر           | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج ثُور                 | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج عَرْقَب              | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج رُودَاد              | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج سَال خُورَده         | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج عَجُوز               | بِيَاج                         | بِيَاج   |
| بِيَاج خَاسِيدَن            | بِيَاج                         | بِيَاج   |

|                     |                                    |  |
|---------------------|------------------------------------|--|
| ਬਿਲ                 | ਨਾਰਹਨਦੀ - ਨਾਰਦਥੀ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ) ਮੁਲ    | ਬੀ ਬੀਜਲਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)   |
| ਬਿਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ bill) | ਮੁਲ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ) ਮੁਲ                 | ਕਾਸ਼ਨ - ਖੁਮਾਫ਼ਾਨਦਨ - ਖੁਮਪਾਇਦਨ - ਖੁਮਰ ਮੁਖਨ                     |
|                     | ਮੁਲ ਸੂਚਨਾ                          | ਸਕੂਰਤਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਬਿਧੇ ਕਰਨਾ                                   |
|                     | ਸੂਚਨਾ                              | ਦੀਮਾਰ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਯਾਰ ਹੋਣਾ                                |
| ਬਿਲਕੁਲ              | ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਬਾਕੀ ਟਿਆਰ ਹੋਣਾ | ਦੀਮਾਰ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਬਿਧੇ ਆਖਨਾ                               |
|                     | ਬੰਸਰ ਪਾ ਇਤਾਵਾ                      | ਦੀਮਦਾਰ ਹੋਣਾ - ਦੀਮਦਾਰ ਬੁਡਨ - ਤੁਦਦ ਕਰਨ                         |
| ਬਿੱਲਾ               | ਬੁਲੀ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ)                    | ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                 |
| ਬਿੱਲੀ               | ਲੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਫ਼)                   | ਮਹੁਮ ਬੁਡਨ  |
| ਬਿੱਲੀ-ਐਖਾ           | ਮੁਲ ਆਖਾ (ਵਿ)                       | ਭੁਗਲਾ/ਕੀਨਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ) ਅਤੇ                                    |
| ਬੀਚਕ                | ਲੱਕ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ)                     | ਭੁਚੜ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ) ਬੁਚੜ   |
| ਬੀਜ                 | ਤੁੰ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ)                     | ਕਚਾਬ - ਗੋ਷ਟ ਫਰੋਵਾ - "ਾਲ ਕੇ ਗੋ਷ਟ ਰਾਤ੍ਰੇ ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ" |
| ਬੀਜ ਪਿੜਾਊਣਾ         | ਨੁਕਨਦਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਦਾਨਾ                | ਦਾਨਾ ਰਾਖਨਾ                         | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਦਾਨਾ ਅਫ਼ਾਨਦਾਰਨਾ     | ਦਾਨਾ ਰਾਖਨਾ                         | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ          | ਵਾਕਾਂ (ਵਾਕਾਂ)                      | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀਤਿਆ ਵਰਾ           | ਵਾਕਾਂ (ਵਾਕਾਂ)                      | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਦੀ ਸਾਲ              | ਸਾਲ ਗੁਝਾ                           | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀਤੀ ਰਾਤ            | ਬੀਤੀ ਰਾਤ (ਵਾਕਾਂ)                   | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਦੀ ਸ਼ੱਭ              | ਦੀ ਸ਼ੱਭ ਗੁਝਾ                        | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ           | ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ                | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| (ਵਾਕਾਂ)             | ਸਾਭੀਨ                              | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀਤੇ ਸਾਲ            | ਬੀਤੇ ਸਾਲ (ਵਾਕਾਂ)                   | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਹੀ ਅੰਬਾਨ - ਨਾਈ ਮੁਕ  | ਹੀ ਅੰਬਾਨ - ਨਾਈ ਮੁਕ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਫ਼)   | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀਨ - ਵਾਜਾ          | ਵਾਜਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰ) ਬੀਨ ਵਾਜਾ           | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀਨਾਸ               | ਬੀਨਾਸ ਕਰਦਾ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਤੁੰਮਾਂ ਮਿਅਨ ਬੁਡਨ    | ਤੁੰਮਾਂ ਮਿਅਨ ਬੁਡਨ                   | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਬੀ ਪਾਊਣਾ            | ਲੀ ਪਾਊਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਕਣੁ                 | ਕਣੁ - ਜਾਗੁਣ ਕਰਦਾ ਨਮੂਦਨ - ਤੁੰ       | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |
| ਪਾਇਦਨ               | ਪਾਇਦਨ                              | ਤੇਜੂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੋਵਾ   |

|                                |               |                                      |                        |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|
| بُرداھا                        | (ن، ٻ)        | براحال ہونا (امیڈ کی)                |                        |
| شیب۔ پیری۔ کمن سالی۔ بزرگی     |               | کلافہ شدن۔ کارزار شدن                |                        |
| بُرلٹ بنت (ن، ٻ)               | انسان         | بُرل کرنا (امیڈ کی)                  |                        |
| بُرلڈی نبٹی (ن، ٻ)             | انسان         | جنایت کردن                           |                        |
| بُرلار چارو (ن، ٻ)             | شرکرہ         | بُرل بللا (ن، ٻ)                     |                        |
| بُرپ بھر (ن، ٻ)                | عطارد         | زرم و گرم۔ ٹشک و تر۔ بد و نیک        |                        |
| بُرپھار چارشنبہ (ن، ٻ)         | دبار۔ چارشنبہ | بُریاں (ن، ٻ) بُریاں                 | شر۔ بدی                |
| بُرپی بھری (ن، ٻ)              | بدھی          | بُریاں ایساں (ن، ٻ) بُریاں           | بُریاں ایساں           |
| عقل۔ خرد۔ دانش۔ فهم و شعور     |               | مغاسد۔ ذمام                          |                        |
| بُرپی مڈی (ن، ٻ)               | عقلہ          | بُریاں ایسی (ہاکاں) بُریاں تے چنگیاں |                        |
| بُرپی مان (ن، ٻ)               | عقلی مان      | زشتی و غوئی                          |                        |
| عقلی۔ عاقل۔ خردمند۔ دانا۔ زیرک |               | بُرے کم کرنا (امیڈ کی)               |                        |
| بُرپی مانی (ن، ٻ)              | عقلی مانی     | کثافت کاری کردن                      |                        |
| خردمندی۔ دانا۔ عقل۔ دانا       |               | بُرے دین آٹونا (امیڈ کی)             |                        |
| بُرپی دھرپ (ہاکاں)             | خلاف عقل      | از اسپ بُر خرآمدن                    |                        |
| بُرپ بلننا (امیڈ کی)           | خرشن          | بُرے دیناں دا آٹونا (امیڈ کی)        |                        |
| بُرپ بلنڈا (امیڈ کی)           | خر کردن       | گاؤ کسی زائیدن                       |                        |
| بُرپی اہنی (ن، ٻ)              | زیر پیراہنی   | بُرل بُرل                            | عندلیب                 |
| بُرپی اس رکھنی (امیڈ کی)       | نبیار رکھنی   | بُرل بُرل (ن، ٻ) بُرل                | فرزنڈاپ۔ غنچہ آپ۔ حباب |
| مبانی نادان                    |               | بُرل بُرل (ن، ٻ) بُرل                | عنادل                  |
| بُرپی اس (ن، ٻ) بُریار اس      | مبانی         | بُرل بُرلے (ن، ٻ) بُرلے              | افراس آپ۔ حباب         |
| بُرپ کن                        | کفشاپ کن      |                                      |                        |
| بُرکا (ن، ٻ)                   | پرتو          |                                      |                        |
| بُرڈاگار دی (ن، ٻ)             |               | طلبیدن۔ آواز دادن۔ صدا کردن۔ صدا زدن |                        |
| اوپاشی۔ رذلی                   |               | بُرلادا (ن، ٻ)                       | دعوت                   |
| بُرگا/ماڑا (ن، ٻ)              | شنت۔ بد       | بُرل بُرل (ن، ٻ) بُرل                | لبان                   |
| بُرگا ایسی دے�نی (امیڈ کی)     |               | بُرل بُرل (ن، ٻ) بُرل                | شفت۔ لب                |
| قباحت داشن۔ زشتی و بدی داشن    |               | بُرل بُرل (ن، ٻ) بُرل                | لند لندر               |

|  |  |
|--|--|
| بُرّ بُرّ کرنا (آمیڈ کی)                 | بے سُر اج کے گاؤں (آمیڈ کی)                  |
| لندہ لندہ زدن۔ ور ور کردن۔ زکیدن۔ لندیدن | خارج خاندن                                   |
| بُرّا پہلنا (آمیڈ کی)                    | خارج آہنگی                                   |
| در باز کردن                              | بے سُر اپن (نام بھی) بے شعور ہونا (آمیڈ کی)  |
| بُرّا پالسٹ داس                          | نا شائستہ بودن                               |
| بُرّتے لایلنا (آمیڈ کی)                  | زہ دیدہ                                      |
| غرس کردن۔ مشجر کردن                      | دل از حال رفتہ                               |
| بُرّے دست (نام بھی) بوند                 | بے ہجہ (ہی) بے حیا (ہی)                      |
| قطرہ۔ پچھہ                               | بے حال ہونا (آمیڈ کی)                        |
| بُرّا باندھی ہونی (آمیڈ کی)              | کند نمودن۔ بی حس کردن۔ احمق کردن             |
| نم نم باران آمدن                         | نان شب ماندہ                                 |
| بے ایکھاڑا ار ہونا (آمیڈ کی)             | بے ہو دگی کرنی (آمیڈ کی)                     |
| از دست شدن۔ از دست رفتہ                  | کوئی گر کردن۔ ہرزگی کردن                     |
| بے دست د پا (ہی) بے سارا                 | بے ہو دہ کرنہ (آمیڈ کی)                      |
| بے سبھر ہونا (آمیڈ کی)                   | دم خرچی بودن                                 |
| نا شکیبا بودن۔ نا شکیبا شدن              | بے ہو دہ گل کرنی (آمیڈ کی)                   |
| بے سماں (ہی) بے سمجھ روز کور۔ ناران      | لغو گھن                                      |
| بے سماں کرنی (آمیڈ کی)                   | لغویت  |
| نا فہمی کردن                             | ٹیخ شدن                                      |
| بے سماں د کردن (آمیڈ کی)                 | بے سواد جو جن کھانا                          |
| بے سماں دے جان (آمیڈ کی)                 | بے سواد بھو جن کھانا                         |
| زہ مار کردن                              | بے سوادی کرنی                                |
| بے سماں دی کرنی (آمیڈ کی)                | خنکی کردن                                    |
| بے سماں دی گل (نام بھی) بے سوادی گل      | غش کردن۔ از پا اف تادن۔ در خط شدن۔ متغیر شدن |
| حرف خنک                                  | اغماء  |
| بے سماں دی چیز (نام بھی) بے سوادی چیز    | بے ہوش کرنا (آمیڈ کی)                        |
| بے سمع ہے جا لنا (آمیڈ کی)               | بے ہوشی (نام بھی)                            |
| از پا اف تادن                            | خفیت شدن۔ سبک شدن۔ خوار و حیر گھن            |
| بے سُر (ہی) بے سر اج                     | بے کدر ر ہولنا (آمیڈ کی)                     |
| خارج آہنگ                                | بے کاش بُرّا ہوئنا (آمیڈ کی)                 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| دل از دست دارن                               | بےਪਰਦਾ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    | از غلاف برآمدن                                     |
| ਬੇਕਾਰ ਫਿਲਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਬੇਕਾਰ ਪੱਧਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | چਕਾਰہ  |
| قازچ੍ਰਾਨਨ                                    | ਤੁਤ੍ਸ਼                                   | ਬੇਫਾਇਦਾ (ਵਿ)                                       |
| ਬੇਕਾਰ ਰਹਿਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਬਿਕਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਕਨਦ ਸ਼ਡਨ ਲਕਕ  |
| عطالت۔ ਚਕਾਰੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                   | ਡਰਾਹ                                     | ਬੇਫਿਕਰੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ                               |
| ਬੇਗੈਤਤ (ਵਿ) ਬੇਗੈਰਤ                           | ਕੁਵੀ                                     | ਬੇਪਿਸ਼ਟ ਖੜਨ  |
| ਬੇਗੀ ਨਾਂ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                       | ਲੀ ਖਾਨਮਾਨ                                | ਚੁਨ ਬੇਚੁਨ  |
| ਬੇਘਰ (ਵਿ) ਬੇਗੁੰ                              | ਬੇਚੈਨ                                    | ਰੋਗ ਦਾਨ  |
| ضاج- دل ੱਗ- مਪਤ੍ਰ- ਬੀ ਆਰਾਮ- ਬੇ ਫਰਾਰ          | ضاجر- دل ੱਗ- مਪਤ੍ਰ- ਬੀ ਆਰਾਮ- ਬੇ ਫਰਾਰ     | ਬੇਮੁਖਤਾ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                              |
| ਬੇਚੈਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                              | شੂਰੀਦਨ- ਪ੍ਰਿਯਾਨ ਸ਼ਡਨ- ਸਰਗਰਦਾਲ ੱਗਤਨ- ਮਪਤ੍ਰ | ਰੋਗ ਦਾਨ- ਅਖਾਫ                                      |
| شੂਰੀਦਨ                                       | شੂਰੀਦਨ                                   | ਤਮਕ- ਭਨਕ   |
| ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | ਤਾਜ਼ਾ- ਬੀ ਮੁਲ                            | ਬੇਰ  |
| ਆਤਸ਼ دਾਨ- ਆਤਸ਼ ਜਦੂ                           | ਬੇਚੈਨੀ                                   | ਬੇਰ ਦਾ ਰੁਖ   |
| قلق- ਅਫ਼ਟਰਾਬ                                 | ਬੇਚੈਨੀ                                   | ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜਾ/ਬੇਨਕੇਲ ਉਠ                              |
| ਬੇਜਾ   | ਨਾ- ਬੀ                                   | خੁਲ੍ਹੇ ਦੁਹਾਰ (ਲਾਂ, ਨਾ) ਬੇ ਲਾਗਮ ਗ਼ਹੂਰਾ/ ਬੇ ਨਕੀਲ ਓਥੜ |
| ਬੇਟਾ   | ਭੀ                                       | ਮਹੁਰ   |
| ਲਹਤ ਗੁੜ- ਲਹਤ ਦਲ- ਪ੍ਰੇਰ- ਖਲਫ- ਅਭਿ- ਵਲਦ- ਫਰਾਜਨ | ਬੇਵੱਸ                                    | ਮਹੁਰੀ  |
| ਬੇਤਤਤੀਬ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       | ਨਾ                                       | ਬੇਵਾਈ (ਵਾਕਾਂ)                                      |
| ਨਾ- ਮਨੁਭੁ ਬੁਦਨ                               | ਨਾ                                       | ਗੁਫ਼ਰ- ਅਦਮ ਵਿਥਾਤ- ਨੁਕ ਹਾਨੀ                         |
| ਬੇਪਿਆਣੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                        | ਤਾਫ਼                                     | ਬੇਵਾਈ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               |
| ਬੇਨਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                          | ਤਮਾਸ                                     | ਗੁਫ਼ਰ ਕਰਨ- ਫਰੀਬ ਦਾਨ- ਮਕਰ ਕਰਨ                       |
| ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | ਨੀਤੀ                                     | ਬੇਵਾਲੁਕ (ਵਾਕਾਂ)                                    |
| ਦਰ ਖਾਸਤ ਕਰਨ- ਅਖਾਕਰਨ- ਤਮਾਸ ਕਰਨ                | ਨੀਤੀ                                     | ਅਹੁਲੀ ਗੁਫ਼ਰ- ਮਰਦਮ ਬੇਵਾਲ                            |
| ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       | ਨੀਤੀ                                     | ਕਥਤੀ- ਸੁਖਿੰਦਰ- ਜ਼ਰੂਰੀ                              |
| ਦਰ ਜਿਖ ਬੁਦਨ                                  | ਨੀਤੀ                                     | ਬੇੜੀ- ਜੋ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ            |
| ਬੇਪਰਤੀਤੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ            | ਨੀਤੀ                                     | ਬੀਜੀ- ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ                     |
| ਨੀਤੀ   | ਨੀਤੀ                                     | ਜ਼ਰੂਰਾਨ  |
| ਸੁਫ਼   | ਨੀਤੀ                                     | ਬੇੜੀਆਂ (ਵਿ)  |

|                  |                          |                      |                             |
|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| عقل کی دزدیدن    | عقل کی دزدیدن (آمیڈ کی)  | بے ذہن (نہ: ایلین)   | نہ                          |
| ਬੈਕ ਚੈਕ          | درقة باک (نہ: پ)         | بے دی (نہ: ایلین)    | کاکل توام                   |
| ਬੈਕ ਵਿਚ ਸਾਖ ਹੋਣੀ | بینیک وچ سਾਖ ਹੋਣੀ (آمیڈ) | ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ (ਵਾਕਾਂਸ਼)  | سਤਾਰੇ ਵਿਨਾਲੇ ਦਾਰ            |
| ਕਿ               | ਮੁਲ ਵਾਸ਼ਨ                 |                      |                             |
| ਬੈਗਜਾਨ-حدੱਤ      | ਬੈਗਜਾਨ-حدੱਤ (نہ: بੈਗਜਨ)  | ਬੇਗ (نہ: پ)          | ਗਲ                          |
| ਬੈਠਕ             | ਨਥਟ                      | ਬੇਗੀ (نہ: ایلین)     | ਗੌਨੀ-جوਾਲ                   |
| ਬੈਠਣਾ            | ਨਥਨ                      | ਬੇਲਣਾ (آਮਿਤ ਕਿ)      |                             |
| ਬੈਤ              | غزار                     |                      | ਸੁਖਣਕ ਕਰਦਨ                  |
| ਬੈਤ ਦਾ ਰੁਖ       | ਚਨਫਾਫ                    | ਬੇਲ (ਵਿ)             | ਚਮ-ਕر-ਨਾਸ਼ਨਾ                 |
| ਬੈਸਾ ਲੈਣਾ        | ਮਾਛ ਵਿਚੋਂ                | ਬੇਲ ਹੋਣਾ (آਮਿਤ ਕਿ)   | ਕਰ ਬੁਦਨ-ਨਾਸ਼ਨਾਬੁਦਨ-ਗੁ਷ਾਫਤਾਦਨ |
| ਬੈਹਣੀ            | ਦਸਤ ਕਾਲ-ਦਸਤ ਲਾਫ-ਓਲ ਵਿਦਾ  | ਬੇਲਾ (ਵਿ)            | ਕਰ ਕਰਦਨ-ਨਾਸ਼ਨਾਕਰਦਨ           |
|                  | ਦਸਤ ਕਾਲ (ਨہ: پ)          | ਬੇਲਾ ਕਰਨਾ (آਮਿਤ ਕਿ)  |                             |
| راਤ-ਖੁਸ਼         | راਤ-ਖੁਸ਼                 | ਬੇਲਪਣ (ਨہ: پ)        | ਕਰੀ-ਨਾਸ਼ਨਾਵੀ                 |
| ਤ੍ਰੈਸ            | ਨਮਾਜ                     | ਬੇਲੀ ਮਾਰਨੀ (آਮਿਤ ਕਿ) |                             |
| ਬੈਕ              | ਡੋਲ੍ਪੇ-ਰਕੋ               | ਨਮਾਜ-ਕਰਦਨ            | ਨਮਾਜ-ਕਰਦਨ                   |
| ਬੈਕਲ ਹੋਣਾ        | ਡੋਲ੍ਪੇ ਹੋਣਾ (آਮਿਤ ਕਿ)    |                      |                             |
|                  | ਵੜਨਾ                     |                      |                             |
| ਬੇਸ              | ਜਿਬ                      |                      | ਫਰਾਵਾਨੀ-ਬਿਆਰੀ-ਕਥਰਟ          |
| ਬੇਡ              | ਜਿਅਬ                     | ਬੈਧੀ                 | عقل                         |
| ਬੇਟੀ             | ਤਕਨੀ                     | ਬੈਧੀ ਤਰਕ (ਵਾਕਾਂਸ਼)   | ਡਿੱਲ ਉਚਲੀ                   |
| ਬੇਟੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨੀ   | ਤਿਕੇ ਤਿਕੇ ਕਰਦਨ           | ਬੈਧੀਕਤਾ (ਵਿ)         | عقلیت                       |
|                  | ਬੇਤਲ                     | ਬੈਧੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ      | ਬੈਧੀਕ                       |
| ਬੇਤਲ ਦਾ ਕਾਕ      | ਸਮਾਮ                     | (ਵਿ) ਬੇਲਾ            | ਤਖ਼ਿਲ عقلانੀ                |
|                  |                          |                      | ਪਸਤ ਕਦ-ਪਸਤ ਕਾਮਤ             |

|                  |             |                            |  |
|------------------|-------------|----------------------------|--|
| ਭਵਸ਼ਰ            | (ਨਾਂ ਪੁ)    | ਆਕਲ - ਖੁਰਨਦੇ               | ਬੱਠੇ ਦੀ ਚਿਮਨੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨ੍ਮੀ) (ਵਾਕਾਂਸ਼) |
| ਭੱਖ਼ਦਾ           | (ਨਾਂ ਪੁ)    | ਖਾਰ ਖੱਕ                    | ਰੋਜ਼ਨ ਗੁੜੀ                               |
| ਭਗ               | (ਨਾਂ ਇਲੰਡਿ) | ਫਰਜ                        | ਤੁਤ                                      |
| ਭੰਗ ਦਿਆ          | (ਨਾਂ ਇਲੰਡਿ) | ਜੁੰਗ - ਹਿੱਥਿਣ - ਬੰਗ        | ਬੰਡਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |
| ਭੰਗ ਜਾਂ ਚਗਸ ਪੀਣਾ | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭੰਗ ਜਾਂ ਚਗਸ ਪੀਣਾ           | ਬੰਡੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |
| ਫਰੂਜਦਿਨ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਫਰੂਜਦਿਨ                    | ਤੀਸ਼ਰ                                     |
| ਭੰਗ ਪੀਣੀ         | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭੰਗ ਕਿਦਿਨ                  | ਊਫ                                       |
| ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ   | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ             | ਤੁਕਸ਼                                    |
| ਕਨਾਸ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਕਨਾਸ - ਖਾਕ ਰੂਬ             | ਜਮਾਤ                                     |
| ਭਗੂੜਾ            | (ਵਿ)        | ਭਗੂੜਾ                      | ਜ਼ਥੀ                                     |
| ਫਰਾਰੀ            | (ਕਿ)        | ਫਰਾਰੀ - ਕਿ ਕਿ ਕਿ ਕਿ ਕਿ     | ਤੁਕਸ਼ - ਅਮਾਂ                             |
| ਭੱਜਾ/ਨਠਣਾ        | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭੱਜਾ/ਨਠਣਾ                  | ਬਾਫਰ                                     |
| ਰਮੀਦਨ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਰਮੀਦਨ - ਦੂਧਿਦਨ             | ਜਵੇਖ ਬਰਾਦਰ                               |
| ਭੱਜ-ਦੱੜ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭੱਜ-ਦੱੜ                    | ਭਰਜਾਈ                                    |
| ਦਵਾਦੂ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਦਵਾਦੂ - ਦੋਨਦੀਗੀ - ਟੱਕ ਵੱਡੂ | ਭਰਜਾਈ ਕਰਨੀ                               |
| ਭਜਾਉਣਾ           | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭਜਾਉਣਾ                     | ਸੁਬਾਝ ਗੁਪਤ                               |
| ਦਵਾਨਦਨ           | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਦਵਾਨਦਨ - ਦਵਾਨਿਦਨ - ਰਮਾਨਿਦਨ | ਭਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |
| ਭੱਜਿਆ            | (ਵਾਕਾਂਸ਼)   | ਭੱਜਿਆ ਭਾਂਡਾ                | ਮਮੂਕੁਦਨ - ਆਮੂਦਨ - ਆਨੰਦਨ - ਪ੍ਰਿੰਦਨ        |
| ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ        | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣਾ             | ਅਖੂਤ                                     |
| ਦਵਾਲ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਦਵਾਲ ਦਵਾਲ ਆਮਦਨ             | ਭਰਮ                                      |
| ਭਗਾਹਣਦਨ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭਗਾਹਣਦਨ                    | ਦਸੂਸੇ - ਤੱਲ - ਮਗਲਾਤੇ - ਵਾਹਮੇ             |
| ਭਗ ਖੁਦ ਰਾਗਮ ਕਰਦਨ | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭਗ ਖੁਦ ਰਾਗਮ ਕਰਦਨ           | ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      |
| ਭਟਕਾਉਣਾ          | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭਟਕਾਉਣਾ                    | ਸਿਆਹਤ ਕਰਨ                                |
| ਅਗਰਾਹ ਬੰਦਰ ਦਿਨ   | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਅਗਰਾਹ ਬੰਦਰ ਦਿਨ             | ਤੋਹਮ                                     |
| ਕਰਮੂਸ            | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਕਰਮੂਸ - ਕਰਮੂਸ              | ਅਓਹਮ - ਘੜਨੂੰ                             |
| ਭੱਠਾ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)   | ਭੱਠਾ                       | ਭਰਮਾਂ                                    |

|             |                                |                    |                                   |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| بھرمی       | (ہم) بھرمی                     | وہی                | بھر کاٹ کھنا (امیت کی)            |
| بھرہٹا      | (نہ) بھروٹا                    | ابڑا               | شعلہ زدن۔ شعلہ کشیدن۔ زبانہ زدن   |
| بھرہٹے      | (نہ) بھروٹے                    | ابڑا               | بھر کاٹ کھنا (امیت کی)            |
| بھر         | (نہ) بھر                       | برادر۔ اخ          | دامن زدن۔ آغا یادن۔ اسٹکن         |
| بھراں       | (نہ) بھراں                     | اخوان۔ برادران     | اشتعال انگیز (ہم) بھر کاٹ         |
| بھریਆ       | ہے                             | جزیلہ              | بھر کیلارنگ (ہاکان) بھر کیلارنگ   |
| بھریਆ۔ بھری | (ہم) بھریا جکھنا               | پر۔ مکلو۔ لبرین    | خور دیریز۔ خماط                   |
| بھریڈ       | (نہ) بھریڈ                     | زنبور              | بھرڈا (ہم) بھرڈا                  |
| بھریڈاں     | (نہ) بھریڈاں                   | ذباہ۔ در           | دیوٹ۔ بی غیرت۔ قرمساق۔ مردک       |
| بھریڈاں     | دا                             | بھریڈاں دامحمد     | کندو                              |
|             |                                | لانہ زنبور         | بھریڈاں (نہ) بھریڈاں              |
| بھریڈاں     | دا                             | بھریڈاں دی کھھر    | روشنی۔ نور۔ درخش۔ ارز۔ نرخ۔ سر    |
| غال         |                                |                    | اخوت                              |
| بھرے        | (نہ) بھرے                      | اعتبار۔ اعتماد     | بھائیچارا (نہ) بھائیچارا          |
| بھرے        | (نہ) بھرے                      | بھرے کرنا          | خمن رانی۔ تقریر                   |
|             |                                | تکمیلہ زدن۔ تعویل  | بھاشن کرنا (امیت کی)              |
| بھلائی      | کرنا                           | بھلائی کرنا        | خمن راند                          |
|             |                                |                    | خمن ران۔ مقرر                     |
| بھلا        |                                | افلاج۔ خوبی کردن   | بھاشن کار                         |
| قردون اوٹی  | (ہاکان) بھلاں                  | بھلاں              | بھاشن کار                         |
| بھلاماں     |                                |                    | تقاریر                            |
| بھلائیں     | (ہم) بھلائیں                   | بھلائیں            | بھاشن کار                         |
| بھلا        |                                |                    | لسان۔ زبان                        |
| پاراں       | (نہ) بھلائی جاں بیرائی دا بدلہ | بھاشا              | بھاشا (نہ) بھاشا                  |
| صالحان      | صالھین                         | صالھین             | السن                              |
| بھون        | (نہ) بھون                      |                    | بھسا۔ دھیگیاں                     |
|             |                                |                    | علم الالسن۔ لسانیات               |
| صرح         | بنای بلند۔ قصر۔ محل            | بھاگ               | بخت۔ نصیب۔ قسم۔ مقدر۔ تقدیر۔ طالع |
| بھواں       | نال سنبھل کرنا                 | بھاگ / بھنڈ        | بھاگ۔ بھرہ                        |
|             |                                |                    | کم بخت                            |
| ابرو کشیدن  |                                |                    | بھاگ ہین ہونا (امیت کی)           |
| بھیخ        | (نہ) بھیخ                      | مستقبل۔ آتی۔ آئیدہ | تاق بودن                          |

|                                      |                        |   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| طالع مند۔ نیک بخت                    | (ہ) بھاگ دان           | جستجو۔ تلاش                                       |
| بُرگاہان (نامِ ایسٹلین)              |                        | بُرگاہ کرنی (آمیڈ کی)                             |
| گریز۔ فرار۔ پشت دادگی۔ ہریت          |                        | جستجو کردن۔ جوئیدن۔ جمعن۔ تلاش کردن۔ خواستن       |
| بُرگاہ (نامِ ایسٹلین)                | فرار۔ گریز۔ ہریت       | جذبہ (پ) بھاو                                     |
| بُرڈا (پ) بھائیا                     | ظرف                    | جذبات (پ) بھاؤں                                   |
| بُرڈے (پ) بھائیا                     | جنان۔ ظروف             | بُرڈے (پ) بھاؤیں                                  |
| بُرڈے صانسی دے (ہاکاں)               | بھائیا کے چاندی درے دے | اگرچہ (پ) بھاڑا                                   |
| آلات نفرہ                            |                        | کرائے (پ) بھاڑا                                   |
| بُرڈیزادہ (پ) بھائیجا                |                        | بیویں لنا (آمیڈ کی)                               |
| بُرڈ سر (ہاکاں)                      | بُرڈ سر                | خیسانیدن۔ خیسیدن۔ ترکردن۔ نم کردن۔ حل کردن        |
| بُرڈا دا ووچنا (ہاکاں)               | ارقان السر             | بیانکر (ہ) بھینکر                                 |
| بُرڈا (نامِ ایسٹلین)                 | فراتہ                  | ہولناک۔ دہشت ناک۔ ہیبت ناک                        |
| بُرڈا نیسٹیٹ کرنا (آمیڈ کی)          |                        | بیانک (ہ) بھینک                                   |
| زخم۔ زخم میعنی کردن                  |                        | دہشت ناک۔ خوف ناک۔ سک ناک                         |
| بُرڈا بار۔ وزن                       | محمولات۔ بار۔ وزن      | بیخاری (پ) بھکھاری                                |
| بُرڈا تو لہنا (آمیڈ کی)              | تو زین                 | گدا۔ فقیر۔ کسی کے برای معیشت خوارازد گیراں کمک می |
| بُرڈا بھارکت (ہ)                     | سک دوش                 | خواہد   |
| بُرڈا لੱਦانا (آمیڈ کی)               |                        | بیخاری ہونا (آمیڈ کی)                             |
| بُرکردن۔ بار نہادن۔ درز یہ بار کشیدن |                        | گداشدن۔ بی نواشدن۔ بی معیشت شدن                   |
| بُردا۔ رزاست۔ گرانی (پ) بھارا پن     |                        | بیخاری ہونا (آمیڈ کی)                             |
| بُردا۔ سک گران (ہاکاں)               | بُردا پسچر             | گدا کردن۔ فقیر کردن                               |
| بُردا ہونا (آمیڈ کی)                 |                        | بیخیما۔ پاتر/دیگری نڑا                            |
| چربیدن۔ غالب شدن۔ استیلا             |                        | بھکھیا پاٹر/فقیری ٹھوٹھا (پ) بھکھیا پاٹر          |
| بُردا ہونا ک رو جتے تو               | ایک دو جتے             | نچکوں۔ بچکوں۔ سکھوں۔ کاسہ گدائی                   |
| (آمیڈ کی)                            | غالب                   | بیخیما میگانی (آمیڈ کی)                           |
| بُردا/بُرڈا (پ) بھالا/برچھا          | ستان۔ رج               | دانہ چیدن۔ گدائی نمودن۔ درخواست کردن              |
| بُردا۔ بُرڈا کرنی (آمیڈ کی)          |                        | بیڈڑی بھندڑی (نامِ ایسٹلین)                       |
| چوب بازیدن                           |                        | بیلہ بیلہ ہٹ بھنہاہٹ (نامِ ایسٹلین)               |

|   |  |
|---|--|
| دنده۔ طین   | بُلَلَانَ (آمیڈ کی)                                    |
| ڈیئرگی (ہی) بھیتیری اندر ونی  | فراموش شدن۔ ازیاد رفتہ۔ بہ فراموشی پیوشن               |
| ڈیئرگی کون (ہاکاں) زاویہ اندر ونی   | بھل دی کھا کرنی (آمیڈ) بھل دی کھا کرنی کیما کرنی دامود |
| ڈیڑھ بھیڑ (ن، ایلیں) انبوہ۔ جیعت۔ غول۔ گردہ۔ بھوم   | بُلَلَانَ دِلَانَ (آمیڈ کی) بھلار دیا دلنا             |
| ڈیڑھ گالی (ہاکاں) زاروب۔ سکھنای (ہاکاں) بھیڑی گلی   | بر طاق نیان نہادن۔ فراموش کردن۔ پس گوش                 |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھبھار رہم   | اختمدن۔ فراموشیدن۔ از خاطر محکردن                      |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) گر ٹنگی۔ اشتہا۔ جوع۔ روزہ داری   | خواہ پر در۔ عمنہ                                       |
| بُلَلَانَ (آمیڈ کی) بھکھ سنسی   | بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھوکھنڈ                           |
| گر ٹنگی کشیدن۔ تجھ گر ٹنگی کردن۔ رنج گر ٹنگی بردن   | بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھوگول شاستر                      |
| بُلَلَانَ (آمیڈ کی) بھکھ لگانی صرفت   | علم طبقات الارض  |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھکھا فاقہ کش۔ گرست۔ روزہ دار (ہی) بھکھا   | جغرافیہ (پ) (ن، ایلیں) بھوگول شاستری                   |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھکھی استری جولی   | جغرافیہ دان  |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھچاں زمین۔ ززلہ (پ) (ن، ایلیں) بھچاں زلزال  | بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھوگول وریا                       |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھجن چریدن   | علم جغرافیہ  |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھٹا نقل بیان  | خابط (پ) (ن، ایلیں) بھوت / پریت                        |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھٹا کردن۔ بر ٹنگنی سرخ کردن۔ بر ٹنگنی   | بُلَلَانَ (ہاکاں) بھوت کال                             |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھوبل خزیر۔ خل   | زمان ماضی۔ زمان گذشتہ۔ روزگار پیشین۔ گذشتہ۔            |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھل فراموشی۔ از یاد رفگی۔ نیان۔ سو   | گذشتہ  |
| بُلَلَانَ (ہی) بھکھر فراموش گار۔ مغلاط۔ ”کسی کہ فراموشی دنیان را شتہ باشد و بیشتر چیز ہارا از خاطر محکند“ | ملک  |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھل چک فو۔ فرو گذاشت   | دیباچہ۔ تمہید۔ مقدمہ (ن، ایلیں) بھومکا                 |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھل جان بارہ کار فرماداں   | تمہیدات (ن، ایلیں) بھومکاراں                           |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھیجا چھپی پر فرستادن۔ روانہ کردن۔ ارسال نمودن                                       | بے جلانا (ن، ایلیں) بھیجا                              |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھل چک ارسال   | (آمیڈ کی) بھیجا چھپی پر                                |
| بُلَلَانَ (ن، ایلیں) بھل جان  | بے جلانا (ن، ایلیں) بھیٹ                               |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| پیش کش۔ تخفہ۔ نذر۔ ارمغان                    | پیش کش (نام، ایڈیشن)       | ڈیٹ دلنا                                     |
| ڈیٹ دلنا (آمیڈ کی) بھیت دینا                 | ہمیرہ۔ ہمیرہ۔ خواہر۔ اخت   | ڈیٹ دلنا (آمیڈ کی) بھیت دینا                 |
| راز۔ سر۔ لب (نام، ایڈیشن)                    | اخوات                      | ڈیٹ دلنا (نام، ایڈیشن)                       |
| ڈیٹ بھل جانا (آمیڈ کی) بھیت کھل جانا         | ڈیٹ بھیت (ہمیں)            | ڈیٹ بھل جانا (آمیڈ کی) بھیت کھل جانا         |
| ٹشت کسی از بام افتاب                         | ہول زدہ۔ دہشت زدہ۔ ہر اسان | ڈیٹ بھل جانا (آمیڈ کی) بھیت کھل جانا         |
| ڈیٹ جاہر کر دلنا (آمیڈ کی) بھیت ظاہر کر دلنا | زشت                        | ڈیٹ جاہر کر دلنا (آمیڈ کی) بھیت ظاہر کر دلنا |
| پردہ دریدن کی                                | ڈیٹ مہمن                   | ڈیٹ مہمن (آمیڈ کی) بھیت اسکھنا               |
| ڈیٹ ڈھپائیں والہ (ہمیں) بھیت چھپائیں والہ    | پردہ پوش                   | ڈیٹ مہمن۔ بد پند اشنا                        |
| ڈیٹ کام کیا                                  | ڈیٹ کام (ہمیں)             | ڈیٹ شمار                                     |
| ڈیٹ پرگاتیں (آمیڈ کی) بھیت پر گذاونا         | ڈیٹ کام کیا رکھنا          | ڈیٹ بھیڑیاں رکھنا                            |
| راز کشادن                                    | (ہمیں)                     | ڈیٹ اطفار                                    |
| ڈیٹ لکھائیں (آمیڈ کی) بھیت لکھائیں           | ڈیٹ لکھائیں                | ڈیٹ بھیڑے سجاو والا آدمی                     |
| سرپوش روی کار نادان                          | ڈیٹ لکھائیں                | ڈیٹ دلاعس                                    |
| ڈیٹ اسرار (نام، پیش کش)                      | ڈیٹ اسرار                  | ڈیٹ طعام۔ غذا۔ خوارک                         |
| رازدار (ہمیں) وقار اور                       | ڈیٹ اسرار                  | ڈیٹ بھوجن                                    |
| ڈیٹ اسرار (نام، پیش کش)                      | ڈیٹ اسرار                  | ڈیٹ بھوجن کھان لئی کرہ                       |
| ڈیٹ بھل جانا (آمیڈ کی) بھیت کھل جانا         | ڈیٹ اسرار                  | ڈیٹ اطاق غذا خوری                            |
| ٹشت از بام افتاب                             | ڈیٹ اسرار                  | ڈیٹ خوارنیدن                                 |
| ڈیٹنا (آمیڈ کی) بھیڑ کر دلنا                 | ٹبیش                       | ڈیٹ زله                                      |
| خافت۔ خوف (نام، پیش کش)                      | ڈیٹنا                      | ڈیٹ سادہ لوح                                 |
| ڈیٹ بھل جانا (آمیڈ کی) بھیت کھل جانا         | ڈیٹنا                      | ڈیٹ عو عو کردن۔ سکانیدن۔ بناء                |
| جگر باختن۔ چتریدن                            | ڈیٹنا                      | ڈیٹ مادی                                     |
| احوال۔ دوین۔ لوچ (ہمیں) بھیگا                | ڈیٹنا                      | ڈیٹ مادیت                                    |
| احوال۔ دوینی (نام، پیش کش) بھینگا پن         | ڈیٹنا                      | ڈیٹ مادہ پرستی                               |
|  |                            | ڈیٹ آوارہ گرد۔ ہر زہ گرد                     |
|  |                            | ڈیٹ بھوندل ل                                 |
|  |                            | ڈیٹ بھورا سوسک                               |

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| ماسپرائیں                                  | (نام) مخرب پین       | کردن                                       |
| فسوس۔ خریہ۔ استزدرا لاغ                    |                      |  |
| مسٹ ہوئا                                   | (امیت کی) مست جوئا   | شور کردن۔ کنگاش نمودن۔ رای زدن۔ مشورت کردن |
| کلہ کی گرم بودن                            |                      |  |
| مسٹک ریکھا                                 | (نام) سٹک            | مسٹھرگا کرنا (امیت کی)                     |
| خطوط پیشانی                                |                      | مسٹھرگا لے لانا (امیت کی)                  |
| مسٹشک                                      | (نام) مستشک          | مسٹھن میں                                  |
| دماغ                                       |                      | مسٹھن (نام) میں                            |
| نشہ  |                      | مہرستیا کرنا (امیت کی)                     |
| مسٹوگی وال                                 | (ہاوا) مصنوعی وال    | حاصل ساختن                                 |
| موی عوضی۔ موی عملی                         |                      |  |
| مسر  | (نام) سر             | اہمیت                                      |
| دانچ۔ عدس                                  |                      | بی اہمیت۔ غیر اہم                          |
| مساہب                                      | (نام) مصاحب          | مہر دھریں                                  |
| حاشیہ نشین                                 |                      | مہر دھریں (ہم)                             |
| مسیت                                       | (نام) دیکھی          | مہر دھریں پورن                             |
| مسجد                                       |                      | مہر للا                                    |
| مسجد                                       | (نام) مسیع           | مہما                                       |
| مورم                                       |                      | مہما (نام) مہما                            |
| زبان زد                                    |                      | مہمان                                      |
| مشہور                                      | (ہم)                 | مہماں (نام) مہماں                          |
| مشہور ہوئا                                 | (امیت کی) مشہور ہوئا | مہماں                                      |
| علم شدن۔ ظاہر شدن۔ شرت داشتن۔ مثل بودن۔    |                      | مہمنت                                      |
| در زبان افاداں                             |                      | مہمنت پیدا کرنا                            |
| تشیر                                       | (امیت کی) مشہور کرنا | مہارت                                      |
| مشہور گی                                   | (نام) مشہوری         | پیلان۔ فیلان                               |
| شرت۔ شرہ                                   |                      | مہارڈ                                      |
| زق   |                      | مہماوت                                     |
| مشک  | (نام) مشک            | مہماں ادا کرنا                             |
| زم   |                      | (امیت کی) محسول ادا کرنا                   |
| محشری کرنی                                 | (امیت کی) محشری کرنی | گرک دادن                                   |
| فسوس کردن۔ خریہ نمودن۔ استزدرا کردن۔ ریشمک |                      | گرک  |
|  |                      | محیسٹل۔ چُنگی (ہاوا) محسول چُنگی           |
|  |                      | محیسٹل لاؤئنا (امیت کی) محسول لاؤئنا       |
|  |                      | گرک بعن                                    |

|              |                |                         |                     |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| ਮਹਿਕ         | (ن: ایلیٹ)     | بو                      | ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ (ਵਾਕਾਂ) |
| ਮਹਿਕਮਾ       | ਪੁਲਿਸ (ਵਾਕਾਂ)  | ਸਰ ਕਲਾਨਤ੍ਰੀ ਮੁਖਮੈਂਬੂਲੀਸ | ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਮਿਤ ਕਿ     |
| ਮਹਿੰਗਾ       | (ہ)            | ਮੁੜਾ (ਵ)                | ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਚਾਵ        |
| گਰਾਂ         | قیمت           | ਕਮਿਆਬ                   | ਮੁੜਾ (ਵ)            |
| ਮਹਿੰਗਾਈ      | غلا (ਵ)        | ਕਰਾਨੀ                   | ਕਰੇ                 |
| ਮਹਿੰਗਾ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਹੋਣਾ                    | ਤਰਾਂ                |
| ਗਰਾਂ ਸ਼ਦਨ     | ਗਰਾਂ ਕਮਿਆਬ ਸ਼ਦਨ | ਗਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ             | ਤਰ੍ਹਾਂ              |
| ਮਹਿੰਦੀ       | (ਵ)            | ਮੁੜਾ (ਵ)                | ਤਰ੍ਹਾਂ              |
| ਮਹਿੰਦੀ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | ਲਾਉਣੀ                   | ਤਰ੍ਹਾਂ              |
| ਹਾਸ਼ਮ        | ਨਕਾਰ ਭੁਨ       | ਅਨੱਧਾ                   | ਤਰ੍ਹਾਂ              |
| ਮਹਿਮਾ/ਵਡਿਆਈ  | (ਵ)            | ਸਮਾ/ਓਡੀ                 | ਤਰ੍ਹਾਂ              |
| ਸ਼ਾਨ         | شوکਤ           | عظਮਤ                    | ਤਰ੍ਹਾਂ              |
| ਮਹਿਮਾਨ       | ਘਰ             | ਹਾਸ਼ਮ                   | ਤਰ੍ਹਾਂ              |
| ਮਹੀਨਾ        | (ਵ)            | ਮਹੀਨੇ                   | ਮਾਹ                 |
| ਮਹੀਨੇ        | (ਵ)            | ਸੰਝੀ                    | ਸ਼ੁਦਾ               |
| ਮਕਰ          | (ਵ)            | ਮਕਰ                     | ਜਦੀ                 |
| ਮਕਰ/ਫਰੀਬ     | (ਵ)            | ਖੁਦਮੁਖੀ                 | ਖੁਦਮੁਖੀ             |
| ਮਕੜੀ         | (ਵ)            | ਦ੍ਰਿਪੜ                  | ਦ੍ਰਿਪੜ              |
| ਮਕੜੀਆਂ       | (ਵ)            | ਅਨਾਕ                    | ਅਨਾਕ                |
| ਮਕੜੀ ਦ ਜਾਲਾ  | (ਵ)            | ਦਾਮ                     | ਦਾਮ                 |
| ਮੱਕਾ         | ਸ਼ਰੀਫ ਰਿਹਾਤ    | ਮਕੜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ           | ਮਕੜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ       |
| (ਵ)          |                | (ਵ)                     |                     |
| ਮਕਾਨ         | (ਵ)            | امਨਨੀ                   | ਜ                   |
| ਮਕਾਨ/ਸਥਾਨ    | (ਵ)            |                         |                     |
|              |                |                         |                     |
| ਮਕਾਨ         | ਢੈਣਾ           | ਅਮਿਤ ਕਿ                 |                     |
| ਫਰੋਦਾਮਨ ਖਾਨੇ |                |                         |                     |
| ਮਕਾਨ ਦਾ ਛੱਜਾ | (ਵ)            |                         |                     |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| مگان (ن)                          | متغیر                                    | مجزد                                     | مجزد                                     |
| مگر مجھے (ن)                      | نمگ۔ شیر آبی                             | نمگ۔ شیر آبی                             | نمگ۔ شیر آبی                             |
| مگرور ہوئا (آمیڈ کی)              | خوت داشت                                 | خوت داشت                                 | خوت داشت                                 |
| مگالہار (ن)                       | سہ شنبہ                                  | سہ شنبہ                                  | سہ شنبہ                                  |
| مگھاں (ن)                         | مطالبات                                  | مطالبات                                  | مطالبات                                  |
| مگھیر (ن)                         | نامزد                                    | نامزد                                    | نامزد                                    |
| مچھل (ن)                          | دار پلپل۔ دار قفل                        | دار پلپل۔ دار قفل                        | دار پلپل۔ دار قفل                        |
| مچھان (ن)                         | چوب بندی                                 | چوب بندی                                 | چوب بندی                                 |
| مچھر (ن)                          | پشہ                                      | پشہ                                      | پشہ                                      |
| مڈھرداں (ن)                       | پشہ بند                                  | پشہ بند                                  | پشہ بند                                  |
| مڈھی (ن)                          | ہوت                                      | ہوت                                      | ہوت                                      |
| مڈھیاں (ن)                        | ماہی۔ سک۔ حوت                            | ماہی۔ سک۔ حوت                            | ماہی۔ سک۔ حوت                            |
| مڈھی دا سیدھا راہکار (ہاواں)      | صیدالسک                                  | صیدالسک                                  | صیدالسک                                  |
| مڈھر (ن)                          | ماہی گیر                                 | ماہی گیر                                 | ماہی گیر                                 |
| مجنون (ن)                         | سنون                                     | سنون                                     | سنون                                     |
| مجبور ہوئا (آمیڈ کی)              | ستوہ شدن۔ پرانداختن۔ فرد تی نمودن۔ تسلیم | ستوہ شدن۔ پرانداختن۔ فرد تی نمودن۔ تسلیم | ستوہ شدن۔ پرانداختن۔ فرد تی نمودن۔ تسلیم |
|                                   | شد                                       | شد                                       | شد                                       |
| مجبور کرنا (آمیڈ کی)              | وزیر                                     | وزیر                                     | وزیر                                     |
| وادار کردن۔ واداشن                | وزراء                                    | وزراء                                    | وزراء                                    |
| چار و ناقار۔ خواہی خواہی (کیا ہی) | وزارت                                    | وزارت                                    | وزارت                                    |
| مجبوراً (ہاواں)                   | مجبوراً                                  | مجبوراً                                  | مجبوراً                                  |
| مجبور لوک (ہاواں)                 | مجبور لوک                                | مجبور لوک                                | مجبور لوک                                |
| مجنہ (ن)                          | مجزہ                                     | مجزہ                                     | مجزہ                                     |
| مجنی (ن)                          | مجزہ                                     | مجزہ                                     | مجزہ                                     |
| مجنہ (ن)                          | فوج                                      | فوج                                      | فوج                                      |
| مجنہ (ن)                          | دوین                                     | دوین                                     | دوین                                     |
| مجنہ کش (ن)                       | محنت کش                                  | محنت کش                                  | محنت کش                                  |





|                    |                       |                                |           |                                |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| مُلْثُجی           | (ن: ایلین)            | سوس                            | ماں دی پی | خالہ قرنی (ن: ایلین)           |
| مُلَلَّا           | ما (آمیڈ کی)          | مالیدن                         | ماہر      | ماہرت داشن (آمیڈ کی) ماہر ہوئے |
| مُلَبَا            | طبع (ن: پی)           | کپس                            | ماہیو     | ماہیو ہوئے                     |
| مُلُوم-پَتَّی      | مُصْرِی (ن: ایلین)    | پانس مان                       | ماہیو     | ماہیو ہوئے                     |
| مُلَمَّل           | ململ (ن: ایلین)       | موصلینا                        | ماہیو     | ماہیو ہوئے                     |
| مُلَادَّی          | ملائی (ن: پی)         | قشوہ۔ سر شیر                   | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَاهَ            | ملح (ن: پی)           | کشتی بان                       | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّیَّاًمَیَّت   | لیامیٹ کرنا (آمیڈ کی) | قلع و قلع کردن۔ انداز          | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّیَّن          | (ن: پی)               | ناصف۔ مکدر۔ گندہ               | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّیَّنَّا       | (ن: ایلین)            | چرکناکی۔ نکدر                  | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّهِرِیَا       | پی (ن: پی)            | تے لرزہ                        | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّکَوَّلَرَتَّر | (ن: ایلین)            | بچم                            | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّک             | مُرُك دار تور         | مُرُك نال ترنا                 | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّک             | (آمیڈ کی)             | دامن کشنا رفتن۔ چمودن۔ چمانیدن | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّک             | (آمیڈ کی)             | خرا مانیدن                     | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّک             | (آمیڈ کی)             | چالیش                          | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّکِیَّلِی      | مُر کیلی چال          | خرام                           | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّا             | (ن: ایلین)            | ام۔ والدہ۔ مادر                | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّا             | (ن: ایلین)            | گوشت۔ لحم                      | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّاًسْتَر       | ما سر چالی            | کلید غلط                       | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّا             | (ن: ایلین)            | حال                            | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّا             | (ن: ایلین)            | ماہن                           | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّا             | مجلہ (ن: ایلین)       | رسالہ۔ مجلہ                    | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّا             | (ن: ایلین)            | راستار                         | ماگ       | ماگ                            |
| مُلَّا             | (ن: ایلین)            | خالہ۔ خواہ مادر                | ماگ       | ماگ                            |

ਮਾਨਵਤਾ (نਾਂ ਇੰਡੀ)

آدمیت-انسانیت-بشریت

ਮਾਨਿੰਦ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) مਾਨਿੰਦ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਮਾਪ (پ) (نਾਂ ਮਾਪ (پ) (نਾਂ ਮਾਪ (پ)

ਮਾਪਣਾ (ਪ) (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਪ੍ਰਿਯਦਾਨ

ਮਾਪ-ਦੰਡ (ਪ) (نਾਂ ਮਾਪ-ਦੰਡ (ਪ)

ਮਾਪ ਯੰਤਰ (ਪ) (نਾਂ ਮਾਪ ਯੰਤਰ (ਪ)

ਮਾਪ ਲੈਣਾ (ਪ) (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਮਾਪ ਲੈਣਾ (ਪ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ (ਵਾਕਾਂ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ (ਵਾਕਾਂ)

عوقت

ਮਾਪੇ (ਪ) (نਾਂ ਪ) (ਛਵਾ)

ਮਾਫ਼ੀ (ਨਾਂ ਇੰਡੀ) بੁਲ

ਨੁਮਿਦਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਨੁਮਿਦਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਨੁਮਿਦਕਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਨੁਮਿਦਕਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਮਾਰ-ਸੁੱਟਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਓਤਨਿਦਿਨ

ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ (ਨਾਂ ਇੰਡੀ) ਜੂਦ ਕੂਬ

ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕਲੱਕ

ਮਾਰ ਖਾਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਕਲੱਕ

ਮਾਰਗ (ਪ) (ਨਾਂ ਮਾਰਗ (ਪ)

ਗੜ੍ਹ-ਰਾਹ-ਗੜ੍ਹ-ਰਾਹ-جادੇ

ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਬਲਦੀ ਕਰਨ-ਰਾਹ ਬੰਨ੍ਹ ਨਮੂਦਨ

ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

سوق دار (پ) (نਾਂ سوق دار)

ਮਾਰ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਹਲਾਕ

ਮਾਰਨਾ (ਪ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)

خون رੱਗ੍ਹਨ-ਕਥਨ-ਕਥਾਰ ਕਰਨ-ਮੰਬਾਦ-ਗੜ੍ਹ

ਮਾਰ ਮੁਕਾਊਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

از بੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ-ਨਾਭੁਦ ਕਰਨ-ਹਲਾਕ ਕਰਨ

ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਕਥਨੇ ਕਰਨ-ਮਨੁਲ ਕਰਨ

ਰਿਕਟਾਨ (ਪ) (ਨਾਂ) ਮਾਰੂਖਲ

ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਦਰਦਰੀ ਕਰਨ-ਦਰਦਰੀ ਕਰਨ

ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਜਬਿਤ

ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਲਕ-ਮਾਲਿਨ

ਮਾਲਕੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਨਾਤਰ ਮਾਲੀ (ਪ) (ਨਾਂ) ਮਾਲ ਮਨਤਰੀ

ਮਾਲੀ (ਪ) (ਨਾਂ) ਮਾਲੀ

ਕੁ ਚੀਰ-ਬਾਗਬਾਨ-ਚੀਨ ਚੀਰ-ਖੁਲ ਬੰਨ

ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਦਰਿਆਤ ਕਰਨ

ਮਾਲਾ (ਪ) (ਨਾਂ ਇੰਡੀ)

ਸੁਖ ਗੁਦਾਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਮਾਵਾਂ (ਨਾਂ ਇੰਡੀ) ਮਾਵਾਂ

ਮਾੜਾ/ਭੇੜਾ (ਪ) (ਨਾਂ) ਮਾੜਾ/ਭੇੜਾ

ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਜਾਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)

ਮੁਖੀ ਕਰਨ

ਮਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦ

ਮਿਸਗੀ (ਨਾਂ ਇੰਡੀ)

ਮਿਸ਼ਨ (ਨਾਂ) ਮਿਸ਼ਨ

ਮਿਹਲਾ (ਪ) (ਨਾਂ) ਮਿਹਲਾ

ਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਆਜ

|  |   |
|--|---|
| فدا یا اطریبہ                                    | بخارک انداز                             |
| میرنڈ (نام: ایلین) مخت (نام: ایلین)              | میٹی چ میلا عیناً مٹی وچ ملائی کیا      |
| میرنڈا نا (نام: پل) مختانہ                       | بخارک نشاند                             |
| میرنڈی (ہی) مختی                                 | بخارک انہمن                             |
| میرنڈا جاہد۔ جفاکش                               | میٹی تے بیٹھنا مٹی تے بیٹھنا (آمیڈ کیا) |
| میرنڈا خاطر نواز                                 | خاکسترن شین شدن                         |
| میرنڈا میربان (ہی) میربان                        | میٹی دا ٹیل (ہاکانس)                    |
| میرنڈا شفقت کردن                                 | کاز۔ غاز۔ نفت چ راغ۔ نفت سفید           |
| میرنڈا/نرمی میربانی/نرمی (نام: ایلین)            | فاخورہ (ہاکانس) مٹی دے بھانڈے           |
| میرنڈا خاطر نوازی۔ نوازش                         | مینڈ (نام: ایلین) مخت                   |
| میرنڈا میربانیاں (نام: ایلین; بکھ) مر جم۔ عنایات | حلاوت۔ شیرینی۔ عذوبت                    |
| میرنڈا میربانی کرنی (آمیڈ کیا)                   | میڈ۔ بولڑا (ہاکانس)                     |
| میرنڈا خوشی نمودن۔ میربانی کردن۔ ملاطفت نمودن۔   | شیریں بخن۔ شیریں کلام۔ عذب الکلام       |
| میرنڈا مر جم کردن                                | عذب۔ شیرین (ہی) مٹا                     |
| میرنڈا بھانڈا (آمیڈ کیا) بھار بیونی              | میٹا مس                                 |
| میرنڈا طاق سعن                                   | حلاوت۔ عذوبت۔ شیرینی                    |
| میرنڈا شکاف                                      | رچال                                    |
| میرنڈا محشدن                                     | شگریزی                                  |
| میرنڈا حوکردن                                    | میڈل سکول                               |
| میرنڈا ازین بردن                                 | درسہ متوسط (پل) میڈل سکول               |
| میرنڈا خاکی                                      | میڈر متر (پل) متر                       |
| میرنڈا گل۔ خاک۔ تراب                             | محبت۔ دوست۔ یار۔ رفت۔ ہم دم             |
| میرنڈا خاک شدن (نام: ایلین) مٹی ہوٹ              | میڈر اے ہے ری (ہاکانس)                  |
| میرنڈا لی (نام: ایلین) مٹی گھٹے والا دن          | دوست و دشمن                             |
| میرنڈا یوم جولانی۔ روز گرد و غبار                | یارانہ۔ دوستی۔ یاری (نام: ایلین) متر ۳  |
| میرنڈا میرنڈا چ میل جاٹا (آمیڈ کیا)              | میرنڈا ختم کرنی (آمیڈ کیا)              |
| میرنڈا خاکسترن شدن                               | کاریکرو کردن۔ قطع دوستی نمودن           |
| میرنڈا میرنڈا چ میل لان (آمیڈ کیا)               | میڈر ان (نام: پل) متر ۴                 |
|  | احباب۔ دوستاں۔ یاراں                    |
|  | میڈلی (نام: ایلین) مٹکی                 |
|  | غیان                                    |

|                           |                 |                           |                    |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| ਮਿਥ ਲੈਣਾ                  | ਪੰਦਾਂਥਨ         | ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ              | ਅਬ ਬਾਰਾਨ           |
| ਮਿਥਨ ਮੱਚਨ                 | ਜੋਤਾ            | ਮੀਂਹ ਵਰੁਨਾ                | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਮਿਰਗ ਮੁੜ                  | ਉਲਾਤ-ਆਹੂ        |                           | ਬਾਰਿਦਨ-ਬਾਰਾਨ ਆਦਨ   |
| ਮਿਰਗੀ                     | ਚੁਰੁ            |                           | ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਭਿਜਣਾ     |
| ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗੀ             | ਮੁੜਦੇ           |                           | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਮਿਰਗੀ ਵਾਕਾਂ               | ਮੁੜਦੇ           |                           | ਖਿੱਚ ਸ਼ਦਨ           |
| ਮਿਰਤਕ                     | ਮਰਦਾ            | ਮੀਢੀ ਸੀਓ                  | ਚੀਫਰ               |
| ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਫੁਲ              | ਮਰਟਕ ਦੇ ਫੁਲ     | ਮੀਨ (ਨਾਂ: ਇਲਿੰਡਿ)         | ਹੁਤ                |
| ਮਿਰਤਕ                     | ਖਾਕ ਮਰਦਾ        | ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਮਾ               | ਕਥਾਦਨਾਮਾ           |
| ਮਿਰਤਕਾਂ                   | ਮਰਦਗਾਨ          | ਮੁਆਮਲਾ                    | ਮੁਆਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ   |
| ਮਿਰਤੂ                     | ਸਰਤੂ            | ਮੁਆਮਲਾ                    | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਮਰਗ-ਦਰਗਤ-ਮੁਤ-ਅਜਲ-ਤ੍ਰਹਤ-   |                 | ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ                 | ਹਾਬਪਾਕ ਸ਼ਦਨ         |
| ਮਮਤ                       |                 |                           | ਵੁਡ ਬੁਗਤਨ-ਤਾਂਗ ਆਦਨ |
| ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ           | ਮੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ | ਮੁਆਵਜ਼ਾ                   | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਦਸਤ ਬਦਸਤ ਦਾਵਨ             |                 | ਮੁਹਾਵੇਸ਼                  | ਉਪਦਾਰਨ             |
| ਮਿਲਣ-ਮਿਲਾਉਣਾ              |                 | ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ                 | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਦਰਾਮਨ-ਮਾਫ਼ ਨਮੂਦਨ          |                 | ਲੱਬ ਖੁਦਦਨ-ਲੱਬ ਸ੍ਰੀਵਿੰਦਰਦਨ | ਲੱਬ ਖੁਦਦਨ          |
| ਮਿਲਨਸਾਰ                   | ਮੁਨ ਸਾਰ         | ਮੁਸਕਰਾਹਟ                  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਮਿਲਨ ਵੇਲੇ                 | ਅਨੁਮਾਤ          |                           | ਲੱਬ ਖੁਨਦੇ-ਤੰਬ      |
| ਮਿਲਾਉਣਾ                   | ਮੁਲਾਉਣਾ         | ਮੁਸੀਬਤ/ਗਾਰੀਬੀ             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਅਮੀਰਦਿਨ-ਸੁਣ-ਅਸੁਣ-ਅਨੁਨ ਕਰਨ |                 | ਖਾਕ ਬਰ                    |                    |
| ਮਿਲਾਪ                     | ਅਖਲਾਤ           | ਜ਼ਿਸਮ                     | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਮਿਲਾਪਾ                    | ਅਮੀਰਨਾਕ         | ਮੁਸੀਬਤ ਸਹਿਣੀ              | ਦਵਾਹੀ              |
| ਮਿਲਾਵਟ                    | ਅਲੋਚਨ           | ਮੁਸੀਬਤਾਂ                  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ               | ਅਲੋਚਨ           | ਮੁਸਕਲ                     | ਉਤੀ                |
| ਸਾਹਿਬ                     | ਕਾਨੀ            | ਮੁਹਤਜ਼                    | ਮੁਤਤ               |
| ਮਿਲਾਵਟਾਂ                  |                 | ਮੁਸਲ                      | ਕਤ੍ਰੇ ਵੱਚੇ         |
| ਮਿਲੀ-ਭਗਤ                  | ਮੁਲੀ-ਬੁਗਤ       | ਮੁਹਮਲ                     | ਮੁਹਮਲ ਗੱਲਾਂ        |
| ਮੀਂਹ-ਬਾਰਥ                 |                 |                           | (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
|                           |                 |                           | ਖਾਤਮ               |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| مُھر ر ڈیکھنی (آمیڈ کی)           | مر توڑنی (آمیڈ کی)              |
| مر شکستن۔ مر برداشنا              | مر لاؤنی (آمیڈ کی)              |
| مُھر نادان (آمیڈ کی)              | مر لاؤنی (آمیڈ کی)              |
| مُھر لٹھ چاہوئی (آمیڈ کی)         | صلت چاہوئی (آمیڈ کی)            |
| صلت خواستن۔ وقت خواستن            | صلت دینی (آمیڈ کی)              |
| مُھر لٹھ دے لئی (آمیڈ کی)         | تمہیں۔ صلت دادن۔ زمان دادن      |
| مُھر لٹھ مੰگالی (آمیڈ کی)         | صلت مکنی (آمیڈ کی)              |
| صلت خواستن                        | صلت خواستن                      |
| مُھر لٹھ (پ) کٹ                   | تاج                             |
| مُھر لٹھ دے جوگ ہوئا (آمیڈ کی)    | مُھر لٹھ دے بیوگ ہوئا (آمیڈ کی) |
| سر بلکاہ ارزیدن                   | سر بلکاہ ارزیدن                 |
| تاجور۔ تاجدار (پ) (ن)             | تاجور۔ تاجدار (پ) (ن)           |
| ختم شدن۔ بہ پایاں رسیدن (آمیڈ کی) | مُھر لٹھا ریسیدن (آمیڈ کی)      |
| مُھر لٹھ                          | رسٹ گار                         |
| مُھر لٹھ (پ) کٹ است               | مُھر لٹھ (پ) کٹ است             |
| فراخ دست۔ سخن۔ فیاض               | فراخ دست۔ سخن۔ فیاض             |
| مُھر ڈی (ن) کٹی                   | مُھر ڈی (ن) کٹی                 |
| رسی۔ نجات۔ رسٹ گاری۔ رہائی        | آزاد کنندہ۔ رہائندہ             |
| مُھر ڈی اڈا (پ) کٹی               | مُھر ڈیما کرنا (آمیڈ کی)        |
| رافعہ کردن                        | مُھر ڈیما کرنا (آمیڈ کی)        |
| مُھر ڈیما چلا عینا (آمیڈ کی)      | محکمہ کردن                      |
| مُھر ڈی رکھنا (آمیڈ کی)           | گاشن                            |
| مُھر ڈی ما (پ)                    | باجہ                            |
| مُھر ڈیما (آمیڈ کی)               | ختم کردن۔ بہ پایاں رساندن       |

|   |   |
|---|---|
| مُھر ڈی (ن) مقابلہ                          | مُھر ڈی (ن) مقابلہ کرنا                     |
| مُھر ڈی (ن) مقابلہ کرنا (آمیڈ کی)           | چڑھنے۔ چڑھنے کرنا                           |
| مشت زدن                                     | مشت زدن                                     |
| منی   | مُھبھر (پ)                                  |
| مُھبھر ڈے                                   | مُھبھر ڈے                                   |
| حاشیہ رفتہ                                  | حاشیہ رفتہ (آمیڈ کی)                        |
| مُھبھر اسراز                                | مُھبھر اسراز (آمیڈ کی)                      |
| قدوہ۔ سر حلقة۔ سر خیل۔ سر دار۔ رئیس۔ پیشووا | قدوہ۔ سر حلقة۔ سر خیل۔ سر دار۔ رئیس۔ پیشووا |
| فریفہت۔ والہ                                | فریفہت۔ والہ (پ)                            |
| مُھر ڈی (پ) کمدھ                            | مُھر ڈی (پ) کمدھ                            |
| شیقہن                                       | شیقہن (آمیڈ کی)                             |
| مُھر ڈی (ن) کمدھتا                          | مُھر ڈی (ن) کمدھتا (پ)                      |
| مُھڈ  | مُھڈ (ن) (پ)                                |
| شاراب۔ سہلت                                 | شاراب۔ سہلت                                 |
| مُھڈاں                                      | مُھڈاں (ن) (پ)                              |
| خط پشت لب۔ اذتاب۔ سبال                      | خط پشت لب۔ اذتاب۔ سبال                      |
| مُھڈاں ہنے تا دینا                          | مُھڈاں ہنے تا دینا (آمیڈ کی)                |
| سہلت تافتہ                                  | سہلت تافتہ                                  |
| مُھڈاں ہنے ڈٹ دینا                          | مُھڈاں ہنے ڈٹ دینا (آمیڈ کی)                |
| بروت بر تافتہ                               | بروت بر تافتہ                               |
| مُھڈاں ہٹانیاں                              | مُھڈاں ہٹانیاں (آمیڈ کی)                    |
| خط دیدن                                     | خط دیدن                                     |
| مُھٹائی                                     | مُھٹائی (ن) (پ)                             |
| ستبری۔ ضخامت۔ ججم۔ فربی                     | ستبری۔ ضخامت۔ ججم۔ فربی                     |
| مُھٹا راں                                   | مُھٹا راں (ن) (پ)                           |
| مُھٹیاں                                     | مُھٹیاں (ن) (پ)                             |
| مُھٹیاں چاپی کرنی                           | مُھٹیاں چاپی کرنی (آمیڈ کی)                 |
| مشت مال کردن                                | مشت مال کردن                                |
| اساسی۔ بنیادی۔ لازمی                        | اساسی۔ بنیادی۔ لازمی (پ)                    |

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ | (ਨਾਂ) ਮੁੜ ਹੋਣਾ ਇਲਿੰਗ                   | ਤੀਂਤ ਵਾਰ ਵਾਸ਼                                   |
| ਬਵਾ              | ਡਰ ਵਰਾਨ - ਡਰ ਹਾਂ ਅਭਦਾਈ                 | ਮੁੜਵੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |
| ਮੁਖਾਜੀ           | ਫਲ - ਚੰਪਲੀ (ਨਾਂ) ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ             | ਮੁੜਵੀ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |
| ਮੁਨਕੀ            | ਫਲੀ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂ ਫਲੀ                      | ਮੁੜਵੀ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |
| ਮੁੰਲੁਣ           | ਡਬਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਨਾ                       | ਮੁੜਵੀ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |
| ਮੁਛਤ             | ਸੰਭਿਲ ਕਰਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |
| ਮੁਬਾਰਕ           | ਫਰਖਨਦੇ - ਮ੍ਯਾਨ - ਖੁਤੇ (ਵਿਡੀ) ਮਬਾਰਕ     | ਅਰਜਿਦਨ - ਕਦਰ ਨਾਨਤਨ - ਆਗਾਹ ਬਦਨ ਬ੍ਰਲਿਏਟ ਵੱਤਾ      |
| ਮੁਬਾਰਕ           | ਮਬਾਰਕ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | ਵਾਰੀ ਕੀ - ਅਰਜਿਥ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਰਾ ਸ਼ਾਖਣ               |
| ਮੁਬਾਰਕ           | ਮਬਾਰਕ ਬੁਦਨ                             | ਜ਼ਦੂਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                 |
| ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ        | ਮਬਾਰਕ ਬਾਵਨੀ ਦੇਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             | ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                             |
| ਮੁਬਾਰਕੀ          | ਤਹਿਤ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | ਮੁੱਲ ਵਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                              |
| ਮੁੜਾਉਣਾ          | ਤਹਿਤ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         | ਗੁਨ ਬਾ - ਮਿਥ ਬਾ - ਪ੍ਰਾਰਜਿਥ - ਅਰਜਿਥ ਮਨਦ - ਬਾਤਿ - |
| ਪੁੱਤ੍ਰ           | ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੇਣ - ਅਫਰਨ - ਮਨੁੰਗ ਕੀਤਾ         | ਵੀਤੀ ਵੀਤ - ਅਤੀਰਦੀਰ                              |
| ਅਫਰਦੀ            | ਅਫਰਦੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਦੀਦ - ਦੀਦਾਰ                                     |
| ਮੁੜਦਾ            | ਮੁੜਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                | ਮੁੱਲਾਕਾਤ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                              |
| ਗੁਣ ਦੇਣ          | ਗੁਣ ਦੇਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      | ਮੁੱਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |
| ਮੁੜਦਾਰ           | ਜਿਵੇ                                   | ਮੁੱਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ                          |
| ਮੁੜਦੇ            | ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਫਨ ਕਰਨਾ           | ਚਾਚਾਰ ਕਰਨ - ਵਾਖੂਰਦਨ - ਬ੍ਰਖੂਰਦਨ - ਵਾਦੀਦਨ - ਤਲਾਨੀ |
| ਮੁੜਦੇ            | ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਫਨ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਕੁਦੂਨ - ਤਲਾਨੀ ਕਰਨ                               |
| ਮੁੜਦੇ            | ਵਫਨ ਕਰਨ                                | ਮੁੱਲਾਕਾਤੀ ਕਾਰੜ (ਅਨੁਪ ਪ੍ਰਾਂ)                     |
| ਮੁੜਦੇ            | ਮੁੜਦੇ ਲਈ ਬਖ਼ਬੇਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਲੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਵਰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ                              |
| ਮੁੜੇਮਤ           | ਫਾਤੀ ਖਾਨਦਾਨ                            | ਮੁੜ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                              |
| ਮੁੜੇਮਤ           | ਮੁੜੇਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)               | ਬਾਝਾਦੀ - ਬਾਜ਼ਗੁੜਨ - ਸੂਡੀ ਕਰਨ                    |
| ਮੁੜੇਮਤ           | ਦਰਸਤ ਕਰਨ                               | ਖੋ - ਅਤੀ  |
| ਮੁੜੇ             | ਬਾ - ਕੀਤ - ਅਰਜਿਥ - ਥਨ (ਅਨੁਪ ਪ੍ਰਾਂ)     | ਮੁੜਕਾ   |
| ਮੁੜੇ             | ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ (ਵਾਕਾਵਾ)                | ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |
|                  |  | ਮੁੜਨ - ਬਾਜ਼ਗੁੜਦਾ                                |

|  |                   |
|--|-------------------|
| ਮੁਹ ਬੇਲਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       | ਸੋਖ ਕਹੁਣਾ (ਵਾਕਾਂ) |
| ਦਹਾਨ ਕਹੁਣ—ਦਹਾਨ ਬਾਕੀ ਦਿਨ                  | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਪੰਗਤ    |
| ਮੁਹ—ਜ਼ੋਰ (ਵਿ) ਸੋਖ ਜ਼ੋਰ                   | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ    |
| ਮੁਹ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜਾ (ਨਾ: ਪੁ) ਸੋਖ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ     | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨਾ               | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਅਬ ਬਰੁੱਖ ਜ਼ੇਵਾ                           | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਪੈਲਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਦੁਹੂ              | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਦਹਨ ਬੇ ਆਬ ਕਿਥਿਨ                          | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਪਰਨੇ ਸੌਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਪੰਨੇ         | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਦਰ ਖਾਬਿਦਾਨ                               | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ—ਛੱਟ (ਵਿ) ਸੋਖ ਪੱਥਰ                    | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਦਹਾਨ ਦਰਿਦਾ—ਫਿਲਿੰ ਲਿਸਾਨ—ਬਦਿਆਨ—ਬਦਦਾਨ—ਦਰਿਦਾ | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਦਹਨ—ਹਤਾਕ                                 | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਗਾਢ (ਵਾਕਾਂ) ਸੋਖ ਪੱਥਰ ਆਦਮੀ                | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਸਲੀਪ (ਵਾਕਾਂ) ਸੋਖ ਪੱਥਰ ਤੀਵੀ               | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਫੇਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਪੱਥਰ ਨਾ          | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਦਾਮਨ ਬਾਫ਼ਾਨਦਾਨ                           | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਫੇਰ ਲੈਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਪੱਥਰ ਲੈਣਾ     | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਰੋਗ ਦਾਨਦਾਨ—ਪਲੋਦਾਨ—ਪਿਸ ਖਮਗ ਫਤਨ—ਉਦਲ        | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ—ਬੋਲੀ (ਨਾ: ਇਲਿੱਕਿ) ਸੋਖ ਬੋਲੀ ਬੁਝਿਨ     | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਖਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ—ਖਾਹੀ ਗੀਰ                     | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਮਿਠਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਮੱਖਾਹੂਨ           | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਕਾਮ ਪੱਥਰ ਦਾਨਦਾਨ                          | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਮਿਠਾ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਮੱਖਾਕਰਨ      | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਸ਼ਿਰੀਨ ਕਰਨ ਦਾਨੀ ਕੀ                        | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਮੁਹ ਮੋੜਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਸੋਤਾ             | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |
| ਜ਼ਰੂਰ—ਰੋਗ ਦਾਨਦਾਨ                         | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| ਮੁਹਰਲੀ ਪੰਗਤ (ਵਾਕਾਂ)                                | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ                                    | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਹ ਵੱਟਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਵੱਟਣਾ                      | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਰੂਨਾਈ (ਨਾ: ਇਲਿੱਕਿ) ਸੋਖ ਰੂਨਾਈ                       | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਹ ਵਿਚ ਬੁਰਕੀ ਦੇਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖ ਵਿਚ ਬੁਰਕੀ         | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਤ੍ਰਕ ਦਾਨ ਜ਼ਬਾਨ                                     | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਸੋਖਾਂ ਨੱਕ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਦਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖਾਂ ਨੱਕ ਜਾਣਾ ਗੱਲ | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਾਵਦੀ ਦੀ ਰੂਨਾਈ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖਾਂ ਨੱਕ ਜਾਣਾ ਗੱਲ         | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਬਾਦਾਮ ਹੰਦੀ (ਨਾ: ਇਲਿੱਕਿ) ਸੋਗੁਕ ਚੱਗੀ                 | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਗਲੀ (ਨਾ: ਇਲਿੱਕਿ) ਸੋਨਕੀ                           | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੀਲ ਵੱਡਾ—ਕਲੁੱਖ ਕੂਹ                                 | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਗਲੀ ਫੇਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਨਕੀ ਫੇਰਨੀ                  | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੀਲ ਗੁਦਾਨੀ   | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਚੁਤੀਂ ਅਖੀ  | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਗਾ (ਨਾ: ਪੁ) ਸੋਖਾਂ                                | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਤ (ਨਾ: ਪੁ) ਸੋਖ                                   | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਕਾਰਦਾ—ਭੁਲ—ਪਿਥਾਬ—ਸਾਥੇ                               | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਤਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖਾਂ                              | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਚਾਮਿਦਾਨ—ਸਾਥਿਦਾਨ—ਬੁਲਕਦਾਨ—ਕਮੀਜ਼                      | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਅਨਾਖੀ  | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਸਰਨਗੂਨ   | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਣ (ਵਿ) ਸੋਖਾਂ                                     | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਣ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖਾਂ                           | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਸਰਨਗੂਨ ਦਨ  | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਣ ਮਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਸੋਖਾਂ                          | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਸਰਾਜਿਕ ਕਰਨ   | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਗ ਸੁਰਕਾ (ਵਿ) ਸੋਖ ਸੁਰਕਾ                           | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਨਾਵਾਨ—ਨਾਖੁਦ—ਬੇਵੋਫ—ਅਮਿਕ—ਅਲੰ                         | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਮੁਰਖਤਾ (ਨਾ: ਇਲਿੱਕਿ) ਸੋਰਕਤਾ                         | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |
| ਨਾਖੁਦੀ—ਹਾਫਤ—ਨਾਵਾਨੀ—ਬੇਵੋਫੀ—ਅਲੰ                      | ਚਫ ਜ਼ਲ੍ਹੇ ਰੂਨਾਈ |

|  |   |   |
|--|---|---|
| مُرکب تاریخی کرنی (آمیڈ کی)                      | مورکھتا کرنی (آمیڈ کی)                  | کلائیب۔ او تار (نام: ایلینڈ، بہل)         |
| خر خری کردن۔ کرہ ہارا و غن کردن                  |   | پٹک (نام: ایلینڈ، بہل) مینگنیاں           |
| مُرکب تاریخی کرنی کرنی (آمیڈ کی)                 | مورکھتا توں کمر لیڈی (نام: ایلینڈ، بہل) | کشو (ہاکانس) میز دی رہ جس                 |
| خل خلی کردن                                      |   | صاحب خانہ (نام: ایلینڈ، بہل) میزبان       |
| مُرکب تاریخی مورت (نام: ایلینڈ)                  | تصویر                                   | ماجی (ہی) مینہار مٹلنہار                  |
| مُرکب تاریخی مورتیاں (نام: ایلینڈ، بہل)          | تصادیر                                  | شمہیت۔ شمیلید (نام: ایلینڈ، بہل) میسی     |
| مُرکب تاریخی مورتیاں (نام: ایلینڈ، بہل)          |   | میڈھاوی (ہی) میڈھاوی                      |
|  | اصنام۔ بتاں۔ او تان                     | فرزانہ۔ عاقل۔ زیرک۔ دانش مند              |
| مُرکب تاریخی مورتیاں (نام: ایلینڈ)               | مجسم                                    | اخی (نام: ایلینڈ) میرا بھرا               |
| مُرکب تاریخی مول (نام: بہل)                      | اصل                                     | میل جاں جے لہ دیس دیل پے جا لی            |
| مُرکب تاریخی مول دشاواں (نام: ایلینڈ، بہل)       | جات اصلی                                | میل جاں جوں دچ ڈھل پے جانی (آمیڈ کی)      |
| مُرکب تاریخی مول پونجی پونجی (ہاکانس)            |   | پیوند سخن                                 |
|  | راس المال۔ زراصل                        | میل جوں (نام: ایلینڈ)                     |
| مُرکب تاریخی مولی (نام: ایلینڈ)                  | ترب                                     | راہ در بطر۔ راہ در رسم۔ ارتباط۔ در آئندگی |
| مُرکب تاریخی موڑھ (ہی)                           | احمق                                    | میل ندوں (نام: ایلینڈ) میل بندوں          |
| مُرکب تاریخی میہاں (نام: بہل)                    | طعنہ                                    | میل میل اپ رکھنا (آمیڈ کی)                |
| مُرکب تاریخی مخت کرنی (آمیڈ کی)                  |   | شیر و شکر بودن                            |
|  | ریاضت کشیدن                             | چیدن                                      |
| مُرکب تاریخی میہماں (نام: ایلینڈ)                | ضیافت                                   | میل میل (ہی) میں میں                      |
| مُرکب تاریخی میہر باں (نام: ایلینڈ)              | عاطف۔ میر بائی کنڈہ                     | میہر کلنا (آمیڈ کی)                       |
| مُرکب تاریخی میہر باں (نام: ایلینڈ)              |   | میگرین (نام: بہل)                         |
|  | عاطفت۔ عطوفت۔ شفقت۔ عنایت               | میہر کل کچھ (نام: بہل)                    |
| مُرکب تاریخی میہر باں کرنی (آمیڈ کی)             |   | مسابقات کردن (آمیڈ کی)                    |
|  | اشفاق                                   | میہر بھڈلنا (آمیڈ کی)                     |
| مُرکب تاریخی میکھ (نام: بہل)                     | حمل                                     | میہر کل کالج (نام: بہل)                   |
| مُرکب تاریخی میکھ ٹھکانی (آمیڈ کی)               |   | دانش کرہ پر شکنی                          |
| مُرکب تاریخی میکھ کوکنی (آمیڈ کی)                |   | از من (ہی)                                |
| مُرکب تاریخی فرد بردن تج۔ تج کوبیدن۔ چھیدن۔ تسری |   | دو پروینی (نام: بہل) میرا                 |
|  |   | میار دین (نام: بہل) میراں                 |

|   |                        |                                  |
|---|------------------------|----------------------------------|
| ਮੈਦਾਨ ਡਡ ਜਾਣ                              | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਕਤਫ۔ ਸ਼ਾਨ੍ਦ۔ ਦੋਸ਼                |
| ਖਿਤ ਸ਼ਦਨ                                   |                        | ਮੇਢਾ (ਨਾਂ ਪੁ)                    |
| ਮੈਨ (ਨਾਂ ਇਲਿੰਗ)                           | ਸਾਰਕ                   | ਮੇਡਾ ਦੇਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)               |
| ਮੈਨੂ (ਪੜ)                                 | ਮੈਨ                    | ਦੋਸ਼ ਦਾਵਨ - ਧਾਰੀ ਕਰਨ - ਮੁਦਕਰਨ    |
| ਮੈਬਰੀਸਿਪ                                  | ਅਥੂਡ                   | ਮੇਡਾ ਮਾਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)              |
| ਮੈਬਰ ਹੋਣ                                  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਦੋਸ਼ ਬੁਝਦਾਨ                      |
| ਮੈਬਰ ਹੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਮੈਬਰ ਹੋਣ               | ਅਕਨਾਫ                            |
| ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਨ                               | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਮੇਡੀ (ਨਾਂ ਪੁ)                    |
| ਮੁ ਮੁ ਜੁਨ                                 |                        | ਗੁਹਰ - ਗੁਹਰ - ਦਰ - ਲਲੋ - ਮੁਦਕਰਿਧ |
| ਮੈਲ/ਮਲੀਨ                                  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਮੇਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ (ਵਾਕਾਂ)          |
| ਰਿਮ - ਚੱਕ                                 | ਕਥਾਫਤ - ਨਿਹਾਸਤ - ਗੰਦਗੀ | ਖੁਲ ਆਖਾਰ                         |
| ਮੈਲਕੇਗ                                    | (ਵਿ)                   | ਗੁਹਰੁਫਨ                          |
| ਮੈਲਕ ਟਾਬ                                  |                        | ਮੋਤੀ ਪਰੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)              |
| ਮੈਲਾ                                      | (ਵਿ)                   | ਮੇਮਜਾਮਾ                          |
| ਚੱਕ ਨਾਕ - ਚੱਕੀਨ - ਕਥਿਫ - ਜੱਗ ਖੁਰਦੇ - ਗਲੀਤ |                        | ਫਨਾਲਿੰਘ                          |
| ਮੈਲਾ - ਕੁਚੈਲਾ                             | (ਵਿ)                   | ਮੋਮਚੀ                            |
| ਨਾਸਫ                                      |                        | ਸ਼ਹੂ                             |
| ਮੈਲਾ - ਕੁਚੈਲਾ                             | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਮੋਮਚੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ (ਵਾਕਾਂ)         |
| ਦੁਗ ਬੁਦਨ                                  |                        | ਸਰਾਹ - ਤਾਉਸ                      |
| ਮੈਕਲਾ                                     | (ਵਿ)                   | ਮੋਰਚਾ                            |
| ਫਰਾਖ - ਕਥਾਦੇ                              |                        | ਸ਼ੁਗਰ                            |
| ਮੇਚਨਾਂ - ਖਾਰ ਚਿੰਨੇ                        | (ਨਾਂ ਪੁ)               | ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਏਕਾਫ - ਕਥਿਫ - ਦੁਜ - ਖਾਰ                   | (ਨਾਂ ਪੁ)               | ਸ਼ੁਗਰ ਮੁਟਨ                       |
| ਮਾਥਿਨ ਦੁਵੀ                                | (ਨਾਂ ਪੁ)               | ਅਬ ਰਾਹ                           |
| ਮੇਟਰ-ਇਜਨ                                  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਮੋਲ - ਤੋਲ ਕਰਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਮੇਟਾ                                      | (ਵਿ)                   | ਦਕਾਨ ਦਾਰੀ ਕਰਨ                    |
| ਝੁੰਮ - ਫਰਬ - ਤੁਮਨਦ - ਥਿੰਮ - ਬੁਰਗ ਜਥ       |                        | ਮੇੜ ਦੇਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |
| ਮੇਟਾ / ਗਾੜਾ                               | (ਵਿ)                   | ਗੁਦਾਨਿੰਦ - ਵਾਪਿਦਾਵਨ              |
| ਸਟੈਬਰ                                     |                        | ਮੇੜਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  |
| ਮੇਟਾ ਹੋਣ                                  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਬਰਤਾਫਨ - ਉਤੇ ਕਰਨ                 |
| ਮੇਟਾ - ਤਾਜ਼ਾ                              | (ਵਿ)                   | ਮੌਕੂਫੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 |
| ਮੇਟਾ ਮੱਛਰ                                 | (ਨਾਂ ਪੁ)               | ਅਤੇ                              |
| ਮੇਟੀ ਲਾਠੀ                                 | (ਅਮਿਤ ਕਿ)              | ਮੌਕੂਫੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ (ਵਾਕਾਂ)         |
| ਮੇਟੇ ਬੁਲ੍ਹ                                | (ਵਾਕਾਂ)                | ਅਤੇ ਨੱਚ                          |
| ਖੁਪਥੇ                                     |                        |                                  |
| ਚੁਕਾਚ                                     |                        |                                  |
| ਲੱਕਫਟ                                     |                        |                                  |

|     |                           |                                       |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|
| ਮੌਤ | ਮੌਤ-ਮੁੱਗ-ਅੜਾਫ (ਨਾਂ ਇੰਡੀ)  | ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ          |
| ਮੌਤ | ਸਾਹੁਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | ਮੁੱਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਧੀਂਚਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) |
| ਮੌਤ | ਗੁਟ ਗੁਣ-ਮੁੱਗ-ਅੜਾਫ (ਵਾਕਾਂ) | ਕਾਰਬਜਾਲ ਰਿਸਦਨ                         |
| ਮੌਤ | ਦਾ ਵਾਰੰਟ (ਵਾਕਾਂ)          | ਮੌਤ (ਨਾਂ ਇੰਡੀ)                        |
| ਮੌਤ | ਦਮ ਤਲੀਮ (ਵਾਕਾਂ)           | ਮੌਨ ਰਹਾਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    |
|     |                           | ਜਾਨ ਦਰਕਿਸ਼ਦਨ                          |

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| جے | جسا تری ہوئی ستمارپی (ہوا مس)   | حسب منشی  |
| جے | جے) تھوڑتے ہوئے                 | متناسب  |
| جے | جے) بیسے ڈنے                    | ٹنگی۔ سختی۔ دشواری۔ اٹکال۔ کاردشوار                         |
| جے | جے) یہ حصل / یہ ہو جائے         | احمق۔ جاہل۔ جاہلانہ۔ احمقانہ۔ کودن۔ خرف۔                    |
| جے | جے) آمیڈ کی                     | ناچار۔ خام دست  |
| جے | جے) آمیڈ کی مارنی یہ حصلی مارنی | احمقانہ حرف زدن۔ جاہلانہ سخن گھن                            |
| جے | جے) کیم                         | کف نفس۔ مک نفس۔ اختیارداری کردن بر امیال و خواہش ہای نفسانی |
| جے | جے) سیر راج رج رج               | ملک الموت   |
| جے | جے) ریکنا آمیڈ کی               | رج رکنا   |
| جے | جے) تسلیم                       | بیم داشتن۔ از جیزی ترسیدن۔ دست پاچہ شدن۔ شدن۔ تن در دادن    |
| جے | جے) ریکاؤں آمیڈ کی              | چشم ترسیدہ کردن۔ ترساندن۔ تمدید کردن                        |
| جے | جے) ریکو بزدل آمیڈ کی           | ترسو۔ کرو۔ شخص جبان۔ بزدل                                   |
| جے | جے) یا چنکرنی آمیڈ کی           | جادنا کرنی  |
| جے | جے) اصرار نمودن                 | طلب کردن۔ استدعا کردن۔ وام خواہی کردن۔ اصرار نمودن          |
| جے | جے) میترا / ملاقات              | جادرا / ملاقات  |
| جے | جے) یا ترا کرنی آمیڈ کی         | زیارت   |
| جے | جے) یا ترا کرنی آمیڈ کی         | جادرا کرنی  |



|               |           |               |                  |               |                  |                |                                       |
|---------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| بُنپہیتدا     | (ن) ایسٹن | بُنگ جوئی     | (ن) بُنھوریتا    | بُنگ جوئی     | (ن) بُنگ کرنی    | بُنگ پرپڑ کرنی | (امیٹ) بُنگ کرنے پر اپت کرنی          |
| بُوندک        | (ع)       | بُوندک        | (ع)              | بُوندک        | (ع)              | بُوندک         | لیاقت پیدا کردن                       |
| بُونیہنگیستی  | (ن) ایسٹن | بُونیہنگیستی  | (ن) بُونیہنگیستی | بُونیہنگیستی  | (ن) بُونیہنگیستی | بُونیہنگیستی   | بُونیہنگیستی                          |
| بُونگ         | (ع)       | بُونگ         | (ع)              | بُونگ         | (ع)              | بُونگ          | بُونگ ران                             |
| قابل          | -         | قابل          | -                | قابل          | -                | قابل           | سمم۔ اعانت۔ شرکت                      |
| بُز اوار      | -         | بُز اوار      | -                | بُز اوار      | -                | بُز اوار       | بُز اوار                              |
| بُونا         | ہلن       | بُونا         | ہلن              | بُونا         | ہلن              | بُونا          | بُونا                                 |
| بُونگ         | ہلن       | بُونگ         | ہلن              | بُونگ         | ہلن              | بُونگ          | افروندنی۔ افزاییدہ۔ جمعی۔ مک کندہ     |
| قابل شدن      | -         | قابل شدن      | -                | قابل شدن      | -                | قابل شدن       | بُونگ                                 |
| بُز اوار گشتن | -         | بُز اوار گشتن | -                | بُز اوار گشتن | -                | بُز اوار گشتن  | بُونگ                                 |
| ماہر گشتن     | -         | ماہر گشتن     | -                | ماہر گشتن     | -                | ماہر گشتن      | بُونگ                                 |
| سر زیدن       | -         | سر زیدن       | -                | سر زیدن       | -                | سر زیدن        | عطف۔ حرف ربط۔ حرف عظمت۔ ربط دہنده در  |
| بُونگ کب      | -         | بُونگ کب      | -                | بُونگ کب      | -                | بُونگ کب       | صورت و معنی                           |
| بُونگ         | ہلن       | بُونگ         | ہلن              | بُونگ         | ہلن              | بُونگ          | بُونگ                                 |
| قابلیت        | -         | قابلیت        | -                | قابلیت        | -                | قابلیت         | منصوبہ۔ نقشہ۔ طرح۔ زمینہ۔ تدبیر۔ روشن |
| شائستگی       | -         | شائستگی       | -                | شائستگی       | -                | شائستگی        | بُونگ                                 |
| استعداد       | -         | استعداد       | -                | استعداد       | -                | استعداد        | بُونگ                                 |
| بُونگ تا خن   | (ع)       | بُونگ تا خن   | (ع)              | بُونگ تا خن   | (ع)              | بُونگ تا خن    | کس۔ فرج۔ زہدان۔ عضو مخصوص زن          |
| لیاقت راشن    | (کی)      | لیاقت راشن    | (کی)             | لیاقت راشن    | (کی)             | لیاقت راشن     | لیاقت راشن                            |

|   |              |               |               |                                 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| رس  | (نام: پ)     | رسونت         | (نام: ایٹلی)  | فلیل زہرہ                       |
| جوہر۔ زبدہ۔ شیرہ باتی۔ شیرہ نیشکر۔ مزہ        |              | رمائی         | (نام: ایٹلی)  | برآمدگی۔ آماں                   |
| رمزا  | (نام: پ)     | رمبا کرنا     | (امیٹ کی)     | غبطہ بردن                       |
| رمزا رے کلنا                                  | (امیٹ کی)    | رمبا کھاؤنا   | (امیٹ کی)     | رمبا کھاننا                     |
| سر را گرفتن                                   |              |               |               | غبطہ خوردن                      |
| رمائے۔ منافذ۔ طرق                             | (نام: پ)     | رہنم          | (نام: پ)      | راز۔ سر۔ رمز                    |
| رمانا   | (نام: ایٹلی) | رہنمایش       | (نام: رہنمیش) | بودو باش                        |
| زبان۔ قوہ زا لقہ۔ استعداد چشم                 |              | رہنم جوگ تھان | (نام: پ)      | جای باش                         |
| رمائی   | (نام: ایٹلی) | رہنم          | (نام: ایٹلی)  | ماندن                           |
| آکوچ بزر                                      |              | رہنمہ         | (نام: ایٹلی)  | تہ پیالہ                        |
| رمائیم۔ رسومات                                | (نام: ایٹلی) | رہنمہ کھوہند  | (نام: ایٹلی)  | رہنمہ کھوہند                    |
| رم ماننا۔ لئنا                                | (نام: ایٹلی) | رکھنا         | (نام: ایٹلی)  | داشنا۔ نہار                     |
| لذت بردن از۔ برخور دار شدن از۔ برهہ بردن از۔  |              | رکھنا         | (نام: پ)      | حراس                            |
| برہہ مند شدن از۔ مزہ آوردن۔                   |              | رکھنا         | (نام: ایٹلی)  | رکھنا                           |
| رس رساو/رس رساکی                              | (نام: پ)     | رکھنا         | (نام: ایٹلی)  | نگہ داری۔ مواطبت۔ مراقبت۔ حافظت |
| آشی۔ سازگاری۔ توافق۔ دوبارہ برقرار شدن روایات |              | رکھنے         | (نام: پ)      | حراس                            |
| اسیر  | (نام: ایٹلی) | رکھنے کے      | (نام: پ)      | سگ پاسان                        |
| رمائیں۔ دیگران                                | (نام: پ)     | رکھنے کے      | (نام: پ)      | حافظ                            |
| اسیر گر                                       | (نام: پ)     | رکھنے کے      | (نام: ایٹلی)  | داشتہ                           |
| رمائیں۔ رسیں۔ جبل                             | (نام: ایٹلی) | رکھنے کے      | (نام: پ)      | چردہ۔ فام                       |
| رمائیں۔ رسیں                                  | (نام: ایٹلی) | رکھنے کے      | (نام: ایٹلی)  | رنگ پریدن                       |
| رمائیں۔ رسیں                                  | (نام: ایٹلی) | رکھنے کے      | (نام: ایٹلی)  | رنگ عین                         |
| رمائیں۔ رسیں                                  | (نام: ایٹلی) | رکھنے کے      | (نام: ایٹلی)  | رنگ گردانیدن۔ تریدن             |
| رمائیں۔ رسیں                                  | (نام: ایٹلی) | رکھنے کے      | (نام: پ)      | خوبی                            |

رہگانا (آمیڈ کی)

صخ-رُنگ کردن-رزیدن

رگدا (آمیڈ کی) رُنگ دا پھر کتا

رُنگ جنیدن

رُنگ کرفتن (آمیڈ کی) رُنگ بد لانا

رگڑ (آمیڈ کی)

ماش-مشت دمال-اصطکاک-خراش-ساییدگی-  
کو فلکی

رگڑنا (آمیڈ کی)

مايدن-اصطکاک پیدا کردن-خراسیدن-تراسیدن-

سفت ماش دادن-ساییدن-ازیت کردن-زیان

رساندن-کاستن زدودن-فسودن

رگڑواں (آمیڈ کی)

فرسانیدن-فسودن کنانیدن

رگڑا (آمیڈ کی)

ضرر-زیان-ازیت-خسارہ-درد-رنجوری

رُنگین (آمیڈ کی)

رُنگنا (آمیڈ کی)

رُنگڑا (آمیڈ کی)

رُنگ-پری (آمیڈ کی)

کشیدگی-آردگی (آمیڈ کی)

رج کے کھاں (آمیڈ کی)

بغدا ساختن-بغدا کردن

رج کے گلاں کرناں (آمیڈ کی)

(آمیڈ کی)

کھلان (آمیڈ کی)

رجا (آمیڈ کی)

کارپر زحمت-جالگنی

رُنٹا کرنا (آمیڈ کی)

بے میلانہ کار کردن-جان کندن

مرد زن مردہ-بیوہ مرد (آمیڈ کی)

روپکی-فاحشہ-تجہہ (آمیڈ کی)

بیوگان-ایائی (آمیڈ کی)

رُنڈی باز (آمیڈ کی)

زانی-فاجر-فاسق-شوت پرست-شوتوی

دل کاری (آمیڈ کی)

بیوگی (آمیڈ کی)

رُنڈے پا (آمیڈ کی)

رُنڈے اور (آمیڈ کی)

حرب گاہ-جنگاہ-رمزم گاہ-میدان جنگ

رُنڈے بُوئی (آمیڈ کی)

آورد گاہ-میدان جنگ-رمزم گاہ

رم-رم سرا-شہستان (آمیڈ کی)

رُنڈے رت (آمیڈ کی)

مستغرق-مشغول-اشغال شدہ-دست بکار

خون (آمیڈ کی)

رُنڈے رت (آمیڈ کی)

سنگ گراں بہا-گوہر (آمیڈ کی)

جوہر (آمیڈ کی)

رُنڈے رت کر (آمیڈ کی)

بحر-دریائی محیط-اقیانوس-دایرۃ المعادف

رُنڈے پیلان (آمیڈ کی)

خون آشام-وحشی-حیوان صفت-شم کار-بی رحم

ظالم-خت دل

رُنڈلا (آمیڈ کی)

قلم زدن-حذف کردن-ملحق کردن-الفا کردن

باطل کردن

رُنڈلا/نکارنا (آمیڈ کی)

|  |   |
|--|---|
| دفع کردن۔ منع کردن۔ رد کردن۔ زائل کردن۔        | خواہش الٰی                                |
| استکاف در زیدان                                | ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ (ਪ੍ਰਿਯਾ) ਰਿਹਾਣਾ                 |
| رنڈیدن (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               | ਗਮਜ਼ ਦੀ ਗਲੋ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ) ਰਸਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ     |
| ਰਦਵਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                              | ਕਨਾਈ ਜਦਨ                                  |
| حذف ਕਨਾਇਦਨ۔ ਬਾਤਾਂ ਕਨਾਇਦਨ۔ مੁਖੀ ਕਨਾਇਦਨ۔ ਆਗਾ     | ਗੁਣ۔ ਨਫੂਦ ਕਰਦਨ۔ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕਰਦਨ۔ ਮੁਖ ਸ਼ਡਨ ਦਰ۔  |
| کਨਾਇਦਨ   | ਮਨੁਕ ਪ੍ਰਤਿ ਵਾਲਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਮਨੁਕ ਪ੍ਰਤਿ ਵਾਲਾ |
| ਕੰਦਾ (ਪ੍ਰਿਯਾ) ਰਨਾ                              | ਗਮਣੀ (ਪ੍ਰਿਯਾ) ਰਸਾਂ                        |
| ਕੰਦਾ ਕਾਂਘ (ਵਾਕਾਂ)                              | ਖੁਸ਼ ਆਇਦ۔ ਫਰ੍ਹ ਬੁਖ਼ਸ਼۔ ਦਲ ਕਥਾ۔ ਦਲ ਫਰੀਬ    |
| ਕੱਦੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            | ਦਲ ਫਰੀਬ                                   |
| ਕੱਦੀ ਚੀਜ਼ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                        | ਅਵਾਰਾ                                     |
| ਕੰਧ ਰੱਧ (ਪ੍ਰਿਯਾ) ਰਨਾ                           | ਸਰਗੁਰਾਨ۔ ਸਰਗੁਰਾਨ                          |
| سرਲੂਲ۔ ਸੂਰਾਖ۔ ਗੁਦਾਲ۔ ਰੋਜਨੇ۔ ਖ਼ਕਾਫ              | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਕੱਢੜ (ਪ੍ਰਿਯਾ) ਰੱਧ                              | ਗੁਦਾਲ                                     |
| نزاع۔ سੀਜ਼ਾਰ۔ ਮਾਰਲੇ۔ ਕਾਨੂੰਨੀ۔ ਮੁਕਾਬਲਾ          | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਦਿਵਾਰ  | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਰਫੁ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                             | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਰੱਬ ਸਬੰਧੀ (ਕਿਵਿ)                               | ਗੁਦਾਲ                                     |
| بقدرت خدا۔ از مشیت الٰی۔ من جانب اللہ۔ اتفاقاً | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ                         | ਗੁਦਾਲ                                     |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                      | ਗੁਦਾਲ                                     |
| زبان بر دیوار مالیدਨ                           | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਖੁਫ ਦਾ ਡਰ (ਪ੍ਰਿਯਾ) ਰੱਬ                         | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਗੁਖ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਫਸਮ بالہ کرਦਨ۔ بخدا سੋਨਗੜ੍ਹ ਖੁਰਦਨ              | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਖੁਦਾਰਾ (ਕਿਵਿ)                                  | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਖੁਦਾਨ ਨਾ ਕਰੇ (ਕਿਵਿ)                            | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਖਾਧਾ-ਰਖਾ (ਵਾਕਾਂ)                               | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਮਦਾਪਕ ਕਨ                                       | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਰੁਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                             | ਗੁਦਾਲ                                     |
| ਰੁਬੀ (ਨਾਂ, ਇਲਿੱਕਿ)                             | ਗੁਦਾਲ                                     |

|                       |                             |                     |                                     |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| گارڈی دا پھاڑ بھاندھا | (امیت) رائی دا پھاڑ بھاندھا | رخی                 | اوراں                               |
| جہب راقبہ کردن        | کاہ را کوہ کردن             | رخی                 | حفیظ- حادی- دید بان- پاسبان- نگہبان |
| گاٹھنگری گیت          | (ہاکاں) راشنگری گیت         | رخی                 | غفارہ- نگہبان- حفاظت                |
| سر دلی                | (ہاکاں) راشنگری گیت         | برج                 | رخی                                 |
| لماں                  | (ہاکاں) راشنگری گیت         | بروج                | رخی کرنی (امیت کی)                  |
| راہیں آں              | (ہاکاں) راشنگری گیت         | بروج                | فرو داشن- نگاہ داشن- محافظت کردن    |
| راہیں چکر             | (ہاکاں) راشنگری گیت         | منطقہ البروج        | غنا- رامش                           |
| راہ                   | (ہاکاں) راشنگری گیت         | جادہ                | راگ                                 |
| راہ دی�ا عینا         | (امیت کی)                   | ہدی                 | راگ سننا                            |
| راہ دے لنا            | (امیت کی)                   | کوچہ دادن           | ساع                                 |
| راہ نہما کی کرنی      | (امیت کی)                   | ہدایت کردن          | رخ دخاند                            |
| راہ پئنا              | (امیت کی)                   | براه افتادن         | راج سکھاں تے بیٹھا                  |
| راہ بُل جانا          | (امیت کی)                   | از راه افتادن       | بلوس کردن                           |
| راہ بُل جانا          | (امیت کی)                   | اضلاں               | گنج سلطانی                          |
| راہ میل جانا          | (امیت کی)                   | کوچہ یافت           | راج خان                             |
| راہ رکنا              | (امیت کی)                   | راہ گرفتن           | راج کر                              |
| راہ رکنا              | (امیت کی)                   | راہ رہنداں          | راج کرانتی                          |
| راہ وحی کنڈے بیٹھنے   | (امیت کی)                   | راہ وحی ملاقات کرنی | انقلاب حکومت                        |
| راہ در                | (امیت کی)                   | دوچار کردن          | خاصہ باغ                            |
| راہ ملکات کرنی        | (امیت کی)                   | راہی                | شاہزادہ                             |
| راہ پھر کردن          | (امیت کی)                   | مسافر- داف          | شاہدخت                              |
| راہ پھر کردن          | (امیت کی)                   | سر برہ کردن         | طراح                                |
| راہ پئنا              | (امیت کی)                   | راہے پھر کردن       | طراتی                               |
| راہے جانا             | (امیت کی)                   | راہوں کرائے جانا    | راج نیک                             |
| راہے کو رہے جانا      | (امیت کی)                   | گراہ شدنا           | راج نیک اوستھا                      |
| گراہ شدنا             | مخفف شدن                    | آخراف ورزیدن        | او ضارع سیاسی                       |
|                       |                             | رخ پال              | راج نیک                             |
|                       |                             | صوبہ دار            | (ہاکاں) راج نیک جگڑے                |
|                       |                             |                     | تاز گات سیاسی                       |

|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| رجھ ڈن                              | (نہ: پ) راج بھون                             | رجھ کرنی (امیت کی)                            |
| قرص۔ کوشک پادشاہی۔ ایوان شاہی       | قرص۔ کوشک پادشاہی۔ ایوان شاہی                | محاضدت کردن                                   |
| رجھ مھل                             | ایوان  | حکم ششم (ہ)                                   |
| رجھ مانھ                            | باقلا  | قابل  |
| رجھ مارگ                            | شاهراہ                                       | گیرخ  |
| رجھ۔ بھوٹ                           | افر۔ تاج                                     | ریست  |
| رجھ۔ بھوپ                           | شاه خرو                                      | ریاست   |
| رجھ۔ رازدار                         | ولجہ   | ریاست   |
| رجھی ہوئا                           | راضی ہوئا                                    | رضیت  |
| در ساختن۔ موافق نمودن۔ خشنود گھنٹن۔ | دادن   | خالی شدن۔ تمی شدن                             |
| رجھی کرنا                           | رجھا کردن                                    | دب۔ خرس                                       |
| راجت                                | لیل۔ شب                                      | خرس مادہ                                      |
| راجت آتے دن                         | (ہا کاں) رات آتے دن                          | ریش ایلان                                     |
| راجت دنمار۔ شب دروز                 | لیل دنمار۔ شب دروز                           | خوش نود کردن۔ راضی کردن۔ مشوف کردن۔           |
| راجت دا جاں                         | مجلہ شب نیشن                                 | مغتوں ساختن۔ فریفہ کردن                       |
| راجت دا دے لایا                     | شان گاہ۔ ہنگام شب                            | کرچک  |
| راجت۔ دن                            | شب و روز۔ شبانہ روز                          | غارم۔ وام دار۔ قرض دار۔ وائی                  |
| راجت۔ دارہ                          | جیرہ۔ ختل                                    | رینی  |
| راجتگری پاٹھ شالہ                   | (نہ: پ) راتب                                 | ریٹومی  |
| آموزش گاہ شبانہ                     | آموزش گاہ شبانہ                              | ریپورٹ پیس کرنی                               |
| راجت۔ شب ہا                         | لیال۔ شب ہا                                  | گزارش دادن                                    |
| راجتگنی                             | کام کی خاریدن                                | ریڈن  |
| رجھ۔ قبط                            | کیتا۔ قبط                                    | غلتیدن۔ بذریعہ رفتہ۔ سینہ مال رفتہ۔ بر شکم    |
| رجھیتی                              | بر ابری جسٹن۔ تقلید کردن۔ اقتدا کردن۔ پیر دی | رفتن۔ بر چمار دست و پا جنبیدن۔ دولا دولا رفتہ |
| رجھ کرنی                            | کام کی خاریدن                                | گیم کرنی (امیت کی)                            |
| رجھ کرنی                            | کیتا۔ قبط                                    | هم چشی۔ غبط۔ پیر دی۔ دا گیری                  |

|  |  |
|--|--|
| گیش (نام: ایٹلی)                               | رخسماں (نام: ایٹلی; بہت) خدود  |
| آرزو۔ اشتیاق۔ میل۔ مشتاقی۔ آرمان               | رخ تے ہل توڑنا (آمیڈ) رکھ توں پھل توڑنا (آمیڈ)                         |
| ریشنا (آمیڈ کی) ریجھنا دل کشیدن                | اگزر (آمیڈ کی) رکھ دی نہیں ڈالی (نام: ایٹلی) بچہ نو                    |
| ریڈن ریڈن کی ریڈن کی ریڈن                      | رخ دی نہیں ڈالی (نام: ایٹلی) رکھ دی نوں چمن لگ جانا (آمیڈ کی) شستہ زدن |
| ریڈن کی ریڈن کی ریڈن کی ریڈن                   | رخ دی نہیں ڈالی (نام: ایٹلی) رکھاں / برچھاں (آمیڈ کی) درختان۔ اشجار    |
| ریڈن کی ریڈن کی ریڈن کی ریڈن                   | رخ دی کانت ہنٹ کرنی (آمیڈ کی) پات کردن                                 |
| ریڈن کی ریڈن کی ریڈن کی ریڈن                   | رخ پلن (آمیڈ کی) رکھاں خشکی (آمیڈ کی) پیوست۔ خشکی                      |
| ریڈن کی ریڈن کی ریڈن کی ریڈن                   | رخی رہتی (آمیڈ کی) رکھی روئی (آمیڈ کی) جشب                             |
| ریڈن کی ریڈن کی ریڈن کی ریڈن                   | ریڈن ہوئی (آمیڈ کی) روچت ہوئی (آمیڈ کی) میل داشن۔ میل کردن             |
| ریڈن کی ریڈن کی ریڈن کی ریڈن                   | ریڈن کی ریڈن کی ریڈن کی ریڈن   |
| عائق۔ خت۔ سنگ راه                              | میلان۔ التفات۔ مراغبت۔ رغبت۔ خواہش                                     |
| ریکاٹ پیدا کرنی (آمیڈ کی) رکاوٹ پیدا کرنی      | ریشنا (آمیڈ کی) ریشنا  |
| مانع بودن۔ مانع شدن۔ مانع تراشیدن۔ مزاحم بودن۔ | مشغول شدن۔ مسجد شدن۔ مصروف گشتن  |
| مزاحمت کردن                                    | مشغولیت۔ مصروفیت (آمیڈ کی) ریکھیاں                                     |
| عواائق۔ موائع (بہت) رکاوٹاں                    | مشغولیات۔ مصروفیات (آمیڈ کی) ریکھیاں                                   |
| ریکاٹاں توں دور کرنا                           | ریکھیاں نہیں   |
| موائع رفع کردن                                 | ریڈن۔ فصل (آمیڈ کی) ریکھیاں  |
| رکے رہیاں (آمیڈ کی) رکے رہنا                   | ریکھیاں  |
| ریخ/بیرڈ بیچر (آمیڈ کی) رکھ/برچھ               | ریکھ دا بدل جانا (آمیڈ کی) فصل عوض شدن                                 |
| ریشم کرنا (آمیڈ کی) رخصت کرنا                  | ریکھے (آمیڈ کی) درجات  |
| شب خوش گھن                                     | ریکھن (آمیڈ کی) رون  |
|  | گریہ۔ ریزش ائک از چشم۔ زاری۔ ہال                                       |

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| بُردن کرنا (آمیڈ کی)   | بُرے پیٹلی (آمیڈ کی)            | بُردن  |
| گریہ کردن۔ اشک رُختن۔ نالہ و زاری کردن۔  | بُرے بُرے ہوئنا (آمیڈ کی)       | قابل   |
| تالیدن۔ شیون کردن  | بُرے بُرے کرنا (آمیڈ کی)        | ہم روکردن                                    |
| بُرپا تھا بُنائیں (آمیڈ کی)  | بُرے بُرے (نہ) روزی (ایسکی)     | دار القامہ                                   |
| خورده کردن   | بُرے بُرے دا گیڑا (ہاکاں)       | دوبا   |
| بُرپا تھا میلائنا (آمیڈ کی)  | بُرے بُرے کپڑا (نہ) بُرے        | بری  |
| پول گیر آمدن   | بُرے بُرے (نہ) ریت (ایسکی)      | ریگ۔ شن                                      |
| بُرخون (آمیڈ کی)   | بُرے بُرے (آمیڈ کی)             | سوہان زدن۔ محل                               |
| از سیل یا موج راندہ شدن۔ با آب حرکت کردن۔ بہ جریان افتادن۔ تلف شدن۔ ضائع شدن۔ هر زرن | بُرے بُرے (ہی)                  | ریگ زار۔ شن دار                              |
| شکل۔ صورت  | بُرے بُرے (ہاکاں)               | ماہہ زار۔                                    |
| بُرپ (ہاکاں) روپ اتے ارتھ صورت و معنی  | بُرے بُرے (نہ) ریتا (ایسکی)     | رمل۔ ریگ                                     |
| بُرپ۔ مساز (در زبان شناسی) گفتار در تاریخ خود گرگوئی                                 | بُرے بُرے (نہ) ریتی (ایسکی)     | سوہان۔ محل                                   |
| شکل کلمات  | بُرے بُرے (نہ) ریل گندی (ایسکی) | کاسکہ بخار                                   |
| بُرپہین (ہی) روپ بہن   | بُرے بُرے (نہ) ریکا (ایسکی)     | کرہ گیری۔ کرہ سازی۔ ستیزہ کاری پرداز۔ کش مکش |
| بی شکل۔ بی صورت۔ بد شکل۔ بد صورت   | بُرے بُرے (آمیڈ کی)             | طویل۔ زیاع طولانی                            |
| استعارہ  | بُرے بُرے (آمیڈ کی)             | نزاع یا کش مکش را امتداد دادن                |
| بُرپ ک (نہ) روپ  | بُرے بُرے (نہ) رہست (ایسکی)     | دولاب  |
| بُرپ (آمیڈ کی) روپ دیتا دلان   | بُرے بُرے (نہ) روس (ایسکی)      | رنجش۔ رنجیدگی۔ ناخوشنودی۔ اعتراض رسمی۔       |
| تشکیل نمودن۔ بہ شکل در آوردن۔ سرد صورت دادن۔ قالب کردن۔ درست کردن                    | بُرے بُرے (نہ) روشن (ایسکی)     | احتیاج۔ داخواہی                              |
| حليہ   | بُرے بُرے (آمیڈ کی)             | فرزوں شدن۔ در خشائشتن۔ مشتعل گشتن            |
| شکلیہ  | بُرے بُرے (آمیڈ کی)             | افروختن                                      |
| بُرپہان (ہی) روپہان  | بُرے بُرے (آمیڈ کی)             | بادگیر                                       |
| تقول صورت۔ خوش شکل۔ کلیل   | بُرے بُرے (نہ) روشنہان          | بُرے بُرے (نہ) روشنی                         |
| بُرپان۔ روپان  | بُرے بُرے (نہ) روشنی (ایسکی)    | فروزش۔ تابش۔ جگی۔ ضیا                        |
| ترجمہ۔ رونوشت۔ تغیر شکل۔ تبدیل صورت  |                                 |  |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| ਗੇਜ਼ਨੀਆਂ (ਨਾਂ, ਇੰਡਿਆਂ, ਬਵਾ)                    | ਕਿਵਿ         | ਨਕਸ ਕਰਦਨ                               |
| لਘਾਤ - ਤਾਬਿਸ਼ - ਆਨਾਰ - ਸ਼ਾਰਕ                    |              | ਰੋਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)            |
| ਰੋਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     |              | ਤਾਰਾਸ਼ ਕਰਦਨ                            |
| ਜੁਖ ਅਨਾਦਾਨ                                     |              | ਰੋਗ ਨਾਸ਼ਕ ਉਲੱਜ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          |
| ਰੋਹ ਤੇ ਰੱਝੁਕ (ਕਿਵਿਵਿ)                          |              | ਖਾਡਾਵਾਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      |
| ਜੁਖ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਨ                              |              | ਅਸਥਾਮ - ਅਸਥਾਮ - ਔਲ - ਯਿਕਾਰੀ ਹਾ         |
| ਰੋਹਬ - ਦਾਬ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |              | ਰੋਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ) ਰੋਗੀ         |
| ਫਾਮਾਂਟ ਰਾਈਸ਼                                   |              | ਮਰਿਯੁਸ - ਸਿੰਚ - ਯਿਕਾਰ - ਰਨਗੂਰ - ਔਲੀ    |
| ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                         |              | ਰੋਗੀ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    |
| ਦਨਦਿੰਦਾਨ                                       |              | ਮਰਿਯੁਸ ਬੁਦਨ - ਮਰਿਯੁਸ ਸ਼ਦਨ - ਕਸਾਲਤ ਰਾਈਸ਼ |
| ਰੋਕ/ਐਂਕੜ (ਨਾਂ, ਇੰਡਿਆਂ)                         | ਖਾਰ ਰਾਹ - ਸਰ | ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ                |
| ਰੋਕ ਟੈਕ (ਨਾਂ, ਇੰਡਿਆਂ)                          | ਤਾਰਾਸ਼       | (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰੋਗੀ ਵੀ ਸੀਓਅਨਬਾਲ ਕਰਨੀ        |
| ਰੋਕਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                |              | ਦਰਦਬੁਚਿੰਦਨ - ਦਰਦਬੁਚਿੰਦਨ - ਤਿਮਾਰਕਰਦਨ    |
| ਦਰਿੰਗ ਰਾਈਸ਼ - ਬਾਝਾਈਸ਼ - ਅਨੁਭਾਵ ਨਮੂਦਨ           |              | ਦਲਾਵੀਜ਼                                |
| ਤਦਰਾਕ - ਅਨੰਦਾਵ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       | ਰੋਕ ਤਾਮ      | ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਲ੍ਹਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |
| ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |              | ਫ਼ੁਲ - ਫ਼ੁਲ - ਫ਼ੁਲ                     |
| ਜ਼ਲੋਗੀਰੀ ਕਰਦਨ                                  |              | ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                |
| ਰੋਕ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                             | ਅਨੁਭਾਵ       | ਸਾਮੀ ਸ਼ਦਨ - ਰੋਜ਼ਾਗ ਫੁਲ                  |
| ਰੋਕਤੁਕੁ ਵਿਚ ਦੱਸ ਕਰਨਾ                           |              | ਦਾਖ                                    |
| (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                      | ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਨ | ਰੋਜ਼ੀ (ਨਾਂ, ਇੰਡਿਆਂ) ਰੋਜ਼ੀ              |
| ਰੋਕੜੀ/ਰੋਕੜੀਆ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ)                     |              | ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                 |
| ਚੰਡੀਕਾਰ - ਟਾਕੀਲ ਵਾਰ                            |              | ਅਮਾਰ ਮਾਲਾਵਾਨ                           |
| ਰੋਗ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ)                              |              | ਖਬਰ - ਨਾਨ - ਰਾਤਾਂ                      |
| ਮਰਿਯੁਸ - ਸਿੰਚ - ਯਿਕਾਰੀ - ਰਨਗੂਰੀ - ਨਾਖੂਥੀ - ਔਲਟ |              | ਰੋਤੀ                                   |
| ਅਸਥਾਮ  |              | ਰੋਤੀ ਕਪੜਾ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ)                |
| ਰੋਗ ਦਾ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          |              | ਖੋਰਥ ਪੋਸ਼ - ਖੋਰਥ ਪੋਸ਼ - ਜਾਮੇ ਵੱਜੇ      |
| ਨਾਖੂਥੀ ਆਮਨ                                     |              | ਖੋਰਥੇ ਨਾਨ (ਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ) ਰੋਤੀ ਵਾਕ਼ੜਾ    |
| ਰੋਗ ਦਾ ਪਰਤ ਆਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      |              | ਰੋਤੀ ਪਕਾਉਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) ਰੋਤੀ ਪਕਾਉਣੀ      |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| خورد و نوش۔ اکل و شرب                 | رېلما (آمیڈ کی)                                  |
| رېلما (آمیڈ کی)                       | فرولالیدن۔ زیرپا انداختن۔ زیرپامالیدن۔ خبیدن۔    |
| گریعن۔ زاریدن۔ نالیدن۔ گریہ کردن۔ اشک | نخیدن  |
| رمخن۔ نالہ کشیدن                      | غل۔ شور و غوغا۔ خروش                             |
| رېلما۔ پېلما (نام بھ)                 | رېلما پاٹیلما (آمیڈ کی) رولا (نام بھ) رولا       |
| آہ و زاری۔ آہ و فغال                  | غريبو بر آوردن۔ غربیدن۔ شلوق کردن                |
| رېلما (نام بھ) روندو                  | رېلما۔ چپا                                       |
| رېلما (نام بھ) روندو باک              | غار و غور۔ شور و غل                              |
| رېلما (نام بھ) روڑھ                   | رېلما۔ چپا میتا دېلما (آمیڈ کی) رولا رپا مثاریتا |
| جریان تند۔ رووال شدگی تیز۔ سیل۔ طغیان | فتنہ را کر کشادن۔ فرونٹشادن شور و غوغا           |
| رېلما باکونی (آمیڈ کی)                | جلجھ   |
| دکان گرم ساختن۔ دکان گرفتن            | رېلما (ایسٹلین)                                  |



|   |   |
|---|---|
| لਖਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                     | اعرج۔ شکر پ۔ لੱਗ  |
| داਤਨ۔ فمیدਨ۔ درک کਰਦਨ۔ مੁਹਿੰ ਕਰਦਨ۔                | لੱਗਨਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) لੱਗਰਾਓਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        |
| تعریف کرਦਨ۔ تشخیص دਾਵਨ                            | ਪਾਂਗ ਬੁਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) لੱਗਜ਼ ਹੋਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   |
| لੱਖ-ਦਾਤਾ (ਲਕਹਦਾਤਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      | قرل۔ لੱਗ۔ عرج (ਭ) (ਨਾ) لੱਗਜ਼ ਪਣ (ਭ) (ਨਾ) لੱਗਰਾਪਣ (ਭ) (ਨਾ) |
| کਥਾਦੇ ਦਸਤ۔ ਜੀ۔ ਕ੍ਰੀਮ۔ باسਾਵਾਤ۔ ਬਖ਼ਨਦੇ             | ਲਗਾ (ਭ) (ਨਾ) لੱਗ (ਭ) (ਨਾ) لੱਗ (ਭ) (ਨਾ) سਰਦਕਾਰ             |
| لੱਖ-ਪਤੀ (ਵਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   | وابستਗੀ۔ تعلق۔ سر ਸਪੰਡਗੀ۔ مشتاقੀ۔ ਮਾਵਾਦੇ۔ ਅਰਿਆਤ           |
| ਮਿਲ੍ਯੋਝ۔ ਕਿਧੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ੍ਯਾਨ ਹਾਂ। ਯਕੂਰ ਵਾਹਾ ਦੋਲ ਅਤ | ਲਗਾਤਾਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ) (ਵਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  |
| ਲੱਗਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                    | ਪ੍ਰਿਸਟ۔ ਪੀ ਦਰਪੀ۔ ਚੀਮ۔ ਔਲਾਸਟਰ                              |
| ਪ੍ਰਿਸਟੇ ਸ਼ਦਨ۔ ਵਾਬਸਤੇ ਸ਼ਦਨ۔ ਚੰਮ੍ਰਿਹੇ ਸ਼ਦਨ۔ ਚੰਸਿਦਨ۔    | ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) (ਵਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)        |
| ਲੱਗਦਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   | ਵਰਜੁਨ   |
| ਮਤੁਲ۔ ਪ੍ਰਿਸਟੇ ਮਨ੍ਸੂਬ ਖੋਲਿਸ਼۔ ਖੋਇਥਾ ਵਿਨ੍ਦ          | ਲਗਾਮ (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   |
| ਲਗਦੇ ਹੱਥ (ਵਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਲਗਾਮ ਬਿੱਚ ਲੈਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  |
| گੜਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਨੀ۔ ਵਾਹਿਗੁਰੂ۔ ਗੁਰਾਵੇ۔ ਗੁਰਾਵੇ         | عنان ਬਾਝ ਕਿਥਿਨ  |
| ਲਗਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                  | ਅਨ੍ਟਰ   |
| ਦੱਲ۔ بੁਣੀ۔ ਤੁਰਕੜ۔ ਤੋਜੇ۔ ਕੁਝੀ ਪ੍ਰਿਸਟੇ۔ ਪਿਥਟ ਕਾਰ    | ਲੱਗੁਟ (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  |
| ਮਾਵਾਦੇ  | ਲੱਗੁਟ ਦਾ ਛਿੱਲਾ (ਵਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                    |
| ਲਗ ਭਗ (ਵਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਸ਼ਹੂਤ ਪ੍ਰਸਤ۔ ਆਮ ਏਫਾਰ ਕਿੱਤੇ۔ ਨਾਕਾਰ۔ ਫਾਸਤ۔ ਮਰਦ              |
| ਦਰ ਖੁਚੁਸ۔ ਦਰਬਾਬ۔ ਰਾਖ ਬੇ۔ ਦਰਸੇ۔ ਤਕਰੀਬਾ۔ ਬ੍ਰੂਰ      | ਲਾਸ ਜਨ (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       |
| ਤਕਰੀਬ ਯਾਤ੍ਰੀਨ                                     | ਮਹੁਰ۔ ਮੁਖ ਲੀ ਜੁਫਤ۔ ਇਤ੍ਤ                                   |
| ਲੱਗ ਮਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               | ਲਗੋੜ (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                   |
| ਲੁਖਿਦਾਨ۔ ਸਮ ਅਖੁਦਨ                                 | ਤੁਵਹ ਪ੍ਰਸਤ۔ ਅਰਾਵਲ۔ ਅਨ੍ਵੇਹ ਮਰਦਮ۔ ਗੁਰਦ                      |
| ਲਗਰ ਨੂਰਦੇ (ਅਮਿਤ ਕਿ) (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)            | ਲੱਘਣ ਦੇਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                             |
| ਲਾਨ ਰਬਾਤ (ਵਾਕਾਂਬਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                      | ਰਾਹ ਦਾਵਨ۔ ਅਗਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੇਣਾ                                  |
| ਲਗ-ਲਬੇੜ (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਲੱਘਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)  |
| ਬਾਤੀ ਮਾਨਦੇ۔ ਪਿਸ ਮਾਨਦੇ۔ ਤੇ ਨਿਸ਼ਿਨ۔ ਦਰਦ              | ਗੜਦਾਵਨ۔ ਗੜਦੀਨ۔ ਗੜਦੀਨ                                      |
| ਲਗਜ਼ਬਗਜ਼ (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       | ਲੱਘਵਾਉਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)   |
| ضੱਖ   |   |
| ਲਗਜ਼ਬਗਜ਼ (ਭ) (ਨਾ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       |   |
| ਫਾਖ   |   |



|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| لپٹ   | التاب۔ لمب۔ حریق        | شلگ۔ انداختن۔ شلگ برداشت                      |
| لپٹ   | لپٹ (ہ)                 | لے مے لے تا نکلے لاؤنا (امیت) امیت            |
| شوافی۔ شوافی۔ مردم بی نام و نگ۔ بلچیز۔ لوند   | شلال کردن               | شلال کردن                                     |
| لپٹانہ (امیت کی)  | لے مے وال (ہواں) لے وال | گیسو۔ زلف                                     |
| چیخیدن۔ والیدن۔ نوردن۔ لفافہ کردن۔ تہ کردن۔   | للالکار (نہ) للالکار    | نعرہ  |
| غلدادن  | للالکارنا (امیت کی)     | بلہلہ کردن                                    |
| لہنگا (نہ) پی (ہ)   | للالکارا رہا (امیت کی)  | للالکارا رہا مارنا                            |
| آوارہ گرد۔ بد ذات۔ پست فطرت۔ لوٹی۔ او باش۔  |                         | نعرہ زدن۔ نعرہ کشیدن                          |
| بد کردار۔ بد کار۔ بد معاش   |                         | صبا غ۔ رنگ ریز                                |
| لہنگا (نہ) لفیرا (امیت کی)  | چپات                    | للا ری (نہ) للا ری                            |
| لہنگا مارنا (امیت کی)   | سلی زدن                 | للا ری پن (نہ) للا ری پن                      |
| لہنگا (نہ) لمب  | عمود                    | صبا غت۔ صبا غی۔ رنگرزی                        |
| لہنگا (نہ) لمب ریکھا ریخا   |                         | لیلیت (ہ) للت                                 |
| خط عمود۔ "آل خطر آگویند کہ چوں مستھما بر خط دیگر<br>فرود آید تشکیل دوزاویہ قائم در طرفین خود بناید" |                         | زیب۔ قشنگ۔ جیل۔ لطیف۔ نازک                    |
| لہنگا (ہ)   |                         | فن لطیف (نہ) للت کار                          |
| درازنا۔ دراز۔ طویل۔ بلند۔ کشیدہ   |                         | لہنگا (ہ) لوا                                 |
| لہنگنا (امیت کی)  | تکویث                   | جوان۔ خرد سال۔ رشدنا کرده۔ نا تجربہ کار۔ خام۔ |
| لہنگنا (ہ)  | لحیان                   | نارس۔ نا پختہ                                 |
| لہنگنا (ہ)  | طویل۔ دراز              | زندیک۔ زندیک بہ۔ دم دست (ہ) لوے               |
| لہنگا (نہ) لہنگی  | درازی                   | طفلی۔ طفویل                                   |
| لہنگا (ہ) (ہواں)  |                         | لہنگا (نہ) لہنگا                              |
| سال ہائی دراز۔ مدت مدید۔ زمان طولانی  |                         | طفل۔ پسر                                      |
| لہنگا (ہواں)  |                         | لہنگی/بہتی (نہ) لڑکی/بیٹی                     |
| سفر دور ادور  |                         | صبا یا۔ دختر (نہ) لڑکیاں                      |
| لہنگنا (امیت کی)  | اطناب                   | لہنگا۔ دخترها (نہ) لڑکیاں                     |
| لہنگی آپھیں (امیت کی)   |                         | اطفال   |
| دیر یعنی  |                         | لہنگے۔ بھالے (نہ) لڑکے                        |
| لہنے کے قدم چکنا (امیت کی)  |                         | زہزادہ  |
|   |                         | لہنگہ اونا (امیت کی)                          |
|   |                         | تکو تکو خوردن۔ اپار آمدن                      |
|   |                         | لہنگہ اہٹ (نہ) لڑکھڑاہٹ                       |
|   |                         | عہت۔ لغزش۔ خطا                                |

|                |                                    |   |
|----------------|------------------------------------|---|
| لੜਖ਼ਵਾਹਟਾਂ     | (ن) لੁਕ਼ਹ ਰਾਹਟਾਂ                   | ਇਲਿੰਡ ਬਵਾ                                     |
|                | عشرات۔ لغڑش ہا۔ خطابا              |   |
| لੜ ਛਡਾਉਣਾ      | (امਿਤ ਕਿ)                          | لੜ ਛਡਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |
|                | خلاص شدن از۔ رہائی یا فتن از (دست) |   |
| لੜਨ            | (امਿਤ ਕਿ)                          | سੈਵਿزਦਨ۔ جੁਗਿਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     |
| لੜ ਫੜਨਾ        | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | محکਮ گرفਨ۔ امیدداਣ۔ اعتمادਾਣ۔ موکول           |
|                | بودن۔ توکل کردن                    | بودن۔ توکل کردن                               |
| لੜ ਲੱਗਣਾ       | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | پ੍ਰਸ਼ੰਸਨ۔ ضمیمہ شدن۔ پਿਰਵੀ کردن از۔ متابعت    |
|                |                                    | کردن۔ دنبال کردن۔ تعقیب کردن۔ متابل شدن۔      |
|                |                                    | بڑਾਂਥੀ وابستہ شدن                             |
| لੜਾਈ           | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | اور۔ جੱਗ۔ مصاف۔ رزم۔ حرب۔ نبرد۔ مبارزت        |
|                |                                    | لੜਾਈਆਂ (ن) لੁਕ਼ਹ ਰਾਹਟਾਂ                       |
|                |                                    | ਮਬਾਰਤ۔ حرب                                    |
| لੜਾਈ ਕਰਨੀ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | کارزار کردن۔ جੁਗਿਦਨ۔ جੱਗ ਨਮودن۔ نبرد کردن     |
|                |                                    | لੁਕ਼ਹ ਰਾਹਟਾਂ                                  |
|                |                                    | سੈਵਿزہ۔ چون وچرا۔ پرخاش۔ مجادله۔ عربده۔ زداع۔ |
|                |                                    | شورش۔ چਾਖੀ۔                                   |
| لੜਾਈ ਝਗਨਾ      | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | لੜਾਈ ਝਗਨਾ کਰਨਾ                                |
|                |                                    | سੈਵਿزہ سੈਵਿزہ کردن                            |
| لੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ  | (ਅਮਿਤ ਕਿ)                          | لੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ                                 |
|                |                                    | ਸ਼ਿਵਰ درنیام کردن                              |
| لੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ | ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ                        | جوال رفت (ਅਮਿਤ ਕਿ) لੁਕ਼ਹی مل لੈਣੀ کے دੇ ਨਾਲ   |
|                |                                    | لੜਾਈ ਲੁਕ਼ਹی تੱਪਰ                              |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| جنگ سگال                                    | لੜਾਈ (ਅਮਿਤ ਕਿ)           | لੜਾਈ ਲਈ ਵੰਗਾਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                   |
| گل زدن                                      | لੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਜਾਈ ਹੋਣਾ      | لੁਕ਼ਹੀ وچ و ਜੰਹੀ ਹੋਣਾ                       |
|   | فایق شدن                 | فایق گردਿਦਨ۔ فایق آਮਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)             |
|   | لੜਾਕਾ                    | لੜਾਕਾ (ਵਿ)                                  |
| ابن الحراب۔ حربی۔ جੱਗ جو۔ سੈਵਿز زندہ۔ مبارز | لੜਾਕੇ (ਵਿ)               | ابن الحراب۔ حربی۔ جੱਗ جو۔ سੈਵਿز زندہ۔ مبارز |
| مبارزان                                     | لੜਾਕੇ (ਵਿ)               | مبارزان                                     |
| سلک   | ਲੜੀ ਸੌਫ਼ਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | سلک   |
| بہم پ੍ਰਸ਼ੰਸਨ۔ سੱਸਲ ਕਰਦਨ۔ مਤੁਲ ਕਰਦਨ۔ مਰਭੁਤ   | ਲੜੀ ਸੌਫ਼ਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | بہم پ੍ਰਸ਼ੰਸਨ۔ سੱਸਲ ਕਰਦਨ۔ مਤੁਲ ਕਰਦਨ۔ مਰਭੁਤ   |
| نظم   | ਲੜੀ ਸੌਫ਼ਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     | نظم   |
| بطور مسلسل                                  | ਲੜੀਵਾਰ (ਵਿ)              | بطور مسلسل                                  |
| آل جیز الرصوت                               | ਲਾਓਡ ਸਪੀਕਰ (ਵਿ)          | آل جیز الرصوت                               |
| دار الکتب۔ کتب خانہ                         | ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      | دار الکتب۔ کتب خانہ                         |
| زود باور۔ سادہ لوح                          | ਲਾਈਲੱਗ (ਵਿ)              | زود باور۔ سادہ لوح                          |
| عدیم الشال۔ بی نظیر۔ بی مثال۔ بی ہتھا       | لਾਸਾਨੀ (ਵਿ)              | عدیم الشال۔ بی نظیر۔ بی مثال۔ بی ہتھا       |
| لਾਹਨਤ کرنੀ                                  | لਾਹਨਤ (ਅਮਿਤ ਕਿ)          | لਾਹਨਤ کرنੀ                                  |
| لعن کردن                                    | لعنت بھਜਿਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    | لعن کردن                                    |
| لعن فرستادن                                 | لعنت بੇਜ਼ਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    | لعن فرستادن                                 |
| لਾਹਨਤ-ਮਲਾਮਤ                                 | لعنت مਾਸਟ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | لਾਹਨਤ-ਮਲਾਮਤ                                 |

|   |                                |                                       |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| کیا   | لامات کردن۔ لامات نمودن        | جنسیت۔ تمايلات جنسی (لیں لیں نہ) لگتے |
| لاہ-پاہ                                       | (لادیاہ) (نہ) لادیاہ (لیں لیں) | راہ گزر                               |
| ناسز-اگوئی                                    | - توہین۔ گوہش۔ سرزنش۔ توہنج    | لائھا                                 |
| لاہ-پاہ کرنی                                  | کرنی (امیت کیا) لادیاہ کرنی    | فرودمانہ                              |
| توہین کردن بہ۔ بی احترامی کردن بہ۔ ناسزاگن۔   | سر زنش کردن۔ توہنج کردن        | لائھار                                |
| لاغا  | لفع۔ منفعت۔ سود۔ فایدہ         | لائھار ہوئا                           |
| لاغا-ٹئتا                                     | لاغا (نہ) لاغا توڑا            | امیت کیا                              |
| سود و زیاب۔ نفع و نقصان۔                      |                                | درگل فرد ماندن                        |
| لاغہ-وند                                      | (لیں) لاغہے وند                | عمر۔ عز                               |
| سود مند۔ مفید۔ منفعت دار۔ مشتر                | رفق (امیت کیا) لاغہے وند ہوئا  | افترا۔ تمث                            |
| لاغہے وند ہوئا                                | لاغہ (نہ) لاغہ                 | نگ۔ عار۔ شرم۔ حیا                     |
| لائھ کدھ حقوق                                 | لائھ (نہ) لائھ                 | ملتزم بودن (امیت کیا) لازمی ہوئی      |
| لائھا   | لائھ (نہ) لائھا                | لائھری                                |
| سیاہ۔ سیر۔ سیر چڑھ۔ سیر پوست                  |                                | چڑھ                                   |
| لاغا  | (نہ) لاغ (لیں لیں)             | دست چوب۔ عصا                          |
| نفوذ۔ ہم چشمی۔ غبطة۔ واگیرہ۔ واگیری۔ آکوگی۔   |                                | لائھی                                 |
| سرایت عخونی                                   |                                | لائھ زرد وانہ                         |
| لاغات   | (نہ) لاغت                      | لائھ دیڑ                              |
| بہا۔ قیمت۔ ارزش۔ خرج                          |                                | لائھ جانور                            |
| خوراک پز۔ آشپز۔ طباخ                          | (لیں لیں) لائھری               | لائھل پیشہ                            |
| بوسیدہ۔ خراب۔ فاسد (شدہ)                      | (لیں لیں) لائھر                | گر                                    |
| لائھ جڑ                                       | لائھ (نہ) لائھ                 | گر زدن (امیت کیا) لانبو بھر کنا       |
| لائھ  |                                | صرفہ۔ نفع۔ سود۔ منفعت                 |
| لاغا  | (لیں لیں) لاغا                 | لائھ                                  |
| قابل اجر۔ اجر اشدنی۔ کابستی۔ شامل حال۔ مناسب۔ |                                | لائھ                                  |
| مربوط   |                                | فواید۔ سودہا۔ حاصل ہا۔ منفعت ہا       |
| لینگ  | (نہ) لینگ                      | لائھ اتھے ہانی (لیں لیں)              |
| لاغا  | (لیں لیں) لاغا                 | سودوزیاب                              |
| قابل اجر اشدنی۔ کابستی۔ شامل حال۔ مناسب۔      |                                | لبھیڈ                                 |
| مربوط   |                                | لبھ داشتن                             |
| لینگ  | (نہ) لینگ                      | لبھ رائیک                             |
| جنس۔ تذکیرہ و تائینیث۔ عضو مبادرتی            |                                | سود بخش۔ بافائیدہ۔ پر منفعت۔ مفید     |
|   |                                | لائھ پر اپت کرنا (امیت کیا)           |



|  |   |
|--|---|
| لکਦ ਕੱਬ ਸ਼ਦਨ                                      | انہاک۔ مਹੂਤ                                   |
| لਿਦ (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                                   | ਸਾਲ ਕਿਸੇ (ਵਾਕਾਂ)                              |
| ਅਸ۔ ਸਰ ਕਿਨ ਮੌਜੂਦੀ ਕੇ ਬ੍ਰਦੰਬ ਸ਼ਤ੍ਰੁ ਖੱਕ ਸ਼ਦੇ ਵੇਂ   | ਚਾਕ ਚਾਕ (ਵਿ)                                  |
| ਓਹਿਆਲ ਬਾਂਥਦ                                      | ਪੋਸ਼ਾਕ۔ ਲਬਾਸ۔ ਜਾਮੇ (ਘ)                        |
| ਲਿਪ ਸਟਿਕ (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                              | ਆਹੜ۔ ਹਦਾਰ                                     |
| ਲਿਪਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  | ਲੁਹਾਰ (ਨਾ: ਘ)                                 |
| ਲਿਪਾਈ (ਲਪਾਈ) (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                          | ਲੁਕ ਜਾਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |
| ਲਿਪੀ (ਲੂਪੀ) (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                           | ਗਾਵਿ ਸ਼ਦਨ۔ ਮੁਖੀ ਗੁਣ। - ਪੱਧਾਨ ਸ਼ਦਨ۔ ਕਮ ਗੁਣ       |
| ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ (ਲੂਪ) (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                       | ਸਰਮਾਕ (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                              |
| ਨਕਲ ਹਾਫਿ۔ ਨਮਾਲਿਸ਼ ਤਲੋਫ਼۔ ਬ੍ਰਹਦ ਰਾਬਾਨ ਦੀਗਰ        | ਲੁਕਣਾ/ਲੁਕਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        |
| ਲਿਪੀਕਾਰ (ਲੂਪ) (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                         | ਰੂਪੀ ਕਰਨ                                      |
| ਲਿਪੀ-ਵਿਦਿਆ (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                            | ਲੁਕਾਨ ਦੇਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           |
| ਲਿਫ ਕੇ ਢੁਕਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            | ਖੇਡੀ۔ ਨਮਾਨੀ۔ ਪੱਧਾਨੀ                           |
| ਡੋਲਾਰ ਫਟਨ  | ਲੁਕਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                             |
| ਲਿਫਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                                  | ਖਾਚਿਦਾਨ۔ ਪੱਧਾਨ ਕਰਨ। - ਮੁਖੀ ਕਰਨ। - ਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ   |
| ਖੀਡਨ۔ ਖੀਡੇ ਦੇ ਸ਼ਦਨ۔ ਖਮ੍ਗ ਕਰਦੀਦਾਨ۔ ਕੁਝ ਸ਼ਦਨ         | ਲੁਕਾਈ (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                              |
| ਲਿਬੜਨਾ (ਲੂਬ੍ਰੂ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਖਲ੍ਚੇ। - ਮੁਦਮ। - ਮੁਦਮਾਨ। - ਗਰੂਹ। - ਤੁਵੇਦ।     |
| ਆਲਾਈਨ। - ਆਕੂਦਨ। - ਸ਼ੁਖੀਦਨ। - ਆਕੂਦੇ ਦੇ ਸ਼ਦਨ। - ਮਲੂਥ | ਜਮੂਰ  |
| ਗੁਣਨ   | ਬਿਾਰਕ। - ਲੱਗ                                  |
| ਲਿਬਾਸ (ਲੂਪ) (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                           | ਲਾਤਲੂਹ  |
| ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                           | ਤਾਰਾਨ। - ਰਿਭੋਡੀ                               |
| ਲਬਾਸ ਦਰਬਰਕਰਨ                                     | ਚ੍ਰੂ  |
| ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            | ਲੁਟ-ਖਸੁਟ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                            |
| ਜਾਮਦ ਬਦਲ ਕਰਨ                                     | ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਕਰਨੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                       |
| ਲਿਬੜਨਾ (ਲੂਬ੍ਰੂ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                        | ਜੋਹਰ ਕਰਨ                                      |
| ਲੀਕ (ਨਾ: ਇਲਿੰ)                                   | ਲੁਟਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)                               |
| ਲੀਨ ਹੋਣਾ (ਲੈਨ ਹੂਣ) (ਅਮਿਤ ਕਿ)                     | ਗਾਰਿਤੀਦਾਨ। - ਗਾਰਤ ਕਰਨ। - ਨਿਖਿਸਤ ਬਰਦਨ। - ਰਾਹੜੀ |
| ਅਤੋਵਾਂ। - ਮਿਖੁਲ ਦੇ ਸ਼ਦਨ                           | ਕਰਦਾ। - ਚ੍ਰੂਕਰਦਾ                              |
|  | ਮਾਲ ਨਿਖਿਸਤ (ਵਾਕਾਂ) ਲੁਟ ਦਾ ਮਾਲ                 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| لٹت دے مال                                | غناہم (نام پر) لٹت دے مال (نام پر) لٹت دے مال | لیکھا جو کھا (پر) لیکھا جو کھا (پر)             |
| لٹت پڑ جانا (امیت کی)                     | لٹت پڑ جانا (امیت کی)                         | دراز کشیدن۔ دراز شدن (امیت کی) لیٹن لٹت لٹت لٹت |
| لوٹی خورشدن                               | لوٹی خورشدن                                   | تغمد  |
| لٹت-بآر                                   | لٹت مار (ایسٹلی)                              | لھاف  |
| غارت۔ تاخت۔ تاراج۔ یغما                   | غارت۔ تاخت۔ تاراج۔ یغما                       | برہ   |
| لٹت-بآر کرنی (امیت کی)                    | لٹت مار کرنی (امیت کی)                        | ربائیدن   |
| غارت کردن۔ تاراج کردن۔ بے یغما بردن۔ دراز | غارت کردن۔ تاراج کردن۔ بے یغما بردن۔ دراز     | صدوق پست  |
| دستی کردن۔ چاپیدن                         | دستی کردن۔ چاپیدن                             | ملاؤ  |
| لٹت لئلن                                  | لٹت لیتا (امیت کی)                            | قرض خواہ  |
| لٹتے را شیرا (پر)                         | یغما زدن۔ یغما کردن                           | داد و ستد                                       |
| راہ زن۔ غارت گر۔ چپوچی۔ تاراج کننده       | راہ زن۔ غارت گر۔ چپوچی۔ تاراج کننده           | لیں دین کرنا (امیت کی)                          |
| لٹھاٹیلا (امیت کی)                        | فریب دارن۔ مغموم کردن                         | داد و ستد کردن                                  |
| لڑکھان                                    | غل خوردن                                      | لے دے دئن دا ہیوہا را تੁٹ جانا                  |
| لڑکھان                                    | غلتاندن                                       | فک معاملہ                                       |
| درکام۔ مفید۔ لازم۔ ضروری (ہی)             | لڑکھان  | لے دے دئن دا ہیوہا را توڑ دینا                  |
| لੁੰਕھڈے بخے کھرے ہوئے                     | لੁੰਕھڈے بخے کھرے ہوئے                         | لے دے دئن دا ہیوہا را توڑ دینا                  |
| کھرے ہوئے                                 | قشر یہ  | شخ معاملہ کردن                                  |
| لٹھی لٹھی لٹھی (امیت کی)                  | توتی لٹوتی (امیت کی)                          | جلب   |
| تحریک کردن۔ باصرار و ادار کردن۔ برائیں    | تحریک کردن۔ باصرار و ادار کردن۔ برائیں        | لامپ  |
| لٹھبڑی (امیت کی)                          | روباہ۔ روہ                                    | آہن۔ حدید                                       |
| لے بخ                                     | مضمون   | لہو اڑھا سن والی بھیشی                          |
| لے بخ                                     | مضاہن   | آہن ذوب کن                                      |
| نولیسندہ۔ رقم۔ انشا پرداز (پر)            | لے بخ ک                                       | لے هے دا سڑھا (ہا کاں)                          |
| لے بخانی (امیت کی)                        | لے بخانی                                      | دیڑاندن۔ دیگ پا یہ۔ دیگ دان                     |
| لے بخانی رکھ دئیں                         | لے بخانی                                      | لے هے دا سینگال                                 |
| لے بخانی                                  | لے بخانی                                      | داش خار۔ داش خال                                |
| لے بخانی                                  | لے بخانی                                      | لے هے دی میخ                                    |

|         |                                     |                                     |                            |                          |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| لੋਕ ਹਿਤ | لੋਕ (ਨਾਂ) ਲੁਕ ਹੇਠ (ਪੁ)              | رفاه عامہ                           | لੋਭ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | دل دਰਿਆਕਰਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)    |
|         | ਲੋਕ-ਪਰਸਿੱਧ (ਵਿ)                     | ਸ਼ਰਹ افام                            | ਲੋਭੀ (ਵਿ)                  | ਲੋਭੀ (ਵਿ)                |
|         | ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ (ਨਾਂ) ਲੁਕ ਪ੍ਰਲੁਕ (ਪੁ)     | دੂਵਾਲਮ-ਕੋਨੀਨ                        |                            | آਜ-ਮਨਦ-ਹਿਚ-ਖਾਮੁੰ-ਹੁਸ਼ਕਾਰ |
|         | ਲੋਕ ਭਲਾਈ (ਨਾਂ) ਲੁਕ ਜਲਾਈ (ਇਲਿੱਡੀ)    | ਮਫਾਦ ਗਮਾਦ                           | ਲੋਲ ਲਗਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | ਆਤਾਬ ਖੁਰਦਨ (ਅਮਿਤ ਕਿ)     |
|         | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ           |                                     | ਲੋੜ ਲੁਹੁਰ (ਅਮਿਤ ਕਿ)        | ਵਾਧੀ-ਹਾਜ਼ੀ-ਪ੍ਰਦਰਤ        |
|         | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ) | ਲੋੜ ਪੈਣੀ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | ਲਾਜਮਾਨਣ (ਅਮਿਤ ਕਿ)        |
|         |                                     | ਸ਼ੁਰਾਨਦਾਨ-ਸ਼ੁਰਾਨਿਦਾਨ                  | ਲੋੜਵੰਦ (ਵਿ)                | ਲੋੜਵੰਦ (ਵਿ)              |
|         | ਲੋਕਾਂ ਲਈ (ਕਿਵਿਵਿ)                   | ਅੰਦਰ ਨਾਸ                            |                            | ਹੁਸ਼ਕ-ਮਨਦ-ਮਹਾਜ-ਦਸਤ ਨਗਰ   |
|         | ਲੋਲ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਪੁ)                | ਅਬ੍ਰਿਤ-ਆਤਾਬ                         | ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)      |                          |
|         | ਲੋਟੇ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਪੁ)               | ਅਬਾਰਿਤ                              |                            | ਮਹਾਜ-ਨਿਯਾਦਾਂਗ            |
|         | ਲੋਥ-ਜ਼ਦੂ ਜਾਨ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਇਲਿੱਡੀ)   | ਲਾਈ                                 | ਲੋੜ ਵੇਲੇ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | ਅਭਿਆਸ-ਨਿਯਾਦਾਂਗ           |
|         | ਲੋ਷਼ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਇਲਿੱਡੀ)           | ਭੁਖ                                 | ਲੋੜਾਂ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਇਲਿੱਡੀ) | ਅਭਿਆਸ-ਨਿਯਾਦਾਂਗ           |
|         | ਲੋਬੀਆ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਪੁ)              | ਦਰ                                  | ਲੋੜਾਂ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਇਲਿੱਡੀ) | ਅਭਿਆਸ-ਨਿਯਾਦਾਂਗ           |
|         | ਲੋੜ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਪੁ)                | ਹੁਸ-ਹਰਸ-ਖੁਸ-ਵਲੁ-ਵਲੁ                 | ਲੋੜਾਂ (ਨਾਂ) ਲੁਹੁਰ (ਇਲਿੱਡੀ) | ਅਭਿਆਸ-ਨਿਯਾਦਾਂਗ           |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ڈسالا (امیٹ کی) وسٹا                     | بائیدن                                     | دسمیلہ (پ) نانے) و سیلہ                  | دریعہ۔ داسطہ                               |
| دمساتر (پ) نانے) و ستر                   | رخت  | دسمیلہ ڈھونڈنا                           | توسل (امیٹ کی) و سیلہ ڈھونڈنا              |
| دمساتر پاڑ لئلا (امیٹ کی) و ستر پار لینا | تباکردن۔ چاک کردن پیراہن                   | دمسٹلیجے گ (پ) وصولی یوگ                 | واجب الوصول                                |
| دمساتر بس لئلا (امیٹ کی) و ستر بد لئلا   | بالس                                       | دسمیلہ (پ) نانے) و سول                   | بودباش۔ مسکن۔ سکونت۔ خانہ گیری۔ اقامت گاہ۔ |
|  | قباگردانیدن                                | دسمیلہ کرنی (امیٹ کی)                    | محل اقامت                                  |
| دمساتر ان (پ) بھا                        | البہر                                      | سکن شدن در۔ سکن ساختن۔ سکن گرفتن در۔ بود |  |
| دمسات ان (پ) ایلیں کھا                   | اشیا۔ چیزها                                | باش گزیدن در۔ زندگی کردن در۔ ماندن۔ منزل |  |
| دمسات ع (پ) ایلیں                        | شی۔ چیز                                    | کردن                                     |  |
| دمسات اشیاء (پ) ایلیں کھا                | چیزہا۔ اشیاء                               | تجار۔ خاندان۔ دوستان                     |  |
| دمسات ع پر ک (پ) وستو پر ک               | (وابستہ چیزہا) بیردنی / خارجی۔ دار ای وجود | نش (پ) نوش                               |  |
|  | خارجی۔ معروضی۔ واقعی                       | دھا ای (پ) وہو                           | جیان۔ سمل دریائی۔ روان شدگی۔ ریزش          |
| دمساتیک (پ) وسٹیک                        | متوطن۔ ساکن۔ باشندہ                        | دھا ای (پ) وہو                           | روان کنانیدن۔ جاری کنانیدن۔ رواں ساختن۔    |
| دمساتیک (پ) وسٹیک                        | ساکنین                                     | دھا ای (پ) وہو                           | جاری ساختن۔ جریان کنانیدن۔ طغیان کردن      |
| دمسما لایہ لئلا (امیٹ کی)                | وسہ لاوٹا                                  | دھیمہ                                    | زمسلہ                                      |
| دمسہ کشیدن۔ خضاب کردن                    | آباد کردن                                  | دھکڑا                                    | دھیمہ                                      |
| دمسا ایلہ (امیٹ کی) و سارا               | دھکڑا                                      | وقت دینا                                 | فرصت دادن۔ وقت دادن۔ مساعدت نمودن          |
| دمسا ہ (پ) و ساہ                         |  | دھکڑا                                    | گویندہ۔ خطیب۔ مقرر۔ متكلم (پ) نانے) و کتا  |
| اعتبار۔ اعتبار۔ پشت گری۔ تکیہ            |  | دھکڑی                                    | وقتی طور تے ویاہ کرنا                      |
| دمسا ہ ایڈا (پ) و ساہ کھات               |  | دھیفہ                                    | دھیفہ کردن                                 |
| نمک حرامی۔ فریب۔ گول۔ دغا بازی           |  | دھکڑا                                    | طرفہ                                       |
| دمسایت (امیٹ کی) و صیت کرنی              | دمسایت (امیٹ کی) و صیت کرنی                | دھکڑا کرنا                               | توقف                                       |
|  |  | دھکڑا کرنا                               | دھکڑا کرنا                                 |
|  |  | (پ) نانے) و کر                           | قوس۔ خم۔ خمیدگی۔ بکھی۔ اخنا                |

|  |              |              |   |
|--|--------------|--------------|---|
| دکھ رےخا                                     | خط مخفی      | دگدی اکھ     | چشم آنچکو                                     |
| دکھ رےکڈی                                    | (نام: ایلین) | (نام: ایلین) |   |
| ایہام۔ ابہام۔ جناس۔ تطویل سخن۔ اطتاب۔ گفتار  |              |              | پیرامون۔ محیط۔ دورہ۔ حدود۔ سطح بروئی          |
| پسلودار۔ دور زدن در سخن۔ دور سر گرداندن مطلب |              |              | دگال لانہ (امیت کی) دگل کی (امیت کی)          |
| دکھ لٹ کرنا (امیت کی)                        |              |              | احاطہ کردن۔ دور گرفتن۔ دیوار کشیدن (دور)۔ گرد |
| محاجہ کردن                                   |              |              | گرفتن۔ ساکن شدن (دور)                         |
| جدل۔ سوا۔ جزا۔ منفرد۔ منفصل                  | (ہم) وکھ     |              | دھاہ مارنا (امیت کی)                          |
| کالا۔ مال التجارہ۔ جنس                       | (پ) وکھر     |              | پرتاپ کردن۔ پرت کردن۔ اندھن۔ افحمن            |
| مختلف۔ متفاوت                                | (ہم) وکھرا   |              | دھاٹگ   |
| دھنگا کرنا (امیت کی) وکھرا کرنا (امیت کی)    |              |              | بہ سرعت۔ باشتاپ۔ سریعاً۔ زود                  |
| جدا کردن۔ سوا کردن                           |              |              | تڑھ۔ عمال                                     |
| دھنگیاں اولیا (امیت کی)                      |              |              | دھنگار (ہم) وگار (ہم)                         |
| فرق گذاشنا۔ تمیز دادن                        |              |              | مبادر طلبی۔ بجنگ (تن بن) دعوت                 |
| دھنگ رہنا (پ) وکھریاں                        |              |              | بی بره۔ محروم۔ بی نصیب                        |
| فرق۔ فرق گذاری۔ نشان تشخیص۔ امتیاز۔ جدای     |              |              | وخت (ہم) وخت                                  |
| جز ای  |              |              | دھنچن (پ) وچن                                 |
| دھنگا  |              |              | بی بره سازی۔ بی برجی۔ محرومیت۔ بی نصیبی       |
| جادا شدگی بواسطہ اختلاف عقیدہ۔ نفاق۔ اختلاف  |              |              | گوسال۔ عجل                                    |
| عقیدہ۔ شقائق                                 |              |              | دھنچا (پ) وچا                                 |
| دھنگانہ (امیت کی)                            |              |              | دھن ج (پ) وچ                                  |
| شرح دادن۔ توصیف کردن۔ سخن رائی کردن۔ ادا     |              |              | صدای بلند یا محکم۔ شرت نمایاں۔ آہنگ کوتاہ با  |
| کردن۔ تفصیل تہیہ کردن                        |              |              | آلات برخی۔ شکوه۔ طمطراق۔ کروفر                |
| دھنگ۔ رہہ                                    |              |              | دھن ج۔ دھن جا کے کے (ہم) وج وجہ کے            |
| دھنگا (امیت کی)                              |              |              | با شکوه۔ با عجل۔ با طمطراق۔ با آب و تاب       |
| روان شدن۔ جاری شدن۔ جریان کردن۔ تراویش       |              |              | دھن جانگی (پ) وجنتری                          |
| کردن۔ پرروان دادن۔ وزیدن (بار)               |              |              | ساز زن۔ نوزاندہ۔ ساز ندہ                      |
| دھنگا پانی پانی (پ) وگد پانی پانی            |              |              | حال کردن                                      |
| آب روان۔ آب جاری                             |              |              | دھنست کرنا (امیت کی) و جد کرنا (امیت کی)      |
|  |              |              | دھنر (پ) و جر                                 |
|  |              |              | سنگ۔ سنگ شبابی۔ شخنانہ۔ سنگ خارا۔ صحرہ صما    |
|  |              |              | دھن جا اولیا (امیت کی) و نجہڑا (امیت کی)      |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| تکف کردن۔ ضایع کردن۔ بر باد دادن۔ از دست دادن                               | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وزنی ہوئَ (آمیڈ کی) | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | قابل تقسیم۔ قسم پذیر                       |
| گرانیدن۔ سکین شدن۔ ثقل گھن۔   | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | بخش کردن۔ تقسیم کردن                       | نجابت۔ بزرگواری                            |
| رفتن۔ همسار شدن۔ روانہ شدن  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | سروری۔ بزرگی۔ کلانی                        |
| ٹکڑے۔ نکلے۔ پھٹے۔   | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) |
| تاتا۔ لام۔ آشگ۔ تاب۔ پیچیدگی  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | شکوہیدن۔ انعام بزرگی کردن                  |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | خارج قسم                                   |
| پیچ دار کردن۔ پیچ دادن۔ تابیدن۔ پیچیدن۔ دور زدن۔ چرخیدن۔ پیچانیدن۔ پیچ کردن | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | گران بہا۔ گران قیمت۔ گران مایہ۔ گران قدر   |
| انتقام۔ کیفر۔ مجازات۔ کینہ جوئی۔ تلاñی عینی۔ قصاص بعین                      | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | اسلاف۔ آبا و اجداد                         |
| سُنگ ترازو  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | سرور۔ کلان۔ عظیم۔ بزرگ                     |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | ظلوم                                       |
| شگاف۔ چاک   | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | جم غیر                                     |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) |
| تالار   | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | شہاد۔ شہاد                                 |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | تریخ دادن۔ چراغ خاموش کردن۔ چراغ اکٹھن     |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | دالان۔ دالانہ                              |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | قاوس                                       |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | جہد جیہد۔ جمد بیغ                          |
| دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)                                  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | سُجل                                       |
| خرپشہ۔ خرابار   | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | خرگاہ                                      |
| خرگاہ   | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی)  | دُنگانی ہے لَ (آمیڈ کی) وندن بیگ (آمیڈ کی) | خرگاہ                                      |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| وڈا سرداڑا                                    | دراب                               | وڈکھا کارا (ہاکام) وڈکھا کارا (ہاکام)         |
| وڈا سال                                       | طاں                                | وڈکھا کارا (ہاکام) وڈکھا کارا (ہاکام)         |
| وڈا نگار                                      | شر                                 | کشناز نمگانی۔ قتل عام                         |
| وڈاپلن  | جلالت                              | جزر   |
| وڈاپیار                                       | سائین۔ رطل گران                    | برندہ۔ درود                                   |
| وڈاپل   | قطرہ۔ پل بزرگ                      | رشوت۔ آنچہ بکسی دہنبر ای کارناڑا وغیرہ شرد طی |
| وڈا بازار                                     | شہباز                              | وڈھی خور                                      |
| وڈا برا                                       | دادا                               | رشوت خور۔ رشوئی۔ مرشی                         |
| وڈا رخ  | سرخ                                | مصنافت  |
| وڈا۔ وڈے                                      | بڑا                                | وڈھی دلی                                      |
| بزرگ تر۔ آدم سال خورده۔ پیر مرد۔ بیا۔ جد۔ سلف | ستایش کردن۔ تعریف کردن۔ ستودن۔ مدح | سوڈاگری۔ بازارگانی۔ تجارت۔ داد و ستد          |
| حر۔ باد اد۔ صبح                               | کردن۔ تمجید کردن۔ شریدن            | خریدن۔ خرید کردن۔ خریدن و فرھن۔ تجارت         |
| وڈیاٹا  | منظم شدن                           | کردن۔ سوڈاگری کردن۔ خرید و فروش کردن          |
| وڈیاٹی  | عظامت۔ بزرگی                       | وڈھنے کرنا                                    |
| وڈیاٹا جانا                                   | امبار۔ بزرگان                      | داد و ستد کردن                                |
| وڈیاٹی  | وقاۓ                               | وڈھا را                                       |
| وڈیاٹی  | وڈیاٹی                             | بازارگان۔ تاجر۔ سوڈاگر۔ دورہ گرد۔ دست فروش۔   |
| وڈیاٹی  | وڈیاٹی                             | خرده فروش                                     |
| وڈیاٹی  | وڈیاٹی                             | شرتاش   |
| وڈیاٹی  | وڈیاٹی                             | فطین  |
| وڈیاٹی  | وڈیاٹی                             | وڈھ   |
| وڈیاٹی  | جزیل                               | بیشتر۔ زیادت۔ اضافی۔ افزودہ۔ زائد۔ فاضل       |
| وڈیاٹی  | زندہ رو۔ شط                        | بیش و کم                                      |
| وڈیاٹی  | خشن                                | وڈھ و ٹھک                                     |
| وڈیاٹی  | باہو                               | وڈھ چڑھ کے                                    |

|  |   |  |
|--|---|--|
| دیوانہ دار                                     | دینگی (نام: ایٹھیک) و نگی                                     | نمونہ۔ الگو                                |
| وہلنا (امیت کی)                                | وہلنا (پا) و دھنٹا  | تجارت                                      |
| فزودن۔ افزودن۔ زیادہ نمودن۔ اضافہ نمودن۔ علاوه | وہلک (ہی) و پارک  | تجارتی                                     |
| کردن۔ بالیدن                                   | وہلک سمجھی (ہاکاں) و پارک سمجھی                               | مال تجارت                                  |
| وہلنا ڈٹلن (امیت کی) و دھنٹا ڈٹلن              | وہلک کمپنی (ہاکاں) و پارک کمپنی کپنی                          | شرکت تجارتی                                |
| افزودن و کاستن                                 | وہلنا ڈٹلن (امیت کی) و دھنٹا چلن                              | تجارت کردن                                 |
| کامران شدن۔ خوش بخت شدن۔ پیش رفت کردن۔         | وہلک کرنا (ہی) و پارک کرنا (امیت کی)                          | دکان بالاگر فتن                            |
| بالاگر فتن۔ ترقی کردن۔ رشد کردن                | وہلک ہیس ہاپا ہولنا (نام: پا) و پارک ہیس ہاپا ہولنا (نام: پا) | بازرگان۔ سوداگر۔ تاجر                      |
| ڈپ ڈے ڈپ                                       | وہلک توں و دھ (ہی) و دھ توں و دھ                              | وہلکیاں (ہی) و پاریاں (ہی)                 |
| اضافہ  | وہلک (نام: پا) و دھا  | تجار۔ تاجر ان۔ بازرگان                     |
| وہلکیاں (امیت کی)                              | وہلکی دئی (امیت کی) و دھا کی دئی                              | وہلکی روگ (نام: پا) و بائی روگ             |
| اضافہ کردن۔ اضافہ نمودن                        | تبریک۔ تہنیت  | امراض مری                                  |
| وہلکی (نام: ایٹھیک) و دھا کی                   | تبریک گھن۔ مبارک گھن یا خواندن۔ شارباش گھن۔                   | بخشش۔ احسان۔ برکت۔ دعای خیر                |
| تہنیت گھن                                      | تہنیت گھن   | فراداں خشیدن                               |
| وہلکیا (ہی) و دھا                              | تشنگ۔ خوب۔ نیکو۔ عالی تر۔ بالاتر۔ بہتر۔ نیک۔                  | وہلکیا خانہ                                |
| وہلکیا شربت                                    | وہلکیا شربت   | اوراق                                      |
| وہلکیا تیرتاں                                  | وہلکیا تیرتاں   | باران۔ بارش                                |
| وہلکیا اپلن                                    | وہلکیا اپلن   | طبقہ                                       |
| برتری۔ سی۔ بالا رتی۔ تفوق۔ فضیلت۔ مزیت         | وہلکیا تیرتاں   | وہلکیانیدن                                 |
| وہلکی کی                                       | وہلکی کی  | مانند۔ ہمانند                              |
| زیادتی۔ زبردستی۔ تجاوز۔ بی اعتمادی۔ ہنگ شرف۔   | وہلکی کی  | طبقات                                      |
| امنگاب۔ انگیزش۔ بی حرمتی                       | وہلکی کی  | دستہ بندی۔ طبقہ بندی۔ سلسلہ بندی           |
| اضافہ  | وہلکی کی  | وہلکی کرنا (نام: پا) و دھکی کرنا (نام: پا) |
| ریگ۔ قام۔ ریگ رو۔ بشرہ                         | وہلکی کی  | وہلکی کرنا (نام: پا) و دھکی کرنا (نام: پا) |
| وہلکی کی                                       | وہلکی کی  | وہلکی کرنا (نام: پا) و دھکی کرنا (نام: پا) |

|  |  |
|--|--|
| غد غن کردن۔ چشم زنی کردن               | مذکور۔ مذکورہ بالا (۷۶) و رنست               |
| ممنوع۔ ننی شده (۷۶) و رجت              | مذکور۔ شوہر دار۔ وابستہ بننا شوئی            |
| وڑلئن جے گ (۷۶) ورنی بیوگ              | اسکنه  |
| شرح دادنی۔ قابل توصیف۔ قابل تعریف۔ وصف | شخص شجاع۔ آدم دلیر                           |
| پذیر۔ قابل ذکر۔ واجب الاظهار           | و رنیم (۷۶) ورنی بیوگ                        |
| وڑلئن اڈمیک (۷۶) ورنی تکمک             | قابل عروسی۔ درخواز عروسی۔ بالغ               |
| توصیلی۔ تشریحی۔ تو ضمی۔ تفسیری         | سال  |
| وڑلئن ماں (۷۶) ورنی ایٹلین             | وڑھا (۷۶) ورھا                               |
| حروف تجھی۔ الفباء                      | وڑھیں (۷۶) ورھیں                             |
| وڑلئن (۷۶) ورتن                        | باریدن۔ پاشیدن۔ رختن                         |
| استعمال۔ مصرف۔ مرادہ مجلسی۔ معاملہ     | آواره  |
| بے کاربردن (۷۶) ورتنا                  | و راحچ (۷۶)                                  |
| وڑلئن (۷۶) ورتمن شناسک                 | دست پیان۔ شیر بہا                            |
| حاکم وقت                               | وڑھیں (۷۶) ورھیں                             |
| وڑلئن کال (۷۶) ورتمن کال               | سالیانہ۔ سال گره                             |
| عصری۔ زمان حال                         | مازن۔ شمکن۔ شنج                              |
| وڑت رکھنا (۷۶) ورتکرنا                 | و ل (۷۶) ول                                  |
| روزہ داشن۔ صوم داشن                    | وڑدیر (۷۶) ول چھل کرنا                       |
| سلوک۔ رویہ۔ روشن (۷۶) ورتارا           | و ل ڈل کرنا                                  |
| وڑتارا کرنا (۷۶) ورتارا کرنا           | و ل دار۔ پیچائیں۔ بسم                        |
| رفتار کردن۔ سلوک کردن                  | و ل پے جانا                                  |
| وڑتارا (۷۶) ورتارا                     | تاب خوردن                                    |
| بغش کنندہ۔ توزیع کنندہ۔ موزع           | و ل ہو جانا (۷۶) ول ہو جانا                  |
| وڑتیا جانا (۷۶) ورتیا جانا             | خوب شدن۔ بحال آمدن۔ صحت یاب شدن              |
| سرد رہیدن۔ بکاربردہ شدن                | و ل کرنا (۷۶) ول کرنا                        |
| وڑتی (۷۶) وروی                         | شفادرادن۔ خوب کردن۔ چارہ کردن                |
| فام۔ رنگ۔ لون (۷۶) ورن                 | پا تیل۔ دیگ۔ قزغان (۷۶) ول ٹوہہ              |
| رنگ شناسی (۷۶) ورن گیان                | و ل لانہ (۷۶) ول نا                          |
| طقم                                    | پیچیدن۔ پیچاندن۔ پیچ دادن۔ احاطہ۔ در بر کردن |
| وڑتی (۷۶) وروی                         | حلقة کردن                                    |
| فام۔ رنگ۔ لون (۷۶) ورن                 | و ل ہیگ (۷۶) ول ونگ                          |
| رنگ شناسی (۷۶) ورن گیان                | پیچ دخ                                       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| وَلَّا عِلْمٌ (امیت کی)                     | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)               | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                      |
| گول زدن۔ گیرانداختن۔ دست برداشتن۔ دست کشیدن | جیط (نہ، ایسٹلیں) وکن/چندھی               | نفس پرستی۔ شوانیت۔ لذت جسمانی۔ خواہش نفسانی۔ فتن |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | اُقْلِم                                   | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واسنامگی             |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)               | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واسنامگی             |
| خالق۔ گرد۔ ٹی۔ گیر آمادگی۔ پیچیدگی          | خالق۔ گرد۔ ٹی۔ گیر آمادگی۔ پیچیدگی        | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واسنامگی             |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | خراشیدن۔ حک کردن۔ بریدن۔ بانا خن کردن     | تغیر۔ تحر۔ بخار شدن۔ تبدیل بے بخار               |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | تمدہ (بہ) (نہ، ایسٹلیں) وڑبوسیں           | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واشپ کرن جو نہ ہوئی  |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | یثاق۔ عمد۔ پیمان                          | تغیر شدن۔ بخار شدن۔ تبدیل بے بخار شدن۔ ناپدید    |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | باد شکم۔ نفع شکم۔ باد مغافل۔ درد مغافل    | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واٹھ کرن کرنا        |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واکس چانسلر   | تغیر کردن۔ تبدیل بے بخار کردن۔ ناپدید کردن       |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | رئیس دانش گاہ                             | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واہر ک               |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | منزل۔ مادی                                | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واہن                 |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واس کرنا      | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واہ                  |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | ساکن بودن۔ منزل داشتن۔ مسکن کردن۔ بود باش | ارتباط۔ ربط۔ برخورد۔ تماں۔ عمل مقابل             |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | گزیدن۔ ماندن۔ سکنی گرفتن در               | نیرو۔ زور۔ قوت۔ توہانی                           |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واستووار      | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واہلا کنی            |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | واقع پرداز۔ اہل واقع                      | کوشش زیاد کردن۔ سعی کردن۔ کوشیدن                 |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | اعتقاد بوجود حقیقت در کلیات۔ واقعہ پردازی | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واهیات بکنا          |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واسوواری      | ورزدن۔ ورایج کردن                                |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)               | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واهیات بکوس          |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | واقع پرداز۔ اہل واقع                      | چرت و پرت  |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | اصلاً۔ دراصل۔ در حقیقت                    | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واهی                 |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | حقیقی                                     | کشت۔ کشاورزی۔ کشت و زرع۔ زراعت                   |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واستوک        | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واهی کرنی            |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واستوکتا      | شو میز کردن۔ شو میزیدن۔ زراعت نمودن۔ شیار کردن   |
| وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)                 | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں)               | وَلَّا عِلْمٌ (نہ، ایسٹلیں) واهی کار             |

|  |   |
|--|---|
| کشاورز۔ فلاں۔ دهقان۔ کشت کار۔ زراع               | (ہم) واچک ہاصل کیا                                  |
| ہائیوجہ (ہم) واعی یوگ                            | حاکی۔ دال۔ مشتر۔ مین۔ دلالت کنندہ۔ معنی دار۔ پرمعنی |
| قابل کشت کاری۔ قابل زرع۔ کشتی                    |   |
| ہاتھ لان (امیٹ کیا) واہنا                        | ہاتھ لانا (امیٹ کیا)                                |
| شتم کردن۔ شتم زدن۔ شیار کردن۔ کشت کردن در۔       | خواندن۔ (از راه خواندن) آگاہی یافت۔ از برخواندن۔    |
| زراعت کردن۔ کشت۔ خوب بکار کردن۔ گرداندن۔         | مطالعہ کردن (در)۔ خوب خواندن                        |
| (خط) کشیدن                                       | ہڈا خیڑ جانیاں (امیٹ کیا) واچکا کھڑ جانیاں          |
| ہارہلہاہی (کیا ہم) واحموداہی                     | بغایت شاد شدن۔ بسپار خر سند شدن                     |
| بہ سرعت۔ تند۔ زود۔ بطور پیوستہ۔ مصلح۔ دامہ۔      | ہجہ ہونا (امیٹ کیا) واجب ہونا                       |
| لا عطیخ۔ پی در پی                                | لازم شدن۔ اہمیت حاصل کردن                           |
| ہاک (ن) واک                                      | ہجہ مارنا (امیٹ کیا) واجہ مارنا                     |
| جمل۔ سخن۔ نطق۔ کلام۔ گفتار۔ کلمہ                 | صد اکردن۔ آواز کردن                                 |
| کلام موجز (ن) واک انش                            | اصوات   |
| ہاک۔ سکھتی (ن) ایسٹنی                            | ہاسا (ن) واجال                                      |
| قوت گویائی۔ ناطق                                 | ہاسی کرنی (امیٹ کیا)                                |
| ہاک۔ سے لئی (ن) واک سیلی                         | درود کاری۔ عمل درو                                  |
| انداز گفتار۔ شیوه سخن گوئی۔ اسلوب عبارت سازی     | ہاسی (امیٹ کیا) واٹسی کرنی                          |
| ہاک۔ ڈھل (ن) واک چھل                             | درود کردن۔ درودیدن و بریدن باداں۔ درودن             |
| زبان بازی۔ حیلہ بازی در سخن۔ پچیدہ گوئی۔ دو پسلو | ہاٹھے جا لانا (امیٹ کیا) واٹھے جا لانا              |
| گوئی۔ نیر گنگ در سخن۔ ایساام                     | بجائی دیگر رفت                                      |
| افسار۔ عنان۔ لگام (ن) واگ                        | فضا۔ ماحول  |
| فار (ن) واگ ڈور                                  | ہاتھاہرنا (ن) واستورن                               |
| ہاگہاٹنی (امیٹ کیا) واگ پھرنسی                   | ہادیہواہ (ن) وار ووار                               |
| جلوگر فتن۔ لگام گرفتن                            | ردو کد۔ ردو قدح۔ منازعہ در گفتگو۔ مباحثہ            |
| ہاگہاٹنی (امیٹ کیا) واگ موزنی                    | مباحثات (ہم) ماحول                                  |
| صرف عنان کردن۔ تغیر قصد و ارادہ کردن۔ عنان       | ہادیہواہ کرنا (امیٹ کیا)                            |
| تافتن  | کش مکش داشتن۔ مذاکرہ کردن                           |
| گله بان۔ چوپان۔ شبان۔ راعی (ن) واگی              | ہاندا (ہم) واندا                                    |
|  | اشغال نہ رہ۔ خالی۔ بیکار۔ غیر مشغول                 |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| ہائی-ڈاٹ                                    | (نام: ایٹلی) وارٹھ کھٹ   | ہو اف تار                               |
| افراط و تغیریت۔ بیشی دکھی                   |                          | ای راث                                  |
| اضافہ۔ افزایش                               | (پڑھ نام) وارٹھا         | سالانہ۔ سالیانہ۔ ہر سال                 |
| ہائی  | (نام: ایٹلی) وارٹھ کرنا  | ہائی                                    |
| اضافہ کردن۔ افزودن۔ افزاییدن                |                          | قط سالیانہ۔ حقوق یا وظیفہ مقرری سالیانہ |
| زائد / زاید۔ اضافی                          | (پڑھ) وارٹھو             | نشر                                     |
| ہائی  | کثرات                    | ہائی                                    |
| ہائیس آئیں                                  | (نام: ایٹلی) وارٹھے      | ہائی کار                                |
| مراجعت کردن۔ رجعت کردن۔ واپس آمدن۔ باز آمدن |                          | نشر نویں۔ نشر نگار                      |
| ہائیس کرنا                                  | (نام: ایٹلی) وارٹھ کرنا  | ہائی نگار                               |
| پس دادن۔ بر گرداندن۔ ستر دادن               |                          | عاری از لطف۔ کسل کنندہ۔ بی مزہ          |
| ہائیس بولائیں                               | (نام: ایٹلی) واپس بلاؤنا | نقل۔ روایت۔ گزارش۔ بیان۔ شرح            |
| فراخواندن                                   |                          | ہائی کار                                |
| ہائیس بھرنا                                 | (نام: ایٹلی) واپس موزونا | قصہ گن                                  |
| باز آمدن۔ مراجعت کردن۔ بر گھنن              |                          | راوی۔ ناقل۔ قصہ گو۔ داستان زن           |
| ہائیس مہرنا                                 | (نام: ایٹلی) واپس مورونا | ہائی لالاپ                              |
| فرام دادن۔ پس دادن                          |                          | مکالمہ۔ مذاکہ۔ گفتگو۔ صحبت۔ سخن         |
| ہائیس لے لئنا                               | (نام: ایٹلی) واپس لینا   | ہائی لالاپی                             |
| واپس گرفتن۔ واستاندن                        |                          | گفتگوئی۔ مکالمہ ای۔ محاورہ ای           |
| ہائیس گشت۔ معادوت                           | (پڑھ نام: ایٹلی) واپسی   | نوبت                                    |
| ہائیس رنا                                   | (نام: ایٹلی) واپرنا      | ہائی جاء                                |
| فراز رسیدن۔ واقع شدن۔ وقوع یا فتن۔ رو دادن۔ |                          | قربان شدن۔ قربان گھنن                   |
| روی دادن۔ اتفاق اتفادن۔ پیش آمدن            |                          | نوبت بہ نوبت                            |
| ہائی  | (پڑھ) دام                | ہائی واری                               |
| چپ۔ دست چپ۔ جناح چپ۔ مقابل۔ مخالف           |                          | ہائی واری / ہارے۔ ہائی                  |
| فوج ہوائی                                   | (نام: ایٹلی) واپسینا     | بطور مقاوم۔ یک در میان۔ بطور مقابل      |
| ہائی  | کرہ بار                  | (نام: ایٹلی) واری واری کرننا            |



|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| ہیماکوٹ (ہ) ویکل                      | مضطرب۔ پریشان                                  | مایہ ہیبت بارہ مت۔ شلگفت آور۔ حیرت انگیز۔ وجہ آور<br>۔ بابرکت                                   |
| ہیماکوٹا (ن) ایلیٹ                    | اضطرار   | ہیمس۔ مار سداہی (ن) وس مار دوائی  |
| ہیماخیما (ن) ایلیٹ                    | ترست۔ شرح                                      | تیاق۔ زہردارو۔ مادہ ضد سم   |
| ہیماخیما کار (ن) ایلیٹ                | شارح   | پرائلنڈ سازی (پ) وسر جن   |
| ہیماپر جامع۔ دسیع۔ مفصل۔ بسط (ہ) ویکپ | جامعیت   | ہیمسرنن (امیٹ کی)   |
| ہیماپرکتا (ن) ایلیٹ                   | ہیمسلن (امیٹ کی) وٹا                           | فراموش کردن۔ فراموش شدن۔ از یاد رفتہ۔ فرد<br>گذار کردن از۔ غفلت کردن (در آز)۔ نادیدہ گذشن<br>از |
| اعتماد کردن۔ تکمیل کردن۔ توکل کردن    | وستار۔ تفصیل (پ) (ن)                           | ہیمس۔ ہیمیا ان (پ) وس و گیان  |
| ہیمسڈار (پ) وستار پروک پڑھ ک          | تفصیل وار (ہ) وستار پروک                       | زہر۔ سم   |
| ہیمسڈان (ن) وستار پن                  | بر طرف سازی۔ دور سازی۔ جابجا سازی۔ تعویض       | ہیمسٹی (ہ) و شی   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | گذار دن چیزی بجائی چیز دیگر                    | زہر دادن (امیٹ کی) و ش کھوا دنا   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | قابل انجیار۔ آتش گیری۔ احتراق۔ برافروختی شدید  | فضلہ۔ سر گین  |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | قابل انجیار یا کنندہ (یا کنندہ)۔ قابل احتراق۔  | ہیمس م فرجہ (پ) و ش کون کوں کوں   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | محترق شوندہ (یا کنندہ)                         | ہیمس م سانحہ (ن) و ش سکھیا  |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک پار تھے         | مادہ محترقہ۔ مادہ قابل انجیار یا قابل احتراق   | عد د طاق۔ شمارہ فرد   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | حرف ندا  | ہیمس رام (پ) و ش رام  |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | سک شدن۔ تخفیف یا فتن۔ بحال آمدن۔ بجا آمدن۔     | استراحت۔ آرامش۔ سکون۔ دست کشی از کار۔   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | نیروی تازہ گرفتن۔                              | تعطیل موقت۔ در گن۔ وقفہ آرام۔   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | ترس (آئینہ با احترام)۔ وجود حال۔ بے خودی۔ خوشی | ہیمس رام کرنا (امیٹ کی) و ش رام کرنا کے پڑاتے   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | ۔ شلگفت۔ حیرت                                  | ہیمس رام چھ لارڈ (پ) و ش رام چھ لارڈ کے پڑاتے   |
| ہیمسڈنچی (ن) وس پھونک                 | ہیمس ماد جنک / ہیمس ماد مائی                   | آرام گاہ۔ تکمیل گاہ   |

| علیٰ تحقیق                     |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)         | ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ (ਨਾ: ਪ)                  |
| اسਤੋਵਾਦਾਖਣ - قطع ਵਾਥਨ          | ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਤ (ਨਾ: ਪ)                    |
| بد عمدی - عہد ੱਖਣੀ - ਪੀਏਂ ੱਖਣੀ | ਵਿਸ਼ਵਾਸਨਾਤਮਿਕ (ਪ) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ (ਪ)     |
| قابل اعتبار - معتبر            | ਵਿਸ਼ਾ - موضوع                         |
| مجਹ - موضع                     | ਵਿਸ਼ਾ (ਪ) ਵਿਸ਼ਾ (ਨਾ: ਪ)               |
| وسع                            | ਵਿਸ਼ਾਲ (ਵ)                            |
| خاصگی                          | ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ (ਨਾ: ਇਲਿੱਫ਼)               |
| خاص - محض                      | ਵਿਸ਼ੁੱਧ (ਵ) ਵਿਸ਼ੁੱਧ (ਪ)               |
| خاص - مخصوص                    | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਵ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਪ)               |
| خاص و عام                      | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਾਰਨ (ਵਾਕਾਂ) (ਵ)        |
| على الخصوص                     | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ (ਕਿਵਿਵ)                  |
| شخص                            | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ (ਵ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ (ਪ)             |
| شخص بودن                       | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਹੋਣਾ (ਅਮਿਤ ਕਿ)               |
| شخص                            | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ (ਨਾ: ਇਲਿੱਫ਼)               |
| خصائص - خصوصیات                | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਗੁਣ (ਵਾਕਾਂ) (ਵ)              |
| صفت                            | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਪ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾ: ਪ)         |
| صفتی - صفتی                    | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ (ਵ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ (ਪ)           |
| صفت - صفت - چੁਗੀ - خاصیت       | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ (ਨਾ: ਇਲਿੱਫ਼)                |
| خصومیات                        | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਵ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਨਾ: ਪ) |
|                                | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਵਤੀ (ਨਾ: ਪ: ਵਵ)            |

|  |   |
|--|---|
| خاصان  | فروش رفتی   |
| ہمہ-سُوری (نہ: ایلین)                              | ارزیدن  |
| فہرست مدرجات                                       | ہمہ-مُونگ (نہ: پی)                                |
| ہمہ-ہیکار  | مُورب۔ ارمی۔ قطری۔ وتر                            |
| محاصی۔ اعمال بد۔                                   | ہیکرال (ہمہ) کرال                                 |
| ہمہ-ہامنا (نہ: ایلین)                              | خوف ناک۔ زشت۔ وحشت انگیز۔ میب۔ مکروہ۔             |
| فلک شوانی۔ وابستگی بہ لذات جسمانی۔ شوت پرستی۔      | شوم۔ ٹعنع   |
| شوانیت۔ فتن  | ہیکرالڈا (نہ: ایلین) کرالا                        |
| ہمہلہا (ہمہ) وشیلا                                 | ترس ناکی۔ زندگی۔ زشی۔ خوف۔ ہراس۔ شناخت۔           |
| صحن۔ جبار۔ ساحت                                    | وقاحت   |
| فرصت۔ فراغت  | فروختگی۔ فروش                                     |
| ہیکل (نہ: ایلین)                                   | ہیکری (نہ: ایلین) کری                             |
| ہیکار (نہ: پی) وہار                                | ہیکری یوگ (ہمہ) کری یوگ                           |
| کار۔ عمل۔ پیشہ۔ حرف۔ کسب۔ سلوک۔ معاملہ             | قابل فروش۔ بازاردار                               |
| ہیکار دا بھرا                                      | فروشنده   |
| درست کار۔ درست حساب۔ راست کردار۔ امین۔             | ہیکرےتا (ہمہ) کرتیا                               |
| بیریا  | ہیکلپ   |
| ہیکار دا بھٹا                                      | شق۔ شق دیگر۔ عوض۔ بدل۔ برگزینی۔ اختیار۔ حق        |
| نادرست کار۔ بی امانت۔ مقلوب۔ دغل باز۔ کج خلق۔      | انتخاب  |
| بدمزاج   | ہیکلپی (ہمہ) کلپی                                 |
| ہیکاریک/ہیکاری (ہمہ) وہارک/وہاری                   | منادب۔ تبادل۔ اختیاری۔ دل بخواہ                   |
| پیش روی۔ حرفہ ای۔ پیشہ در۔ پیشہ دار۔ رسمی          | ہیکاس (نہ: پی) کاس                                |
| ہیکملا (ہمہ) کرنا                                  | ترقی۔ پیش رفت۔ توسعہ۔ افزایش۔ سیر تکامل۔ ارتقا    |
| شگوفہ کردن۔ نمو کردن۔ سبز شدن۔ بزرگ شدن۔           | قوت نامیہ (نہ: ایلین) کاس شکستی                   |
| زیاد شدن۔ افزونی یا فتن۔ نشوونما کردن۔ باز شدن۔    | ہیکاس شیل (ہمہ) کاس شیل                           |
| مراحل تکامل را پیوں                                | تکاملی۔ ترقی کنندہ۔ ترقی پذیر۔ مترقب۔ پیش رو ندہ۔ |
| ہیکٹ (ہمہ) کٹ                                      | افزوں شوندہ۔ ارتقا پذیر                           |
| دشوار۔ چیخیدہ۔ چیخ دریچ۔ تودر تو۔ پر گرہ۔ گرہ دار۔ | ہیکاس شیلنا (نہ: ایلین) کاس شیلنا                 |
| ترنناک۔ خوف  | ترقی پذیری۔ ترقی خواہی۔ پیش رو ندگی۔ افزوں شوندگی |

|  |   |
|--|---|
| دیکھاں کرنا (آمیڈ کی) وکھاں کرنا   | (۱۶) وکھاے دا                                       |
| ترقی کردن۔ نمو کردن۔ رو بکامل گزاردن۔ سمجھیں کردن۔ توسعہ یافت۔ بالا رفت۔ بالا آمدن | نمایش دار۔ خود نما۔ اشتباہی۔ تلقینی۔ دروغی          |
| دیکھاں ہادا (۱۷) وکھاں وار   | دیکھیاں اڑ (۱۸) وکھیات                              |
| عقیدہ باصول تکال مدرجی   | نمور۔ مشهور۔ معروف۔ نام دار۔ نای                    |
| دیکھاڑ (۱۹) وکار   | پر آگندہ سازی۔ اغتشار (۲۰) وکھیپن                   |
| فل بد۔ بدی۔ گناہ۔ محصیت۔ عصیان۔ فسار۔  | خم (۲۱) ونگ ونگ                                     |
| عیب۔ نقش   | ہینگ۔ ٹینگ۔ ٹینڈھ (۲۲) ونگ ٹینڈھ                    |
| دیکھاری (۲۳) وکاری   | ہینگا۔ ٹینڈھا (۲۴) ونگا ٹینڈھا                      |
| بد اخلاق۔ زشت رفتار۔ گناہ گار۔ عاصی۔ بکار۔   | کچ۔ خمیدہ۔ مخفی۔ پیچ و خم دار۔ نار است۔ غیر مستقیم۔ |
| شوت ران۔ ناقص۔ معیوب   | خہل۔  |
| دیکھیاں (۲۵) وکیرن   | جھینیدن   |
| پر تو افگنی۔ پر تو گستاخ۔ تمشح۔ تابش۔ پر تو  | دیگاڑ (۲۶) وکاڑ                                     |
| دیکھیورت (۲۷) وکیدھر   | فساد۔ فتنہ۔ بد کاری۔ شرارت۔ بدی۔ گزند               |
| عدم تمرکز دادہ۔ مرکز گریز  | خلل افکیدن (۲۸) وکاڑ پوٹا                           |
| عدم تمرکز (۲۹) وکیدھری کرن   | دیگاڑ (۲۹) وکاڑو                                    |
| دیکھیل لٹگرا (۳۰) وکولٹرا  | فاسد کننہ۔ خراب کننہ۔ ضائع کننہ                     |
| جد۔ سوا۔ علیحدہ۔ مجرما۔ متمایز۔ منفرد  | دیگیاں آن سٹاشر (۳۱) وکیان شاستر                    |
| دیکھی۔ اشقاں (۳۲) وکھنڈن   | علم طبیعت   |
| دیکھی کرن (۳۳) وکھی کرن  | حکماء (۳۴) وکیان دیتا                               |
| بی شاہت سازی۔ بی شاہی  | دیگیاپن (۳۵) وکیان پن                               |
| دیکھاں (آمیڈ کی) وکھاں   | چفتہ (۳۶) ونگی ٹینڈھی                               |
| دیکھاڈ (۳۷) وکھار  | دیگی (۳۷) ونگی ٹینڈھی لکیر                          |
| دیکھالا (۳۸) وکھالا  | خط مخفی   |
| خود نمائی۔ خود فروشی۔ فریبندگی۔ جلوہ   | دیگوں صلن (آمیڈ کی) وگچنا                           |
| دیکھالا کرنا (آمیڈ کی) وکھالا کرنا   | پڑھردہ شدن۔ خشک شدن۔ منقبض شدن / کردن۔              |
| نمایش دادن۔ نمودار کردن۔ ابراز کردن۔ خود نمائی                                     | تلف شدن۔ محروم شدن۔ بی برهہ شدن                     |
| کردن۔ خود فروشی کردن۔ وانمودن  | فقدان۔ کمی۔ عدم (۴۰) وکوچا                          |



|  |  |   |
|--|--|---|
| ہدیہرکا وچھوڑنا (آمیڈ کی)                  | جد آکردن   | فرق گذاشتن۔ مجر اکردن۔ فرق پیدا کردن              |
| ہدیہرکا (پ) (ن) وچھوڑا                     | جدا کردن   | ہدیہرکے دا لَا / ہدیہرکے بھریا                    |
| مفارقت۔ فراق۔ دوری۔ احساس۔ جد اشدگی۔       | جدا آئی۔ مجروری۔ فرق۔ مجر                        | (ہ) و تکرے والا / و تکرے بھرا                     |
| ہدیہرکا اے میل آپ (ہا کام) وچھڑا اتے ملا پ | بھرو صال   | بعیض آمیز۔ جانب دار۔ متعصبا نہ۔ تعصب آمیز         |
| ہدیہرکے (پ) (ن) وچھڑے                      | تغایق  | تفاوت   |
| ہدیہرکا                                    | و ظاب  | ہیں ہی (ست) (ن) و تھیا                            |
| ہدیہرکی (پ) (ن) وجہی                       | فایق   | در دوستی سر دشدن۔ بے زار شدن                      |
| فایق۔ شرف دار نہ۔ ر. جان دار نہ در فضیلت۔  | داستان   | ہدیہیا (ست) (ن) و تھیا                            |
| غالب                                       | سر جود۔ حاضر                                     | داستان۔ شرح۔ نقل۔ روایت۔ بیان                     |
| ہدیہ (ست) (ن) و بے                         | فتح۔ ظفر۔ فیر دزی۔ پیر دی۔ نصرت                  | ہدیہماں (ہ) درمان                                 |
| ہدیہتا (ہ)                                 | پیر دز۔ فاتح۔ مظفر۔ ظفریا ب۔ کشور گیر۔ کشور کشا۔ | ہدیہماں (ست) (ن) و دوست                           |
| جانستان۔ جمان کشا                          | جدا ساز نہ۔ فاصل۔ فصل کندہ                       | وجود۔ بود۔ ہستی۔ حضور۔ موجودگی                    |
| ہدیہ گاٹ بیک (ہ)                           | ذرق  | ہدیہ رہ۔ سر کشی۔ بغاوت (پ) (ن) و دروح             |
| جدا ساز نہ۔ فاصل۔ فصل کندہ                 | ہدیہ بسٹا (ن) و ہن بنا                           | ہدیہ رہ کرنا (آمیڈ کی)                            |
| ہدیہ (ست) (ن) و تھ                         | ریش خندہ۔ استہزا۔ سخنہ۔ مزاح۔ خوش مزگی۔          | باغی شدن  |
| ہدیہ (ست) (ن) و ت                          | شوخی   | ہدیہ رہی (ہ) و درویسی                             |
| صلاحیت۔ قابلیت۔ تو انائی۔ ظرفیت۔ الہیت     | تودیع۔ روانہ کردن۔ خدا حافظی کردن                | یاغی۔ نافرمان۔ متبرد۔ سر کش                       |
| ہدیہرکا (پ) (ن) و تکر                      | فرق گزاری۔ طرف داری۔ جانب داری۔ تعصب۔            | ہدیہ دھڑا (ست) (ن) و دوست                         |
| تغایق۔ جد اسازی                            | ہدیہرکا کرنا (آمیڈ کی)                           | علیست۔ فضیلت۔ افزونی در علم و معرفت۔ کمال در      |
| ہدیہرکا کرنا (آمیڈ کی)                     | ہدیہرکا  | فضل و ہنر۔ بزرگواری و بلندی درجہ                  |
|  |  | ہدیہ ایگنی (ست) (ن) و دو اگنی                     |
|  |  | ہدیہ کرنا (آمیڈ کی)                               |
|  |  | تو دیع۔ روانہ کردن۔ خدا حافظی کردن                |
|  |  | ہدیہ اک (ہ) و دیکی                                |
|  |  | وابستہ بے تعلیم و تربیت۔ معارفی۔ فر ہنگی۔ تعلیمی۔ |
|  |  | آموزشی  |
|  |  | ہدیہ ا (ست) (ن) و دیا                             |
|  |  | علم۔ دانش۔ معرفت                                  |
|  |  | ہدیہ ا-پرانالی (ست) (ن) و دیا پرانالی             |

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| روش   | نظام تعلیم و تربیت۔ دست گاه آموزش |  |
| روش دانی۔ علم اصول                          | لیخ (ن) و دھی گیان                |  |
| از روی اسلوب۔ با قاعده۔ بارو ش              | لیخ (ن) و دھی و ت                 |  |
| خلانیدن                                     | لیخ (ن) و نہنا (امیڈ کی)          |  |
| متواضع۔ حليم۔ فرد تن۔ خاضع                  | لیخ (ن) و نسر                     |  |
| خرابی۔ دیرانی۔ اندام۔ اخلاف۔ قلع قع۔ اعدام۔ | لیخ (ن) و ناش                     |  |
| نیست۔ فا۔ نیست شدگی۔ محدودی۔ نابودی         | لیخ (ن) و ناش ہونا                |  |
| فاشدن۔ نیست گشتن۔ مردن                      | لیخ (ن) و ناش کرنا                |  |
| فنا کردن۔ نیست کردن۔ نابود کردن۔ معدوم کردن | لیخ (ن) و ناش کاری                |  |
| دیران کنندہ۔ خراب کنندہ۔ مغرب۔ اخلاف کنندہ۔ | لیخ (ن) و ناش                     |  |
| برباد وہندہ                                 | لیخ (ن) و ناش مگی                 |  |
| فنا پذیر۔ دیران شدنی۔ خراب شدنی۔ قابل اندام | لیخ (ن) و ناش وار                 |  |
| مسک انکار ہست۔ مذہب نفی                     | لیخ (ن) و ناش                     |  |
| منکر ہست                                    | لیخ (ن) و ناش واری                |  |
| خوش دلی۔ خوش مزگی۔ مسخرگی۔ شوخی۔ خوش طبی    | لیخ (ن) و نور                     |  |
| خوش دشک۔ سر خوش۔ خوش گذارن۔ بذله گو۔        | لیخ (ن) و نوری                    |  |
| مضنک  | لیخ (ن) و کچھ                     |  |
| ضدیت۔ مخالفت                                | لیخ (ن)                           |  |

|       |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
| ہمپسی | مغلب۔ حریف۔ معارض (۱) و پکھنی<br>ہمپڈی (نام: ہمپلین) دپتی<br>ہمپریٹ (۲) | مغلب۔ حریف۔ معارض (۱) و پکھنی<br>اپٹلا<br>مغلب۔ بر عکس۔ منافی۔ برخلاف<br>ہمپل (۱) | ہمپان۔ چالک (۳) و مان جاک (۴) و مان<br>خلبان۔ پرواز کنندہ<br>ہمپما (ورش چھٹا) امیٹ کی (۵)                     | پس انگمن   |
|       |   | بی شر۔ بی فایده۔ ازا۔ بی مصرف۔ غیر مؤثر<br>ہمپلٹا (نام: ہمپلین) و پچلتی           | بی شر۔ بے فایدہ۔ نازی۔ ناسودمندی۔ بی مصرف<br>ہمپلٹا (نام: ہمپلین) و پچلتی                                     | ہمپڈن۔ میراث یافتہ۔ سودو نفع حاصل کردن<br>ہمپٹ (۶) و رکٹ |
|       |   | فاحشگی۔ جندگی۔ ہرزگی۔ شوت رانی۔ شوت پرستی۔<br>ہمپل (۷) نام: ہمپلین                | زنا۔ حرام کاری<br>ہمپشہ۔ زن بد کردار (۸) و بھچارن<br>ہمپشام۔ زن پر شوت (۹) و بھچارنی<br>ہمپشامی (۱۰) و بھچاری | آزادہ۔ تارک دنیا۔ مر تاض۔ عابد۔ ریاضت کش۔<br>زاهد        |
|       |   | زانی۔ مرد زنا کار۔ فاست۔ بد اخلاق۔ گناہ گار۔ عاصی۔<br>ہمپاش۔ بد کردن۔ فاجر        | ہمپشام۔ زن بد کردار (۸) و بھچارن<br>ہمپشام۔ زن پر شوت (۹) و بھچارنی<br>ہمپشامی (۱۰) و بھچاری                  | ریاضت۔ مر تاضی۔ زہد                                      |
|       |   | ہمپاگ (۱۱) و بھاگ   | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | ہمپل۔ چاک۔ فاصلہ گذاری                                   |
|       |   | ادارہ۔ شعبہ۔ رشتہ۔ بخش  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | درز۔ شکاف۔ چاک۔ فاصلہ گذاری                              |
|       | ہمپاری۔ شعبہ ای۔ رشتہ ای (۱۳) و بھاگی                                   | اداری۔ شعبہ ای۔ رشتہ ای (۱۳) و بھاگی  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | کشاد کشاد۔ نادر۔ کمیاب۔ غیر معمولی۔ گاہ گاہی             |
|       | ہمپاجن (۱۴)   | ادارہ۔ شعبہ۔ رشتہ۔ بخش  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | شیون۔ نالہ۔ فغان۔ زاری۔ عنزاداری۔ تعزیت                  |
|       | تھیم۔ قسمت۔ جد اسازی  | ادارہ۔ شعبہ۔ رشتہ۔ بخش  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی                                 |
|       | ہمپاصل (۱۵) و بھا جن ریکھا ریکھا  | ادارہ۔ شعبہ۔ رشتہ۔ بخش  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | موہیدن   |
|       | ہمپین (۱۶) و بھن  | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی                                 |
|       | ہمپڑی (۱۷)  | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | ٹھی۔ خالی۔ بی بہرہ۔ محروم۔ عاری                          |
|       | فضلت۔ خوبی۔ رفتہ۔ سر بلندی۔ جلال۔ عظمت۔                                 | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی                                 |
|       | قدرت۔ اقتدار۔ شرست۔ معروفیت۔ قدرت خارق                                  | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | خالی بودن۔ ٹھی بودن۔ محرومیت۔ بی نصیبی۔ بے               |
|       | العادہ  | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | چیزی۔ ٹھی دستی۔ فقدان                                    |
|       | طیارہ۔ ہوا پیا۔ آسمان پیا   | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی                                 |
|       | ہمپان (۱۸) و مان  | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | بی علاطفی۔ لا قیدی۔ بی علاطفی۔ کنارہ گیری۔ دست           |
|       |   | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | کشی ترک  |
|       |   | متفاوت  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی  | ہمپل (۱) و رل (۱۲) لیٹلی                                 |

|  |   |
|--|---|
| دالگزار ندہ۔ ترک کندہ۔ تارک۔ گوشہ نشین۔  | فروق مخالف (ہاکانش) وروہمی ٹولی               |
| منزوی  | ہیرپی ٹولی (ہاکانش) وروہمی پارٹی              |
| ہیراٹ (ہ) ورات   | حزب مخالف                                     |
| بزرگ۔ کلان۔ بسیار بزرگ۔ بسیار کلان۔ عظیم الجثہ۔  | ہیلمنڈ کرننا (آمیڈ کی) وابستہ کرننا           |
| خیلی زیاد  | دست داشتن۔ دری کردن۔ درگنگی کردن              |
| ہیرام (ہ) ورام   | ہیلماں (ہ) والاس                              |
| ایست۔ توقف۔ استراحت۔ آرامش۔ سکون۔ مکث  | خوش باشی۔ لذت کوئی۔ لابابی گری۔ ہرزگی۔        |
| ہیرپ (ہ) وردہ  | عیاشی۔ فاستانہ لا قیدی۔ عیش                   |
| مخالف۔ مقابل۔ بر ضد۔ مغایر   | ہیلماں تا (ہ) والستا (ہ)                      |
| ہیرپن (ہ) وروپن  | وابستگی بالذلت جسمانی۔ شوت رانی۔ عیش کوئی     |
| زشت۔ زشت سازی۔ سچ سازی۔ تغیر شکل۔ تحریف  | ہیلماں۔ ہیلماں (ہ) والاس بھون                 |
| ضد و تغییب۔ اختلاف۔ دشمنی۔ خلاف ورزی   | عیش گاہ۔ محل عیش و عشرت                       |
| ہیرپ کرننا (آمیڈ کی)   | ہیلماں۔ والاس وار                             |
| چپ سعن۔ چپ رستن۔ مخالفت کردن۔ شقائق  | اصول خوش گذران۔ پیر و مسلک عیش کوئی           |
| داشتن۔ طرفیت داشتن   | ہیلماں داری (ہ) والاس واری                    |
| ہیرپمانی (ہ) وروہمگی   | آدم خوش گذران۔ پیر و مسلک عیش کوئی            |
| مخالفت آییز۔ رقبانہ۔ دشمنانہ۔ خصوصیت آییز۔   | ہیلماں (ہ) والاسی                             |
| تناقض  | نفس پرست۔ ہوا پرست۔ شوت ران۔ ہرزہ۔ فاجر۔      |
| ہیرپاٹمک (ہ) وروہماجک  | فاس۔ بی عار و نابکار۔ بد کار۔ فاحش۔ زانی۔ عیش |
| ناجور۔ مقابین۔ تناقض۔ جدائی۔ جداول آییز۔ قابل  | پرست  |
| بحث  | ہیلمنڈا (ہ) والینتا (ہ)                       |
| ہیرپاٹھاس (ہ) وروہماجاس  | جدب۔ مجذوبیت۔ استغراق۔ حکیمت۔ یکی شدن         |
| ”صنعتی“ کہ عبارت است از بکار بردن یک اسم و یک صفت کے باہم مغایرت دارند۔ ”صنند و نقیض گوئی“ | ہیلمنڈ (ہ) ووش                                |
| ہیرپاٹھسی (ہ) وروہمار تھسی   | ہیلمنڈ (ہ) ووہر                               |
| متضاد  | شیوه۔ قاعدہ زندگانی۔ طریقہ کردار و عمل۔ روشن  |
| متخاصم   | ہیلمنڈ (ہ) ووکہب                              |
| ہیرپی (ہ) وروہمی   | ازدواجی۔ نکاحی۔ وابستہ بہ عروسی               |
|  | ہیلمنڈ (ہ) وواہت                              |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| متاہل۔ وابستہ بزناشوئی۔ زن دار۔ شوہر دار        | خلاف عقل (ہ) دو یک در روح             |
| دہل (پ) ووار                                    | دیہے ان (پ) دو یچن                    |
| بحث و مباحثہ۔ مناظرہ۔ مجادل۔ منازع              | بحث۔ مقاہل۔ رسالہ۔ مطالعہ تحلیل       |
| دہل پورن (ہ) واد پورن                           | دیہے ان مشکلی (پ) دو یچن مشکلی        |
| جدالی۔ مباحثہ ای۔ جدال آمیز۔ قابل بحث۔ قبل      | وقت نیزہ                              |
| مناظرہ۔ مورد نزاع۔ مقناع فیہ                    | دیہے ان کرنا (امیڈ کی)                |
| دہل دی (ہ) وادی                                 | بحث کردن                              |
| بحث کنندہ۔ منازع کنندہ۔ اہل مباحثہ۔ جدلی۔ مجادل | برزن                                  |
| کنندہ۔ سیزہ کنندہ                               | بیسٹ                                  |
| دیہی پ (ہ) وودھ                                 | بیہ                                   |
| مختلف۔ متفاوت۔ گونا گون۔ متفرقہ۔ متنوع۔ چند رو  | بیتم                                  |
| دیہی پڑا (ہ) (ن) وورھتا                         | برادر۔ ولیر۔ شجاع۔ دلاور۔ جسور۔ بہادر |
| تفاوت۔ اختلاف۔ عدم توافق۔ تنوع۔ گونا گونی       | بیڑ۔ کاہی (پ) ویر کاہ                 |
| دیہے ک (پ) (ن) دو یک                            | شعر رزمی۔ حماہ۔ رزم نامہ              |
| عقل۔ شعور۔ معقولیت۔ موافقت با عقل۔ قوہ درک      | مرگ شجاعانہ (ہ) (ن) ویر گتی           |
| ۔ قوت اور اک۔ قوت تعلق                          | (آب) نی۔ نطف                          |
| دیہے کشی ل (ہ) دو یک شیل                        | شجاعت۔ شامت                           |
| خود مند۔ دانا۔ عاقل۔ حکیم۔ فرزانہ۔ زیر ک۔ فہیم۔ | بی ر د (پ) (ن) ویر کھنی               |
| دور اندیش                                       | دی رتا رکھنی (امیڈ کی)                |
| دیہے کھیل (ہ) دو یک بین                         | شجاعت داشن                            |
| نا معقول۔ غیر منطقی۔ نادان۔ ناجزو               | بی ر شنبہ (پ) (ن) ویر دار             |
| دیہے کوہا د (پ) (ن) دو یک وار                   | قولج                                  |
| اصالت عقل۔ مسلک عقیلیں۔ اصول استدلال عقلی       | لباس۔ پوشاک۔ رخت                      |
| در مسائل دینی                                   | دی س (پ) (ن) ویسا                     |
| دیہے کوا دی (ہ) دو یک وادی                      | تجہ۔ روپی۔ جند۔ کسی۔ زن بد کار        |
| پیدا اصالت عقل۔ عقلی۔ "کسی کہ عقاید دینی را منی | دی س دا پلن (پ) (ن) ویسا پن           |
| بر استدلال عقلی می داند۔" مبنی بر استدلال عقلی۔ | تجہی۔ فاحشہ گری۔ زنا کاری             |
| معتقد پر اصالت عقل                              | دی س ل (پ) (ن) ویس ل                  |

|   |  |
|---|--|
| فراغت۔ فرست۔ آسائیش۔ آزادی از کار و شغل         | داردن                                    |
| ਵੇਹਲਾ   | ਵੇਲਣ (ن). وینਾ ਪੁ                        |
| عاطل (ਵਿ) وਿਹਲਾ                                 | ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਉਣ (ਅਮਿਤ)                  |
| دیدਨੀ۔ قابل دید (ਵਿ) وਿਖਣ ਜੋਗ                   | ਬੇਦੂਖੋਦਨ                                 |
| ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋਣ (ਅਮਿਤ) وਿਖਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋਣ (ਵਿਵਿ)   | ਵੇਲੇ-ਕੇਵੇਲੇ (ਵਿਵਿ)                       |
| ਕਿ  | ਗਾਹ ਬੀਗਾਹ۔ ਬੇਗਾਮ د بੀਹਾਮ۔ ਬੋਚਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ |
| ਵੇਖਣ (ਅਮਿਤ) ਕਿ                                  | ਨਦੀ۔ ਨਹੀਂ۔ ਸ਼ਿਓਨ (ਵਿ) (ਨ). ਵਿਣ ਵੈਣ        |
| ਦਿਦਨ۔ ਨਗਾਹ ਕਰਦਨ۔ ਮਥਾਹਦਾ ਕਰਦਨ۔ ਤਮਾਸਾ ਕਰਦਨ۔       | ਵੈਦ/ਹਕੀਮ (ਵਿ) ਵਿਦ/ਖ਼ਕਿਸ                  |
| ਨਗਰ ਯੋਤਨ  | ਵਾਰਾਕਨਦੇ۔ ਲਾਖ। ਟ੍ਰੈਬਿਊ। ਪ੍ਰੈਸ਼ੇਕ         |
| ਵੇਗ (ਵਿ) ਵਿਗ                                    | ਪ੍ਰੈਸ਼ਕੀ। ਟ੍ਰੈਬਾਟ                        |
| ਵੇਚਣਯੋਗ (ਵਿ) ਵਿਚਨ ਯੋਗ                           | ਵੈਦਗੀ (ਨ). ਇਲਿੱਗੀ                        |
| ਫਰੋਖ਼ਤੀ۔ ਲਾਈਨ ਫਰੋਥ                              | ਵੈਭਵ (ਨ). ਵਿਚਹੁ                          |
| ਵੇਚਣ (ਅਮਿਤ) ਕਿ                                  | ਵੈਰ (ਵਿ) ਵਿਰ                             |
| ਫਰੋਖ਼ਤੀ۔ ਫਰੋਥ ਕਰਦਨ۔ ਮਿਦਲ ਨਮੂਦਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਬੋਜ਼    | ਸ਼ਨਾਤ۔ ਦੁਡਾਤ۔ ਦੁਖਨੀ۔ ਉਨਾਦ۔ ਮਹਾਂਦਤ        |
| ਨਤੀ۔ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਦਨ                                | ਦੁਦ۔ ਦੁਖਨੀ۔ ਮਾਨਦ                         |
| ਵੇਦਨਾ (ਵਿ) ਵਿਦਾ                                 | ਵੈਰੀ (ਵਿ) ਵਿਰੀ                           |
| ਦੁਦ۔ ਰੁਖ۔ ਉਦਾਬ۔ ਏਨਾਵੇ۔ ਦੱਲ ਖੜੀ۔ ਫ਼ਾਰ۔ ਘੜ੍ਹਦਾਕੀ۔ | ਵੈਰੀ (ਵਿ) ਵਿਰੀ                           |
| ਮਚਿਬੀਤ۔ ਕਰਬ                                     | ਮਾਨਦਾਵਦਾਨ                                |
| ਵੇਰਵਾ (ਨ). ਵਿਰਾ                                 | ਰਾਇਵਾਨ (ਅਮਿਤ) ਵਿਕਾ                       |
| ਵੇਰਵਾ   | ਵੈਟ ਦੇਣ (ਅਮਿਤ) ਵਿਕਾ                      |
| ਵੇਰਵਾ   | ਵੈਟਰ (ਵਿ) ਵਿਰੂ                           |
|   | ਹਾਖ۔ ਰਾਇਵਾਨਦੇ                            |